

مقالات اہل الضلال من اصحاب دیوبند وفضائل اعمال

یعنی

دیوبندی اور زیستی جماعت کا تباہ کن صوفیت کا عقیدہ

مؤلف:

مولانا عطاء اللہ دریوی

معلومات و رابطہ:

Mtak32@yahoo.com

۱۶	انگریزوں کے ساتھ خضر علیہ السلام
۱۶	ایک ہندو قوم پرست کا تبلیغی جماعت پر اظہار طہانیت
۱۶	اسلامی تحریک کے قاتل کو جنت کا سرٹیفیکٹ
۱۸	محمد ﷺ کے نور سے اور باقی مخلوق ﷺ کے نور سے
۱۸	جماعت تبلیغ کی بنیاد اشرف علی تھانوی کی تعلیم عالم
۱۹	جماعت تبلیغ کی کرامت سے کھایا ہوا بکرا دوبارہ زندہ
۱۹	قبوں اور مزاروں کے ساتھ مسجد بنانا
۱۹	قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا
۲۰	قبوں میں تمام عبادات، نماز، اذان و تلاوت
۲۰	نبی کریم ﷺ کی روح بدن سے جدا نہیں ہوئی
۲۱	قبر سے بزرگ کی اپنے مہمانوں کی خیافت
۲۱	قبر سے جواب ”تیرامال محفوظ ہے“
۲۲	میت کا کشف
۲۲	جماعت تبلیغ کے جاہل مبلغین اپنی عاقبت کی فکر کریں
۲۳	رسول ﷺ نے قبر سے لوگوں سے مصافحہ کیا
۲۳	رسول ﷺ اپنی قبر سے نکل کر لوگوں کو ادھر ادھر
۲۴	قبر سے رسول ﷺ کی بڑھیا کو صبر کی تلقین

فہرست مضمایں

صفہ نمبر	عنوان
۱	مقدمۃ الکتاب
۷	تبلیغی دیوبندی جماعت کا تباہ کن صوفیت کا عقیدہ
۸	بانی جماعت کا قبروں پر مراقبہ
۸	اہل قبور سے فیض کا حصول
۸	تین سو اولیاء حرم میں ہر وقت رہتے ہیں
۹	تبلیغی جماعت دیوبندی جماعت ہے
۹	بانی جماعت صوفی تھے
۱۰	بانی جماعت نے سات برس کامل پانی نہیں پیا
۱۰	مولوی الیاس کی والدہ کا دعویٰ مجھے اللہ کھلاتا پلاتا ہے
۱۱	رسول ﷺ مولوی الیاس کے والد کے جنازہ کے
۱۱	معین الدین چشتی کو ایک صوفی نے کچھ کھلا کر صوفی بنایا
۱۲	جماعت تبلیغ کی غیبی آدمی سے تائید
۱۲	ہندوستان کی نسبت حجاز میں تبلیغ کی زیادہ ضرورت
۱۳	آپ ﷺ نے کبھی کفار کے ملک میں مبلغ نہیں بھیجے
۱۳	کفار کے ملک کی طرف قرآن لے جانے کی ممانعت

۳۹	تبیغی چلہ لگانے والا مجاہد کی موت مرتا ہے اور نہ لگانے والا.....
۴۰	تبیغی چلوں کی حقیقت کا انکشاف
۴۱	شاہ عبدالعزیز کی گپڑی
۴۰	صوفی اپنے آپ کو سور و کتے سے بھی بدتر سمجھتا ہے
۴۰	صوفیاء کتوں اور خنزیروں کو اپنا معبد سمجھتے ہیں
۴۱	بعض اولیاء ایسے ہیں کہ کعبہ خود ان کی زیارت کو جاتا ہے
۴۲	کعبہ شریف کے پتھر بول پڑے
۴۲	کعبہ کا طواف کیا لبیک کا جواب نہیں سناتا تو لبیک کا کیا فائدہ
۴۳	لوگ بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں اگر وہ اللہ کی پاک.....
۴۳	مسجدوں کے بجائے قبروں اور مزاروں پر چلے
۴۵	صوفیوں کا براہ راست اللہ تعالیٰ سے علم حاصل کرنے کا دعویٰ
۴۶	کتابوں میں کیا رکھا ہے کچھ سینے سے عطا فرمائیے
۴۷	اللہ کی طرف سے حاجی کو خط، تیرے اگلے پچھلے گناہ معاف.....
۴۷	صوفیوں کی طرف سے لوگوں کو جنت کے پروانے اور اللہ.....
۴۸	ستائیں سو میل سے صبح کی نماز مکہ میں
۴۸	حضر علیہ السلام پانچ نمازیں کہاں پڑھتے ہیں
۵۰	جب تک عشق پیدا نہ ہواں وقت تک ان واقعات پر.....

۲۲	نبی کریم ﷺ نے اپنی قبر سے عثمانؑ کو پانی کا ڈول پیش کیا
۲۵	رسول ﷺ نے اپنی قبر سے مسلمان کو سفر خرچ.....
۲۵	غیبی درہم
۲۶	رسول ﷺ کی قبر سے روٹی کی وصولی
۲۶	شرک و بدعت کی طرف دعوت دینے ایک اور کہانی
۲۶	درود پڑھنے والے کا آپ ﷺ نے منه چوم لیا
۲۸	جمعہ کی رات دنیا کے تمام ولی بیت اللہ میں جمع ہوتے ہیں
۳۰	نبی کریم ﷺ کی قبر کی زیارت کرنے والا یہ سمجھے کہ میں.....
۳۲	رسالہ فضائل حج کی تالیف پر بشارت
۳۲	رسول ﷺ کے سر پر انگریزی ٹوپی
۳۵	رسول ﷺ علماء دیوبند کے شاگرد
۳۵	رسول ﷺ آسمان سے مدرسہ دیوبند کا حساب لینے آئے
۳۵	شیطان کبھی بزرگوں کی شکل بنانا کر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے
۳۶	دعا بزرگوں کے ویلے سے مانگنی چاہیے
۳۷	بزرگوں کی قبر پر دعا کرنا، رسول ﷺ کے بالوں نے.....
۳۸	جماعت تبلیغ کا دوسرا جماعتوں کے ساتھ سلوک
۳۸	تبلیغ پر نکلے ہوئے مرد کی نظر اگر حاملہ عورت پر پڑ جائے.....

۷۳	اپنے یہودی پیر سے میر اسلام کہنا	۵۱	اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے ہر جگہ نہیں
۷۵	ستر کروڑ نیکیاں	۵۲	حلول کا عقیدہ
۷۵	شیخ کی روح کسی خاص جگہ مقید نہیں بلکہ وہ اپنے مرید.....	۵۳	ظہور و حلول میں فرق
۷۶	پیر اور شیخ کا اصطلاحی عالم ہونا ضروری نہیں	۵۸	عقیدہ وحدت الوجود
۷۶	مزاروں کا چڑھاوا اور علماء دیوبند	۵۹	جبرائیل کون تھے؟ محمد ﷺ خود جبرائیل تھے
۷۶	خواجہ ابی ہریکے مزار پر مراقبہ	۵۹	صوفیاء کے نزدیک حلوا و غلاظت دونوں ایک چیز ہیں
۷۷	پیر کامل اگر جانماز کو شراب سے رنگ دینے کا کہے تو.....	۶۱	آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے اس لئے سجدہ کیا کہ وہ.....
۷۷	شاہ عبدالعزیز و سید احمد بریلوی کے آستانے کے کتے.....	۶۲	سورج چاند ستارے رب تعالیٰ کے مظاہر ہیں ابراہیم.....
۷۷	تلہنگ شریعت، طریقت اور حقیقت تینوں کو جامع ہے	۶۳	شیطان کا جنت میں جانے کے مسئلہ پر صوفی سہل.....
۷۷	صوفیاء کے نزدیک طریقت و حقیقت کیا ہے	۶۴	اویاء اللہ تعالیٰ کی صفت سے متصف ہو سکتے ہیں
۷۸	ایک مرید کا خواب کہ پیر کی انگلیاں شہد میں اور مرید کی.....	۶۴	دنیا میں کوئی کسی پر ظلم کرے تو صوفی کہتا ہے کہ.....
۷۸	عشاق کی جنت وہ ہے جس میں دوست کی ملاقات ہو اور.....	۶۴	دیوبندی و تبلیغی جماعت کے شیوخ واکابرین کا پیر.....
۷۸	تلہنگ سے مولانا تھانوی کو ایصال ثواب	۶۵	صوفی کا اپنا کوئی رنگ نہیں ہوتا
۷۹	جماعت تبلیغ کے کارکنان کو مخالفین کی بات نہ سننے کا حکم	۶۸	کفر و ایمان کی تفرقی بے معنی ہے
۷۹	سمندروں اور دریاؤں پر صوفی کی حکومت	۷۰	رسول ﷺ کا سَنَات کی اصل تھے
۸۱	یہاں کے زندہ تو زندہ مردے بھی لڑتے ہیں	۷۰	اصحاب خدمت ابدال
۸۱	دیوبندی علماء بزرگوں کی کرامات، کوادیوبندی نہ ہب.....	۷۲	ولایت کے شنوں

۹۰	انسان کا ظاہر عبد اور باطن حق ہے	۸۲	قاسم نانو توی صاحب نے زندہ آدمی کا جنازہ پڑھا وہ.....
۹۰	کلمہ توحید بھی شرک ہے	۸۳	ابوالوقت اولیاء
۹۱	الصوفی حوالہ اللہ - صوفی ہی اللہ ہے	۸۳	قبروں پر قبّہ بنانا
۹۱	دیوبندی اکابرین کا عقیدہ ختم نبوت ﷺ ایک نہیں سات ہیں	۸۳	مرنے کے بعد بھی بزرگوں کے فیوض و برکات باقی رہتے ہیں
۹۳	سلوک ایک اہم ترین رکن توحید مطلب	۸۳	صوفی جنید کی نظر پڑنے سے کتابِ کمال ہو گیا
۹۷	حفیہ دیوبندیہ کا قرآن کے بارے میں عقیدہ	۸۳	صوفیاء کے دو اسلام
۹۹	قرآن کو بوسہ دینا اور چونما اس لئے کہ وہ کلام اللہ ہے	۸۳	سات اولیاء نے اپنے بدن کا گوشت اللہ کے نام پر.....
۱۰۰	ایک صوفی کا خواب کہ رسول ﷺ اپنی قبر مبارک میں.....	۸۵	لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَرِيمٌ
۱۰۱	اپنے بعدتی پیر سے ہمارا بھی سلام کہنا	۸۶	مرتبہ حق ایقین پر پہنچنے سے تکالیف شرعیہ ساقط ہو جاتی ہیں
۱۰۱	وحدة الوجود کی ایک اور مثال	۸۶	بعض کتابوں میں ابلیس کی مدح پائی جاتی ہے
۱۰۲	عارفین کی جنت میں نہ حور ہو گی اور نہ قصور مگر یہ کلمہ.....	۸۶	اللہ کی زیارت کرنی ہے تو عشاء کی نماز نہ پڑھ
۱۰۲	ایک صوفی نے اپنے پیر کو خاوند سے تعبیر کیا	۸۷	وقت نزع کلمہ پڑھنے سے انکار
۱۰۳	خدا کو خدا سے کیا ڈر	۸۷	عورت مظہر مرد کی اور مرد مظہر حق کا ہے
۱۰۳	رمضان میں بیس تراویح کے حساب قرآن ختم کرنے.....	۸۷	جو کچھ اللہ کے سوا ہے وہ اس کے اسماء و صفات ہیں
۱۰۴	عقائد علماء دیوبند ماخوذ از محدث علی المفہد	۸۸	بعض لوگوں نے حضرت حق کو ابو بکر صدیق کی شکل میں دیکھا
۱۱۲	قطب الارشاد مولانا رشید احمد گنگوہی کا فرمان	۸۹	مطلوب کا تصور شیخ کی صورت میں کرنا جائز ہے
۱۱۸	فرعون کے انا الحق اور حلاج کے انا الحق کہنے میں کیا فرق ہے	۸۹	ذکر نفی و اثبات

- انسان عالم صغير ہے یا عالم کبیر ۱۱۹
- صوفی نے دیکھا میں کائنات کو پیدا بھی کر رہا ہوں اور ۱۱۹
- شخیا قوت عرشی کی وجہ تسمیہ ۱۲۰
- صوفی تلخ اور بد بودار چیزوں کو انتہائی لذت و خوشی ۱۲۰
- صوفی اللہ تعالیٰ کو دنیا میں اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح ۱۲۱
- لفظوں کے پچاری علماء ۱۲۱
- مسئلہ تو حید خالی کتابوں سے حل نہیں ہوتا ۱۲۱
- صوفی کا نور جہنم کو ٹھنڈا کر دے گا ۱۲۲
- کشف ذات ۱۲۲
- ہمہ اوست ۱۲۲
- اللہ کی طرف سب سے قریب راستہ ۱۲۳
- حقیقت محمد یہ۔ جسے تم محمد ﷺ کہتے ہو وہ ہمارے نزدیک ۱۲۳
- صوفیاء کے قول سید عبدالقادر جیلانی کی مجلس میں انبیاء ۱۲۴
- شاہ ولی اللہ اور صوفیت ۱۲۴
- ولیاء میں صدیق کے درج تک پہنچنے کیلئے زندیق ہونا شرط ہے ۱۲۶
- ولیاء اللہ اپنی ولایت کو چھپانے کے لئے گناہ کرتے ہیں ۱۲۷

پھر مامون رشید کی خلافت میں فتنہ خلق قرآن کھڑا ہو گیا اس فتنے میں مامون رشید نے بنفسہ حصہ لیا اس کو خوب پروان چڑھایا اس کی مخالفت کرنے والوں میں سے بعض کو تختہ دار پر چڑھا دیا گیا اور بعض کو جیلوں میں ڈال دیا گیا، اس فتنے میں امام احمد بن حنبلؓ مامون کے سامنے سیسے پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہو گئے، سالہا سال تک قید و بند کی صعوبتوں کو برداشت کیا، اللہ تعالیٰ نے امام احمدؓ کو اس میں کامیابی عطا فرمائی، انہوں نے اس فتنے کو آگے بڑھنے سے روک دیا، اس امت میں فتنہ خلق قرآن سے بڑھ کر ایک اور فتنہ نمودار ہو گیا، یہ فتنہ عقیدہ وحدۃ الوجود اور حلول کا عقیدہ تھا۔ ایک شخص حسین بن منصور الحلاج اس امت میں پیدا ہوا جو اس عقیدے کا حامل تھا۔ وہ اپنے آپ کو ”انالحق“، یعنی خدا کہنے لگا اور اسی عقیدے کی بنیاد پر اس کو سولی پر چڑھایا گیا۔ اس کے قتل سے فتنہ ختم نہیں ہوا لیکن اس کے ماننے والے خوف سے اپنا حلیہ بدلنے پر مجبور ہو گئے انہوں نے نئی نئی اصطلاحیں جاری کیں، نئے نئے الفاظ وضع کئے جن کے اندر انہوں نے حلاج کے مذہب کو چھپا لیا۔ انہی اصطلاحوں میں سے وحدۃ الوجود، وحدۃ الشہود، حلول اور ظہور کی اصطلاحیں ہیں۔ جب تک حکومت اسلامیہ میں اسلامی حدود پر عمل ہوتا رہا کسی ایسے زندقی و ملحد کو زندہ نہیں چھوڑا گیا جس نے قرآن و سنت کی مقرر کردہ حدود کو توڑ کر آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ اسی صحن میں جعد بن درہم اور جنم بن صفوان کو سزاۓ موت

بسم اللہ الرحمن الرحيم

مقدمة الكتاب

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد
جناب رسالت مآب ﷺ کی وفات کے بعد امت مسلمہ کے اندر رفتہ رفتہ بد عقیدگی کی خرابیاں پیدا ہونا شروع ہو گئیں اور آج تک اس میں اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے اس امت میں جب افتراق و انتشار پیدا ہوا تو اس وقت صحابہؓ کافی تعداد زندہ تھی۔ یہ افتراق جناب عثمانؓ کی شہادت سے شروع ہوا سب سے پہلا فرقہ جو اس امت سے علیحدہ ہوا وہ خوارج کا تھا۔ یہ فرقہ جنگ صفین کے اختتام پر ظاہر ہوا۔ پھر جناب علیؓ کے دور خلافت میں شیعہ فرقہ وجود میں آیا اس فرقہ کا بانی عبد اللہ بن سبا تھا جو باطن میں یہودی تھا ظاہراً مسلمان ہو گیا تھا اور جناب علیؓ کی ذات میں حلول کا قائل تھا، اسی طرح حسن بصریؓ کے شاگردوں میں سے کچھ لوگ ان سے علیحدہ ہو گئے ان کو حسن بصری کے ساتھ رہنے والوں نے معزلہ کا نام دیا، پھر مر جیہ، جہنمیہ، قدریہ وجود میں آگئے اور اس امت کے افتراق و انتشار کا سلسلہ شروع ہوا جو آج تک جاری ہے۔ ان مذکورہ بڑے بڑے فرقوں میں سے بعض فرقے بہت سارے فرقوں میں منقسم ہو گئے جیسا کہ خوارج اور شیعہ، ان دونوں فرقوں کے بیس بیس فرقے بن گئے

الاَللّٰهُ يَعْنِي میرے جبے کے اندر خدا ہی ہے اور انہیں ملحدین کی روشن پر چلتے ہوئے متاخر ہیں صوفیاء نے لفظ مظہر ایجاد کر لیا۔ لفظ مظہر دیوبندیوں و بریلویوں کے مشترک پیر و مرشد حاجی امداد اللہ کے کلام میں بہت ملے گا اور ان کے خلیفہ و جانشین شیخ اشرف علی تھانوی کی کتب اس سے بھری پڑی ہیں۔ لفظ مظہر کا معنی ہے اللہ تعالیٰ نے فلاں چیز میں ظہور فرمایا ہے یعنی اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے روپ میں دنیا کے سامنے آتا رہتا ہے۔ اس گمراہ عقیدے کی وضاحت ہم نے اس کتاب میں کی ہے۔ ان کے عقیدے کے مطابق دنیا کی تمام مخلوق میں اللہ تعالیٰ کی ایک ایک صفت ہے مگر انسان اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کا جامع ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی ایک صفت انسان کے علاوہ باقی مخلوق میں ہوئی تو وہ جزوی خدا ہوئی اور انسان مکمل خدا ہوا کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی تمام صفات موجود ہیں۔ اور انسان کیا کہاں خدا ہوا کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی تمام صفات موجود ہیں۔ اور حلاج کا یہ قول جس کو حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھا ہے کہ میری دھیشیتیں ہیں ایک ظاہر کی اور ایک باطن کی۔ میرا ظاہر میرے باطن کو سجدہ کرتا ہے۔ انہوں نے یہ بات اس سوال کے جواب میں کہی تھی کہ تم اپنے آپ کو خدا کہتے ہو تو نماز کس کی پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے یہی مذکورہ جواب دیا تھا۔ ان کا یہ جواب اس عقیدے کی بنیاد پر ہے کہ انسان کی روح مخلوق نہیں یہ خالق کی تجلی ہے۔ اس لئے یہ انسان خالق و مخلوق کا جامع ہے اس کا ظاہری بدن مخلوق ہے اور اس کی روح خالق کی روح ہے۔

دی گئی کیونکہ انہوں نے خدائی صفات کا انکار کیا مثلاً اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا، رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرمانا، اللہ تعالیٰ کا باصورت ہونا، اللہ تعالیٰ کا عرش پر مستوی ہونا یعنی بذاتہ ہر جگہ نہ ہونا، اللہ کے کلام کا حروف و الفاظ و آواز کے ساتھ ہونا وغیرہ۔ جعد بن درہم کو عید الاضحیٰ کے دن خالد القسریٰ نے قربانی کے جانور کی طرح ذبح کیا۔ خالد نے کہا لوگو! جاؤ اپنی اپنی قربانی کے جانوروں کو اللہ کے نام پر ذبح کرو میں جعد بن درہم کو ذبح کرتا ہوں یہی میری قربانی ہے۔ اسی طرح اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے موئیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام نہیں کیا کیونکہ اس کے خیال و عقیدے میں اللہ تعالیٰ کے کلام کے حروف ہیں نہ الفاظ اور اس کے کلام کی آواز بھی نہیں۔ اس لئے موئیٰ علیہ السلام نے جو آواز سنی تھی وہ اللہ تعالیٰ کی آواز نہیں تھی، وہ مصنوعی اور مخلوق کی آواز تھی، اس جرم میں اس امیر نے جعد کو قتل کی سزا دی کیونکہ یہ عقیدہ کفر وال حاد کا ہے۔ جب تک اسلامی حکمران اسلامی حدود کے نفاذ پر عمل کرتے رہے اس وقت تک ملحدین و مرتدین کے ساتھ یہی سلوک رہا، کسی کو اسلامی سزا سے نجات جانے کا موقع نہیں ملا۔ مگر جب اسلامی حکمرانوں نے اسلامی حدود کے نفاذ کو معطل کر دیا تو ملحدین نے پھر اپنا کام اعلانیہ طور پر شروع کر دیا انہوں نے اعلانیہ طور پر اپنے آپ کو خدا نہیں کہا لیکن ایسی اصطلاحیں جاری کیں جن کے توسط سے انہوں نے ربوبیت کا اظہار کیا جیسا کہ ابو یزید بسطامی کا قول : لیس فی جبتو

اللہ کا غیر ہے اور نہ ابلیس اس کا غیر ہے۔ اس کی وضاحت اس کتاب میں اس واقعہ میں آپ کو ملے گی جو اشرف علی تھانوی صاحب کے کلام سے ہم نے درج کی ہے، یعنی وہ واقعہ جس میں بیان ہوا ہے کہ ایک آدمی مست ہاتھی پر سوار ہو کر آرہا تھا اور یہ اعلان کرتا جا رہا تھا کہ میرا ہاتھی میرے قابو میں نہیں ہے اس سے بچو۔ ایک صوفی نے یہ سن کر کہا : خدا کو خدا سے کیا ڈر، وہ بھی خدا ہے میں بھی خدا ہوں تو ڈر کس بات کا۔ وہ ہاتھی کے قریب گیا ہاتھی نے اس کو مار ڈالا۔ یہ سن کر اس صوفی کے مرشد نے فرمایا : یہ ہاتھی اللہ کا مظہر مصلحتھا اور اس پر سوار آدمی اللہ کا مظہر ہادی تھا، اس صوفی نے مظہر مصلحت کو دیکھا، مظہر ہادی کو نہ دیکھا اس لئے ہلاک ہوا۔ یعنی اس مرشد نے اپنے صوفی مرید کی اس بات کو غلط نہیں کہا کہ یہ ہاتھی خدا تھا اور وہ صوفی بھی خدا تھا : بلکہ ہاتھی پر سوار آدمی کو بھی خدا کہا یہ تینوں خدا تھے۔ نعوذ بالله من الضلال۔

دیوبندیوں کے حکیم الامت سے سوال ہوا کہ جناب حلول و ظہور میں کیا فرق ہے؟ فرمایا جیسے انسان آئینہ دیکھتا ہے، آئینہ میں نظر آنے والی اس کی صورت اس کے ظہور کی مثال ہے، حلول کی مثال یہ ہے کہ جیسا کہ پانی میں شکر ملادی جائے اور یہ شکر پانی میں گھل کر پانی ہو جائے شکر کا وجود باقی نہ رہے۔ اس مثال میں مولوی اشرف علی صاحب نے حلاج کا دفاع کیا ہے کہ وہ حلول کا قائل نہیں تھا، ظہور کا قائل تھا۔ لگر حلاج کا اپنا قول جو خود اشرف علی صاحب نے ہی نقل کیا ہے

صوفیاء اس کو روحِ اعظم بھی کہتے ہیں، اس لئے صوفیاء کے مذہب میں خالق کائنات اگر موجود ہے تو اسی انسان میں موجود ہے اس انسان کے باہر اس کا کوئی وجود نہیں، اسی عقیدے کو وحدۃ الوجود کہتے ہیں۔ یعنی اس کائنات میں ایک ہی ذات کا وجود ہے اور وہ اللہ کا وجود ہے اس کے علاوہ اس کائنات میں کوئی دوسری چیز موجود نہیں ہے۔ یہاں ظاہر میں جو مخلوق نظر آتی ہے وہ اللہ کا غیر نہیں بلکہ اس کے اسماء و صفات ہیں جیسا کہ اس کتاب میں حاجی امداد اللہ کے کلام میں قرآنی آیت ”اللہ لا اله الا هو له الاسماء الحسنی“ (طہ :) کی تفسیر و تشریح میں بیان ہوا ہے۔ حاجی امداد اللہ نے صاف طور پر بیان کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ اس لئے ہوا کہ وہ اللہ کا مظہر تھے یعنی اللہ تعالیٰ آدم کی شکل و صورت میں ظاہر ہوا۔

اور حاجی صاحب نے یہ انکشاف بھی فرمایا کہ بیت اللہ کو بھی اسی لئے طواف کیا جاتا ہے کہ وہ اللہ کا مظہر ہے۔ یعنی اللہ کی ایک شکل و صورت ہے، وہ غیر اللہ ہوتا تو کبھی مسجدوالیہ نہ ہوتا۔ اور دیوبندیہ و بریلویہ کے پیر و مرشد نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ابلیس بھی اللہ کا مظہر ہے یعنی مظہر مصلحت ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی دو صفتیں ہیں ایک ہادی دوسری مصلحت یعنی ہدایت دینے والا اور گمراہ کرنے والا جیسا کہ قرآن میں ہے یضل به کثیرا و یهدی به کثیرا (البقرة :) اس لئے ابلیس اللہ کی صفت مصلحت کا مظہر ہے اور آدم اس کی صفت ہادی کا مظہر ہے۔ اس لئے نہ آدم

ہمارے زمانے کے صوفیاء جن کے عقائد و نظریات کی وضاحت کے لئے ہم نے یہ کتاب تالیف کی ہے اس ابن عربی کو اپنا امام و پیشوامانتے ہیں، اس کو شیخ محمد ذکریا کاندھلوی اپنی کتاب تبلیغ نصاب و فضائل اعمال میں شیخ اکبر قدس سرہ لکھتے ہیں، جس سے صاف طور پر ثابت ہے کہ یہ صوفیاء تبلیغی جماعت کے قائدین و پیشووا اور دیوبندی علماء اکابرین، اسی ابن عربی کے دین و مذہب پر ہیں۔ ابن عربی کے مذہب کی نشر و اشاعت حاجی امداد اللہ نے خوب کی ہے اور انہوں نے اپنے رسالے ”وحدة الوجود“ میں صاف طور پر لکھا ہے کہ دیوبندی اکابرین و شیوخ اس کے مذہب پر ہیں، اور وحدۃ الوجود کے عقیدہ پر ثابت قدم ہیں مگر چونکہ اس عقیدے کو چھپانا فرض ہے اس لئے وہ بظاہر اس کا انکار کرتے ہیں دیکھئے حاجی امداد اللہ کے رسائل پر مشتمل کتاب (کلیات امداد یہیص ۲۱۹) عقیدہ حلوں و وحدۃ الوجود پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جن صوفیاء نے خدائی دعویٰ کئے وہ اس دعویٰ میں حق پر تھے اور فرعون بھی حق پر تھا۔ اس بات کی توثیق شہادت یہ ہے کہ مولوی اشرف علی نے لکھا ہے کہ بندہ اپنے وجود سے پہلے خدا تھا۔ اس کا حوالہ کتاب میں ہے اور اس بات کا ثبوت کہ دیوبندی علماء و شیوخ اسی عقیدے پر ہیں اس کتاب کے اندر آپ کو ملے گا۔ اشرف علی صاحب کے خلیفہ خواجہ مجذوب نے حضرت کی سوانح حیات میں اشرف السوانح کتاب لکھی ہے انہوں نے لکھا ہے کہ مولوی اشرف علی صاحب نے وعظ کہنا موقوف کر رکھا تھا،

کہ میرا ظاہر میرے باطن کو سجدہ کرتا ہے۔ اشرف علی صاحب کے قول کی تردید کرتا ہے کیونکہ اس سے ظاہر ہے کہ وہ رب تعالیٰ کو اپنے اندر موجود مانتا تھا اسی لئے وہ کہتا ہے میرا ظاہر میرے باطن کو سجدہ کرتا ہے، تو اس کا باطن خدا ہوا۔ حاجی امداد اللہ اور ان کے مریدوں کے عقیدے کی اس بات سے وضاحت ہوتی ہے جو انہوں نے اپنے رسالے ”وحدۃ الوجود“ میں لکھا ہے انہوں نے لکھا ہے وحدۃ الوجود کی مثال یہ ہے جیسے کسی بڑے درخت کا نجح ہوتا ہے اس نجح کے اندر مکمل طور پر وہ درخت موجود ہوتا ہے مگر نظر نہیں آتا جب اس کو بویا جاتا ہے تو اس سے تمام ٹھنڈیاں ایسے ہی ظاہر ہو جاتی ہے جب درخت اگتا ہے تو درخت ہی نظر آتا ہے اس کا اصل نجح فنا ہو کر گم ہو جاتا ہے اسی طرح اس کائنات کی اصل اللہ کی ذات ہے جب اللہ نے کائنات بنائی تو وہ اس کائنات میں مخفی ہو گیا اب یہی مخلوق باقی ہے اس کا اصل ظاہر میں موجود نہیں یعنی اللہ کی ذات اس مخلوق سے باہر موجود نہیں۔ یہ ہے عقیدہ وحدۃ الوجود۔ درخت اور اس کے نجح کی مثال سے اس کائنات کا حقیقی وجود اور نعوذ باللہ رب تعالیٰ کا اس میں فنا ہو جانا ثابت ہوتا ہے۔ یہ دہریوں کا عقیدہ ہے جو اس کائنات میں رب کا وجود نہیں مانتے اور یہی عقیدہ فرعون کا تھا۔ شیخ ابن عربی صوفی نے فرعون کو مومن لکھا ہے (فصوص الحکم اردو ص ۲۰۰) اس کی دلیل اس نے یہ دی ہے کہ جب اس کائنات میں ہر شخص خدا ہے تو فرعون بادشاہ ہونے کی وجہ سے بڑا خدا ہوا۔

وحدة الوجود کی نہیں، وحدة الوجود کی صحیح مثال وہ ہے جو حاجی صاحب نے درخت اور اس کے نجح سے دی ہے، کیونکہ درخت بن جانے کے بعد نجح خود بخود کا عدم ہو جاتا ہے کسی شکل میں باقی نہیں رہتا۔

بعض لوگوں نے صوفیاء کی زندیقت والحاد پر مبنی اقوال کو جن میں انہوں نے اپنے آپ کو یا اللہ کے سوا کسی اور کو خدا کہا ہے، وحدۃ الشہود پر محمول کیا ہے یعنی ظاہر میں ان کو وہ چیز خدا نظر آئی اگرچہ حقیقت میں وہ چیز خدا نہیں مخلوق تھی ان کو نظر کا دھوکہ ہوا ہے جیسا کہ آگ بن جانے والا لوبہ، ظاہر میں آگ ہی نظر آتا ہے۔ اگرچہ در حقیقت اندر سے وہ لوہا ہی ہوتا ہے اس کو وحدۃ الشہود کہتے ہیں۔

وحدة الوجود پر مبنی صوفیاء کے اقوال کو وحدۃ الشہود پر محمول کرنا ڈوبتے کو تینکے کا سہارا لینے سے زیادہ کچھ نہیں ہے کیونکہ وحدۃ الوجود صوفیاء کے اقوال و ملفوظات میں واضح اور صاف ہے اس میں کوئی تاویل مفید نہیں ہو سکتی جیسا کہ اس کتاب میں درج اقوال سے معلوم ہوگا۔

حاجی امداد اللہ نے لکھا ہے خدا کو واحد کہنا تو حید نہیں واحد دیکھنا تو حید ہے (کلیات امداد یہ ص ۲۲۰) یعنی اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک سمجھنا تو حید نہیں بلکہ تو حید یہ ہے کہ اس کے سوا اس کا نہات میں کوئی چیز موجود ہی نہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات میں موجود ہر چیز اللہ کا عکس ہے۔ اسی کا سایہ اسی کا پرتو ہے ہرگز اس کا غیر نہیں۔ اور حاجی صاحب مذکور نے لکھا ہے ”معلوم شد کہ در عابد و معبد

ایک جلسے میں کچھ لوگوں نے وعظ کے لئے مجبور کرنا چاہا تو مولوی شاہ سلیمان پھلواری نے کہا کہ اگر اس حالت میں اس شخص نے وعظ کہلوایا تو..... میٹھتے ہی ان کے منہ سے جو پہلا لفظ نکلے گا وہ ہوگا۔ انا الحق۔ میں خدا ہوں (ص ۲۷)۔

سوال یہ ہے کہ مولوی اشرف علی صاحب کے منہ سے اس کلمے کے نکلنے کی وجہ کیا ہے؟ اگر یہ کلمہ ان کے نزدیک دہریت و زندیقت والحاد ہوتا تو اس کے نکلنے کا ہرگز امکان نہ ہوتا۔ اس لئے اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ انسان کا حق یعنی خدا ہونا اشرف علی صاحب تھا نوی اور ان کی تعلیم کے عام کرنے کے لئے بنائی گئی جماعت تبلیغ کے نزدیک حق و صواب ہے چونکہ اس کا عوام الناس سے چھپانا فرض ہے اس لئے عام حالات میں مولوی اشرف علی صاحب کے منہ سے اس کا نکلنا ممکن نہ تھا لیکن اس وقت جب ان کو وعظ کے لئے کہا جا رہا تھا حالت وجدان پر طاری تھی اس وقت ان کے منہ سے حق و یقین کلمہ کے نکلنے کا امکان تھا اس لئے اس حقیقت پر پرده رکھنے کے لئے ان سے وعظ کہلوانا موقف کر دیا گیا حاجی امداد اللہ صاحب نے رسالہ وحدۃ الوجود۔ کلیات امداد یہ ص ۲۲۱۔ ۲۲۲ میں یہ بھی لکھا ہے کہ وحدۃ الوجود کی مثال اس آہنی سلاح کی ہے جس کو آگ میں ڈال کر گرم کیا گیا ہو اور بظاہر وہ آگ بن گئی ہو اور اسی اثناء میں وہ نعرہ لگائے کہ میں آگ ہوں حالانکہ وہ فی الحقيقة سلاح ہی ہے لیکن اس کا اپنے آپ کو آگ کہنا بھی کوئی غلط نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں حقیقت میں یہ مثال وحدۃ الشہود کی ہے

قبوں میں وہ تمام کام کرتے ہیں جو دنیا میں کرتے تھے، بریلوی بزرگان کی کتابوں میں اس بات کی تصریح پائی جاتی ہے کہ انبیاء قبوں میں بیویوں سے شب باشی کرتے ہیں۔ اس بات کی صراحت بریلویوں کے امام و مجدد احمد رضا خان کے مفہومات ص ۲۷۶ میں موجود ہے۔ دیوبندیوں کی کتابوں میں اگرچہ اس کی تصریح موجود نہیں۔ مگر ان کا یہ قول کہ انبیاء اپنی قبوں میں وہ تمام کام کرتے ہیں جو دنیا میں کرتے تھے تو اس میں شب باشی بھی آگئی۔

اور تفسیر مظہری میں قاضی شناء اللہ پانی پتی جو خفی المسلط و صوفی المشرب ہیں لکھا ہے، شہداء اپنے دوستوں کی مدد کرتے اور اپنے دشمنوں کو ہلاک کرتے ہیں۔ اور حاجی امداد اللہ صاحب نے لکھا ہے : نماز پڑھنے والا جب ایسا ک نعبد کہے تو لا موجود الا اللہ کا یقین کرے۔ (کلیات امداد یہص ۵۹)

اور حضرت حاجی صاحب نے یہ بھی لکھا ہے :
ذات احمد ہے وہ بحر بیکر اس ☆ جس کا ایک قطرہ ہے یہ کون و مکاں۔
(کلیات امداد یہص ۱۵)

یعنی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا سمندر ہیں جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے بعوز باللہ من ذا لک۔
باتی تفصیلات کتاب میں ملاحظہ فرمائیے۔

امید ہے کہ ہماری اس کتاب سے دیوبندی و تبلیغی جماعت کا دین و مذہب و عقیدہ قارئین کرام کے سامنے واضح ہو جائے گا۔ بصہمیم قلب ہم اللہ قادر مطلق

فرق کردن شرک است،” (کلیات ص ۲۲۰)
اور حاجی صاحب نے لکھا ہے مبتدی کو لا اللہ کہتے وقت لا معبد، متوسط کو لا مقصود
یا لا مطلوب، کامل کو لا موجود اور ہمہ اوست کا تصور کرنا چاہیے۔ (کلیات ص ۱۵)
یعنی لا الہ الا اللہ کا جب کوئی شخص ورد کرے تو لا الہ کا معنی لا معبد سمجھے، اور جب
کوئی اوست درجہ کا صوفی و عارف ذکر کرے تو لا الہ کا معنی لا مقصود یا لا مطلوب
کرے، اور جب کوئی کامل عارف اس کلمہ کا ذکر کرے تو لا الہ کا معنی لا موجود
کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے زمانے کے صوفیاء بریلوی ہوں یا
دیوبندی یا تبلیغی جماعت والے ان کے لا الہ الا اللہ کہنے کا کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ
وہ اس کلمہ کا معنی وہ نہیں کرتے جو آج تک انہمہ سلف کرتے آئے ہیں۔ یعنی
لامعبد الا اللہ۔ بلکہ وہ اس کا معنی اپنے عقیدے کے مطابق لا موجود الا اللہ کرتے
ہیں، یعنی اللہ کے سوا اس کائنات میں کوئی چیز حقیقی و اصلی طور پر موجود ہی نہیں
ہے۔ ہماری اس کتاب میں اسی حقیقت سے پرداہ اٹھایا گیا ہے کہ ہمارے زمانے
کے صوفیاء بھی حلاج، فرعون اور ابن عربی جیسا عقیدہ رکھتے ہیں اس کے علاوہ
ہماری کتاب میں آپ کو یہ بھی ملے گا کہ دیوبندی و تبلیغی جماعت بریلویوں کی
طرح قبوں سے مدد مانگنے کو جائز سمجھتے ہیں ان کے عقیدے میں انبیا و اولیاء
اپنی قبوں میں اسی طرح زندہ ہیں جیسا کہ دنیا میں تھے۔ وہ اپنی قبوں سے
دوستوں کی مدد کرتے ہیں اور دشمنوں کو ہلاک کرتے ہیں اور یہ انبیاء و اولیاء اپنی

مقالات اہل الضلال

من اصحاب تبلیغی نصاب و فضائل
اعمال یعنی تبلیغی و دیوبندی جماعت کا
تباه کرن صوفیت کا عقیدہ :

نذهب حنفی دو جماعتوں میں منقسم ہے ایک دیوبندی، دوسرے بریلوی، دیوبندی
جماعت میں سے نصف صدی پہلے ایک جماعت تبلیغ کے نام سے بنی ہے۔ اس
جماعت کے بانی صوفی الیاس صاحب ہیں جن کی ولادت ۱۳۰۳ھ، مطابق
۱۸۸۲ء اور وفات ۱۹۲۲ھ مطابق ۲۶۳ء میں ہوئی تبلیغ کا حکم ان کو خواب
میں ملا۔ (ملفوظات الیاس، ملفوظ ۵۰)

مولانا الیاس صاحب اور دیوبندی جماعت کے اکابرین و شیوخ صوفی تھے۔
سید ابوالحسن علی میاں ندوی فرماتے ہیں : ”مولانا الیاس صاحب کا خاندان
صدیقی شیوخ کا معتبر گھرانہ تھا“، (مولانا الیاس اور ان کی دینی دعوت ص ۲۱)
اس کتاب میں علی میاں لکھتے ہیں : ”مولوی الیاس صاحب نے دس سال مولوی
رشید احمد گنگوہی کے پاس برس کئے ۳۵ مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی مشہور
صوفی بزرگ تھے ان سے ہی مولوی الیاس صاحب نے صوفیت کے سلسلوں پر
بیعت کی۔ کتاب مذکور کے ص ۵۲ پر علی میاں لکھتے ہیں مولانا الیاس صاحب ذکر

سے دعا گو ہیں کہ یہ کتاب ان لوگوں کے لیے راہ ہدایت بن جائے جو صدیوں
سے پھیلائی گئی صوفیت کے اندر ہیروں میں گم ہیں اور ابلیس لعین اور اسکے
حواریوں کی چالوں سے قرآن و سنت سے اعراض کو ہی دین سمجھے بیٹھے ہیں۔
اللهم اهدنا الصراط المستقیم۔ آمين۔

الحمد لله داولا آخرًا

عطاء اللہ ڈیروی

نوٹ: اس کتاب میں فاضل مؤلف کی تحریر کو منقول حوالہ جات سے میز رکھنے
کیلئے گرے یعنی سر مئی رنگ استعمال کیا گیا ہے تاکہ غلطی کا احتمال نہ رہے۔

مولانا نے کہا ہوتا ہے اور حدیث سے ثابت ہے حدیث شریف میں تھے ہے ایک صحابی نے قبر پر بھولے سے خیمہ لگایا دیکھا کہ مردہ بیٹھا ہوا قرآن شریف پڑھ رہا ہے انہوں نے سنا، اور قرآن سننے سے ثواب ہوتا ہے تو یہ فیض اہل قبور سے ہوا (الافتراضات الیومیہ ج ۲۲۹ ص ۲۲۹)۔ مولوی اشرف علی صاحب نے جس حدیث کا حوالہ دیا ہے وہ ضعیف ہے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے (تفسیر ابن کثیر اردو ص ۳ پارہ ۲۹)

اور الافتراضات الیومیہ ج ۳، ص ۱۱۱ میں ہے مولوی اشرف علی صاحب سے ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت قبروں پر جا کر فیض لیتے ہیں وہاں کس کا اذن ہو گا فرمایا وہاں اذن کی ضرورت نہیں اور الافتراضات الیومیہ ج ۹ ص ۲۳ میں یہ بھی ہے کہ مولوی اشرف علی صاحب فرماتے ہیں اس لئے میں جو اس عمل میں مشغول ہو تو اس مشغولی کی وجہ سے مجھ کو اس قدر ظلمت محسوس ہوئی کہ اس ظلمت کی مجھ کو برداشت نہ ہو سکی اور میں پریشان ہو گیا آخر میں نے چاہا کہ اس ظلمت کو کس طرح دور کروں تو سوچا..... کچھ عرصہ اہل نور کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے تو اس وقت زندوں میں سے کوئی ایسا نہ ملا کہ اس کے پاس بیٹھتا پھر تین کوئی کے فاصلے پر ایک بزرگ کا مزار ہے وہاں گیاتر وہ ظلمت دفع ہوئی۔

تمن سوا ولیاء حرم شریف میں ہر وقت رہتے ہیں
الافتراضات الیومیہ ج ۱۵۸ ص ۶ میں ہے حاجی صاحب نے فرمایا حرم شریف

کرتے تو ایک بوجھ محسوس کرتے حضرت (گنگوہی) سے کہا تو حضرت تھرا گئے اور فرمایا مولانا محمد قاسم صاحب نے یہی شکایت حاجی امداد اللہ صاحب سے فرمائی تو حاجی صاحب نے فرمایا اللہ آپ سے کوئی کام لے گا (کتاب مذکور ص ۵۵) آنے والے اوراق میں ہم نے جماعت تبلیغ اور دیوبندی علماء و اکابرین کے بارے میں انہی کی کتابوں سے ثابت کیا ہے کہ یہ دونوں جماعتوں صوفی ہیں۔

بانی جماعت کا قبروں پر مراقبہ

علی میاں فرماتے ہیں مولوی الیاس، عبدالقدوس گنگوہی کے روپہ کے پیچھے ایک بوریہ پر بالکل خاموش دوزانوں بیٹھتے (ص ۵۸) اور آپ سید بدایونی کے مزار کے قریب پھر وہ خلوت میں بیٹھتے۔ (ص ۱۷) حالانکہ مولوی الیاس صاحب کا عمل استمداد بالقبوں ہے اور قبر والوں سے فیض حاصل کرنے کا طریقہ صوفیانہ ہے مولوی الیاس صاحب کا تعلق جماعت دیوبندی سے ہے اور دیوبندی جماعت صوفیت کی راہ پر گامزن ہے۔

اہل قبور سے فیض کا حصول

اس لئے ان کے ہاں قبر والوں سے فیض ملتا ہے دیوبندی جماعت کے حکیم الامت اشرف علی صاحب سے سوال ہوا! کیا اہل قبور سے فیض حاصل ہوتا ہے؟

مجھے یاد آیا..... اس کے بعد علی میاں نے لکھا ہے (دوسرے مشائخ اور بزرگوں سے تعلق) اس عرصہ میں دوسرے مشائخ اور مولانا گنگوھی کے دوسرے خلفاء سے عقیدت مندی اور صحبت واستفادہ کا تعلق برابر قائم رہا شاہ عبدالریحیم رائے پوری، مولانا محمود الحسن تھانوی صاحب، (دیوبندی) اور مولانا اشرف علی تھانوی، سے ایسا تعلق تھا کہ فرماتے تھے یہ حضرات میرے جسم و جان میں بے ہوئے تھے۔ (مولانا الیاس اور ان کی دینی دعوت ص ۵۸، ۵۹)

بانی جماعت صوفی تھے

بانی جماعت تبلیغ مولوی الیاس صوفیت کے طریق کارپکار بند تھے یہ طریقہ گنگوھی کے صاحبزادے حکیم مسعود احمد صاحب کے ہاتھوں پروان چڑھا علی میاں ندوی فرماتے ہیں آپ ابتداء سے نحیف ولا غر تھے اسی گنگوہ کے قیام میں آپ کی صحت خراب ہوئی در درس کا ایک خاص قسم کا دورہ پڑا جسکی وجہ سے مہینوں سر کا جھکانا تکمیلی پر سجدہ کرنا بھی ناممکن تھا مولانا گنگوھی کے صاحبزادے حکیم مسعود احمد صاحب معانج تھے ان کا خصوصی طرز یہ تھا کہ بعض امراض میں پانی بہت دنوں کے لئے چھڑا دیتے تھے بہت کم لوگ اس پر ہیز کو برداشت کر سکتے مگر مولانا نے اپنے مخصوص اصول کی پابندی اور اطاعت کے مطابق معانج کی پوری اطاعت کی اور پانی سے پورا پر ہیز کیا۔

میں ہر وقت تین سوسائٹھ اولیاء حاضر رہتے ہیں مجھ کوا یکبار باطنی اشکال پیش آیا جس سے میں پریشان ہو گیا دل میں کہا کہ تم تین سوسائٹھ کسی مرض کی دوا ہو یہ خیال آنا تھا کہ ایک شخص آیا اس نے مجھ پر نظر کی وہ اشکال دور ہو گیا۔ ان واقعات سے معلوم ہوا جماعت دیوبندی قبروں سے فیض حاصل کرنے پر یقین رکھتی ہے اور بیت اللہ میں تین سوسائٹھ اولیاء کا ہر وقت موجود ہونا بھی دیوبندی جماعت کے اکابرین کے ایمان میں داخل ہے۔ قریش مکہ نے بھی تین سوسائٹھ بت بیت اللہ میں گاڑر کھے تھے دیکھئے دیوبندی عقیدے اور مشرکین مکہ کے عقیدے کے مابین کتنی مشابہت پائی جاتی ہے قریش مکہ نے جوبت بنار کھے تھے وہ بھی ان کے عقیدے کے مطابق اولیاء ہی کے مجسمے تھے۔

تبلیغی جماعت دیوبندی جماعت ہے

تبلیغی جماعت ہمیشہ انکار کرتی ہے کہ دیوبندی جماعت سے اس کا کوئی تعلق ہے یہ بات سوائے دھوکے بازی کے اور کچھ نہیں اس کے ثبوت کے لئے پڑھئے علی میاں ندوی لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ آخری عالالت میں یہ واقعہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ ایسا بیمار تھا اور اتنا کمزور تھا کہ بالاخانے سے نیچے نہیں اتر سکتا تھا اتنے میں خبر سنی کہ حضرت سہار پوری (خلیل احمد مؤلف بذل الحجود) دہلی تشریف لائے ہیں بس بے اختیار اسی وقت پیدل دہلی روانہ ہو گیا یہ بھی یاد نہ رہا میں اسقدر بیمار اور کمزور تھا کہ بالاخانے سے اترنا دشوار تھا دہلی کے راستے میں

خدیجہ فیتزود لمثلاً حتیٰ جاءَهُ الْحَقُّ (البداية والنهاية). یعنی جتنی راتیں غار حراء میں رہتے اس قدر کھانے پینے کا سامان گھر سے لے جاتے اور رسول اللہ ﷺ نے روزوں میں وصال سے بھی اسی لئے منع فرمایا : عن أبى هريرة قَالَ نَهِىَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوَصَالِ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّكَ تَوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ وَأَيْكُمْ مُّثْلُ إِلَيْ أَبِي طَعْمَنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي . (متفق عليه سبل السلام ص ۲۵۱)۔ ابو ہریرہؓ کہتے ہیں رسول ﷺ نے روزوں میں وصال سے منع فرمایا تو ایک شخص نے کہا اے اللہ کے رسول آپؐ بھی وصال فرماتے ہیں آپؐ نے فرمایا تم میں سے کون ایسا ہے جو میری مثل ہو مجھے میرا اللہرات کو کھلاتا و پلاتا ہے۔ اس حدیث میں صاف وضاحت ہے کہ روحانی غذا انبیاء کو ملتی ہے انبیاء بغیر کھائے پینے زیادہ عرصے جی سکتے ہیں اس چیز میں انبیاء کوئی ثانی نہیں ہے۔

مولوی الیاس کی والدہ کا دعویٰ مجھے اللہ کھلاتا پلاتا ہے
لیکن مولوی الیاس صاحب کی والدہ کا دعویٰ تھا کہ وہ تسبیحات سے غذا حاصل کر لیتی ہیں اس لئے وہ بغیر کھائے پینے صحت مندرجہ رہتیں۔ (مولوی الیاس کی دینی دعوت ص ۵۰)

بانی جماعت نے سات برس کامل پانی نہیں پیا
مولوی الیاس صاحب نے سات برس کامل پانی نہیں پیا اس کے بعد بھی پانچ برس تک برائے نام پانی پیا (کتاب مذکورہ ۵۶، ۵۵) اس واقعہ سے یہ حقیقت کھل گئی کہ صوفیت کی راہ پر مولوی الیاس صاحب کو اسی صوفی حکیم نے ڈالا اس حکیم صاحب کا یہ طریقہ علاج بالکل جو گیوں اور رہبانیت کی راہ پر چلنے والوں کے مشابہ تھا یہ حکیم صاحب ایک سید ہے سادھے فطرت انسانی پر ہونے والے کے دماغ کو اسقدر بگاڑ دیتے تھے کہ وہ زندگی بھرا پنی فطرت کی طرف لوٹنا معدوم کر دیتا پانی، کھانا، فطرت انسانی کے لئے لازمی چیزیں ہیں جو انسان غیر فطری طریقہ اختیار کریگا اس کا دل و دماغ قطعاً فطرت پر نہیں رہیگا معلوم یہ ہوتا ہے اس حکیم صاحب نے سید ہے صاف عقیدہ مسلمانوں کو جو گیوں، کا ہنوں رہبانوں کی راہ پر ڈالنے کا مطلب کھول رکھا تھا ان کے طریقہ علاج نے مولوی الیاس صاحب کو وہاں پہنچا دیا جہاں سے واپس ہونا تقریباً ممکن ہو جاتا ہے۔
نبی کریم ﷺ نے غار حراء میں نبوت سے پہلی بار عبادت کی ان ایام کے دوران آپؐ کھانا پانی اپنی ساتھ رکھتے اور بوقت ضرورت استعمال فرماتے تاکہ فطرت انسانی میں کوئی بگاڑ پیدا نہ ہو امام بخاریؓ اپنی صحیح میں حدیث لائے ہیں اس میں یہ الفاظ پڑھئے۔ فَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حَرَاءٍ فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ وَهُوَ التَّعْبُدُ لِيَا لِي ذُواتِ الْعَدْدِ قَبْلَ أَنْ يَنْزَعَ إِلَيْ أَهْلِهِ وَيَتَزَوَّدَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْ

دیکھ کر سوتے دیکھنے ابو الحسن علی میاں ندوی کی کتاب (مولوی الیاس کی دینی دعوت ص ۵۲)

معین الدین چشتی کو ایک صوفی نے کچھ کھلا کر صوفی بنایا

خواجہ معین الدین چشتی کو بھی ایک جوگی نے کچھ کھلا کر اپنی راہ پر ڈال لیا تھا ایک روز خواجہ صاحب درختوں کو پانی دے رہے تھے کہ ایک مجذوب درویش ابراہیم قدیوزی کو ادھر آتے دیکھا دوڑ کر استقبال کیا باغ میں لا کر بڑے ادب سے درختوں کے سائے میں بٹھایا انگوروں کا گچھا خدمت میں پیش کیا درویش نے اپنی بغل سے کھلی کاٹکر انکاں کر خواجہ کے منہ میں ڈال دیا اس کٹکر کے چباتے ہی خواجہ کے دل میں ولہ عشق و ذوق الہی کا ایک نور پیدا ہو گیا اپنے املاک و اسباب دینیوں سے منہ پھیر لیا گھر بار، مال و اسباب فروخت کر کے سب کچھ درویشوں میں تقسیم کر دیا اور خود طلب حق کے لئے مسافرت اختیار کی (خلیل الصادقین اردو ترجمہ دلیل العارفین ص ۳۷-۳۸)

اس درویش نے معین الدین صاحب کے منہ میں جو چیز ڈالی وہ جادو کا اثر کر گئی اس نے اس سید ہے سادھے مسلمان کا دماغ پھیر دیا آناؤ اداہ مال و اسباب چھوڑ کر اہب ہو گیا یہی راستہ جماعت تبلیغ نے اختیار کیا ہے ان کے نزدیک مال و اسباب بت ہے اس کو ترک کرنا ضروری ہے۔

رسول ﷺ مولوی الیاس کے والد کے جنازہ کے انتظار میں مولوی الیاس صاحب کے والد کی جب وفات ہوئی تو ایک صاحب ادرائے بزرگ نے دیکھا، وہ کہتے ہیں مجھے جلدی لے چلو رسول اللہ ﷺ میرا انتظار کر رہے ہیں (مولوی الیاس کی دینی دعوت ص ۲۸) یہاں پہلا سوال تو یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ کی امت سے روزانہ کتنے مولوی الیاس صاحب کے والد جیسے بزرگ بلکہ ان سے بھی زیادہ فوت ہوتے ہو نگے کیا رسول اللہ ﷺ سب کے جنازے کے انتظار میں اپنی قبر سے تشریف لاتے ہو نگے اگر ایسا ہے تو پھر قبر شریف خالی رہتی ہو گی اور حجاج کرام روضہ مطہرہ پر جو سلام پڑھ کر آتے ہیں وہ قبر کی مٹی کی نظر ہو جاتا ہو گا کیونکہ آپ وہاں ہیں ہی نہیں بلکہ اپنی امت کے بزرگوں کے استقبال کے لئے ہمیشہ باہر ہی رہتے ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ تو ایک ہیں کس کس بزرگ کا استقبال فرماتے ہو نگے اور یہ بھی یہ کہ یہ صاحب ادرائے کون ہے جنہوں نے میت کی بات سن لی ان تمام سوالوں کا ایک ہی جواب ہے (اذالم تستحی فاصنعن ما شئت) جب تھے جھوٹ بولنے میں حیانہ آئے تو جو بھی تیرے بھی میں آئے تو کر۔

مولوی الیاس صاحب نے مولوی رشید احمد گنگوہی سے بیعت کی مولوی صاحب کو رشید احمد صاحب سے ایسا قلبی تعلق پیدا ہوا کہ بغیر ان کے دیکھے آپ کو تسلیم نہیں آتی تھی بعض اوقات وہ ان کو دیکھنے کے لئے رات کو اٹھتے اور ان کا چہرہ

”سورہ انفال آیت ۲۸ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : ترجمہ : ”اور جس وقت خوشنما کر دیا شیطان نے ان کی نظر وہ میں ان کے اعمال کو اور بولا کوئی بھی غالب نہ ہوگا آج کے دن لوگوں میں سے میں تمہارا حمایتی ہوں پھر جب آمنے سامنے ہوئیں دونوں فوجیں تو وہ الٹا پھرا اپنی ایڑیوں پر اور بولا میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے میں ڈرتا ہوں اللہ سے اور اللہ کا عذاب سخت ہے۔“

سیرت و تفسیر کی کتابوں میں ہے شیطان اس روز سرaque بن مالک کی شکل میں ظاہر ہوا جو بتی کنانہ کے سردار تھے اور علی میاں کتاب مذکورہ ص ۱۱۱ میں آگے لکھتے ہیں۔

ہندوستان کی نسبت حجاز میں تبلیغ کی زیادہ ضرورت

عرب کے سفر میں اس قدر اندازہ ہو گیا کہ ہندوستان کے مقابلہ میں عرب میں تبلیغ کی زیادہ ضرورت ہے اس جملے سے کہ عرب میں تبلیغ کی زیادہ ضرورت ہے تبلیغی جماعت کے ہدف و غرض و غایت کا اندازہ کر لینا چاہیے عرب جن کی زبان قرآن و حدیث ہے عرب کا بچہ جب زبان کھولتا ہے تو عربی بولتا ہے وہاں تبلیغ کی اتنی کیوں ضرورت ہے جو ہندوستان میں نہیں جو شرک و بدعت و کفر سے بھرا ہوا ہے ہر قسم کے کفر و زندیقیت کو وہاں پہنچنے کی کھلی آزادی ہے اس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ جماعت تبلیغ کا مقصد جاہل عوام کو صوفی بنانا ہے اور یہ

جماعت تبلیغ کی غیبی آدمی سے تائید

(ایک عارف کی توثیق) اس عنوان میں علی میاں نے حکایت لکھی ہے صاحب زادہ مولوی یوسف بیان کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہم لوگ اپنی قیام گاہ پر جو باب العمرہ کے برابر والے مکان میں تھی بیٹھے تھے حضرت مولوی الیاس کچھ فرمائے ہے تھے اور ہم سن رہے تھے کہ ایک شخص دروازے کے سامنے آ کر کھڑا ہوا اور کہا جو کام تم کر رہے ہو اس میں مشغول رہو یہ کام اتنا بڑا ہے کہ اس کا اجر و انعام تم کو بتا دیا جائے تو برداشت نہ کر سکو گے شاید مرگ ہو جائے یہ کہہ کرو وہ شخص وہاں سے چلا گیا کچھ معلوم نہ ہوا کہ وہ کون بزرگ تھے (مولانا الیاس کی دینی دعوت ص ۱۱۰، ۱۱۱)

تبلیغی جماعت کی بنیاد اور اس کی روح خواب و کشف و مکاشفات غیبی کی توثیق و تائید پر ہے حالانکہ یہ تمام چیزیں حق کا کوئی معیار نہیں حق کا معیار قرآن و حدیث ہے اگر کسی مذہب و تحریک کی قرآن و سنت سے تائید ملتی ہے تو وہ برحق ہے اگر نہیں تو پھر کسی کا خواب کسی کا کشف کوئی غیبی تائید کچھ بھی نہیں۔

نبی کریم ﷺ کے خلاف قریش نے دارالنحوہ میں جو اجتماع کیا تھا اس میں ایک شیخ نجدی بھی تھا جس نے رسول ﷺ کے قتل کے جانے کی تائید کی تھی وہ شیطان تھا شیخ نجدی کی صورت میں اس اجتماع میں شریک ہوا غزوہ بدر میں بھی اس نے خوب کردار ادا کیا اور قریش کو بے وقوف بنانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی

ایمان رکھتی ہے جماعت کے اصولوں میں سے خروج بڑا اصول ہے کوئی عالم کوئی مسلمان اپنے علاقے میں رہ کر دین کا کام نہیں کر سکتا اس کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ اپنے گاؤں اپنے محلے میں رہ کر دین کی تبلیغ کرے بلکہ اس پر خروج فرض ہے جماعت کے بانی نے اس خروج کی فرضیت قرآن کریم کی اس آیت سے نکالی ہے ﴿كُنْتُمْ خَيْرًا مِّمَّا اخْرَجْتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَايُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ (النساء : ۱۱۰) یعنی تم ایک افضل امت ہو جو لوگوں کے لئے نکالی گئی تم نیکی کا حکم کرتے ہو برائی سے روکتے ہو اخر جلت کا معنی انہوں نے گھر سے نکالی گئی کیا ہے چونکہ یہ تفسیر عقل و نقل کے خلاف تھی اسلئے جماعت کے بانی نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ تفسیر مجھے خواب میں القا ہوئی (ملفوظات شاہ محمد الیاس ملفوظ ۵۰) یہ خروج بدعت فی الاسلام ہے دین اسلام کی تبلیغ کے لئے گھر سے نکل کر دوسرے علاقے میں جانا ضروری نہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے ﴿وَإِنَّدُرَ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ (ashrae : ۲۱۲) اے محمد ﷺ اپنے قربی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوَّانْفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَارًا﴾ (اتحیم : ۶) اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے گھروالوں اور رشتہ داروں کو تبلیغ کرنے کا حکم فرمایا ہے اس لئے آپ ﷺ نبوت ملنے کے بعد کمک مکرمہ میں ۱۳ سال تک مقیم

کام واقعی عرب میں اتنا آسان نہیں جتنا کہ ہندوستان میں ہے مثلاً تبلیغی جماعت کا یہ مشہور قول کہ خروج کے دنوں میں کسی مسجد میں ایک نماز باجماعت پڑھنا تین کروڑ نماز کا ثواب رکھتا ہے (فضائل اعمال کتبخانہ فیضی لاہور ۲۹/۳۳۷ میں ہے ایک نماز کا ثواب تین کروڑ پینٹس لاکھ چون ہزار چار سو بیس درجہ ہے) کسی عرب کے سامنے جب یہ بات کہی جائے گی تو ضرور پوچھے گا کہ بیت اللہ کی ایک نماز کے ثواب سے جو ایک لاکھ ہے خروج کی نماز کا ثواب اس قدر کیوں بڑھ گیا ہے وہ فوراً کہہ دے گا (ان هذا الا کذب مبین) نہیں یہ مگر ظاہر جھوٹ، اور اگر کسی عرب سے کہا جائے کہ رسول اللہ ﷺ کا ہاتھ قبر سے نکلا تو نوے ہزار آدمیوں نے اس کی زیارت کی یہ سن کروہ فوراً یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گا (ما یقول هذا الا افاک اثیم) یہ بات کہنے والا رسول اللہ ﷺ پر بہت بڑی تہمت لگانے والا گنہ گار ہے یہی وجہ ہے جماعت تبلیغ پر حکومتی سطح پر بلاد عرب میں سے مملکت عربیہ سعودیہ میں پابندی لگی ہے ”القول ابلیغ“ کے مؤلف نے اپنی اس کتاب میں بانگ دہل اعلان فرمایا ہے کہ تبلیغی جماعت گراہ اور بدعتی جماعت ہے یہ جماعت اس طریقے پر نہیں جس پر آپ ﷺ اور آپ کے صحابہؓ تھے یہ جماعت صوفیاء کے طریقہ منج پر چلتی ہے جو بدعت ہے سعودی عرب کے مفتی اعلیٰ شیخ عبدالعزیز بن بازؓ نے بھی اس جماعت کو بدعتی جماعت قرار دیا ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ تبلیغی جماعت خروج پر

لئے دیا تاکہ دشمن قرآن کریم کی بے حرمتی نہ کر سکیں (فتح الباری کتاب الجihad باب ۱۲۹ حدیث ۲۹۹۰) یہ حدیث صحیح مسلم کتاب الامارة (باب ۲۳ حدیث ۱۸۶۹) میں بھی ہے اس کے آخر میں ہے ”مخافة ان يناله العدو“ یعنی تاکہ دشمن قرآن کریم کی بے حرمتی نہ کریں۔

امام نوویؒ فرماتے ہیں امام ابوحنیفہؓ و امام بخاریؒ وغیرہ نے کہا ہے اگر جہاد میں جانے والوں کا شکر قلیل ہو جس پر دشمنوں کے غالب ہونے کا امکان ہو تو قرآن کریم کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں اور اگر مسلمانوں کا شکر بڑا ہو تو قرآن اپنے ساتھ لیجانے میں کوئی حرج نہیں لیکن یہ یاد رہے یہ اجازت اسلامی شکر کے لئے ہے جو جہاد کے لئے دشمن ممالک میں جائے۔ امام نوویؒ فرماتے ہیں اس معاملہ میں صحیح قول یہی ہے اور امام مالکؓ نے مطلقاً قرآن لے جانا جائز کہا ہے۔ امام ابوحنیفہؓ سے ابن المندزؓ نے مطلقاً جواز کا قول نقل کیا ہے مگر وہ ضعیف ہے ان کا صحیح قول وہی ہے جو پہلے گزر اہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کافر ملکوں میں قرآن کریم عام لوگوں کو لے جانے کی اجازت نہیں ہے جو ان ملکوں کا سفر دنیاوی اغراض و مقاصد کی وجہ سے کرتے ہیں لیکن کیا کافروں کے ملکوں میں تبلیغی مشن پر مسلم جماعتوں کا جانا جائز ہو گا یا نہیں اس بات کا جواب بطور نص کے مانا مشکل ہے کیونکہ قرآن و سنت میں جوبات موجود ہے وہ ہے کفار سے جہاد اور کفر کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے کا حکم ﴿وَقَاتَلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَّ يَكُونَ الدِّينُ

رہے آپ مدینہ اس وقت گئے جب انصار نے آپ کے ہاتھ پر مدینہ کے حکمران کی حیثیت سے بیعت کر لی یعنی آپ کو مدینہ کا حکمران تسلیم کر لیا اور آپ نے دوسرے ملکوں میں معلمین و مبلغین اس وقت بھیجے جب وہاں مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی یعنی جب وہ ممالک اسلام میں داخل ہو گئے اور مملکت اسلامیہ کے صوبے بن گئے تب آپ نے مبلغین و معلمین کو وہاں بھیجا۔

آپؐ نے کبھی کفار کے ملک میں تبلیغ کے لئے مبلغ نہیں بھیجے آپؐ نے اپنی پوری زندگی میں کسی غیر اسلامی ملک میں صحابہؓ کو نہیں بھیجا اور صحابہؓ کی پوری خلافت اسلامیہ میں بھی ایسا کوئی واقعہ نہیں ملتا کہ انہوں نے کفار کے کسی ملک میں کسی کو مبلغ بنا کر بھیجا ہو بلکہ نبی کریم ﷺ نے کفار کے ملک کی طرف قرآن لیجانے سے بھی منع فرمایا ہے۔

کفار کے ملک کی طرف قرآن لے جانے کی ممانعت

امام بخاریؒ فرماتے ہیں باب کراہیۃ السفر بالمصاحف الی ارض العدو، یعنی کافر ملک جس کی مسلمانوں کے ساتھ دشمنی ہوا س کی طرف قرآن لیجانے کی ممانعت ہے ”عن عبد الله بن عمرؓ ان رسول الله ﷺ نے نہیں کہا ہے“ ”عن عبد الله بن عمرؓ ان رسول الله ﷺ نے دشمن کافر ملک کی طرف قرآن کریم لے جانے سے منع فرمایا ہے۔ آپؐ نے یہ حکم اس

ذریعے یہ بات شائع کرتے رہتے ہیں کہ ہم نے اتنے کفار کو مسلمان کر دیا ! ادھر کفار کیا کر رہے ہیں مسلمان اس سے غافل ہیں مسلمانوں نے ہر کافر کے لئے دروازے کھول رکھے ہیں۔

علاوه ازیں ہم نے جہاد بالسیف ترک کر دیا ہے اور مسلمان کفار کے طاغوتی غیر اخلاقی نظام و قانون کے زیر سایہ زندگی بسر کرنے پر تسلیم ہوئے ہیں اور بڑے فخر سے کفار کے ملکوں میں سیر و سیاحت کو تبلیغ دین کا نام دیکراپنے اصل فریضے سے غافل ہوئے بیٹھے ہیں اور کفار مسلمانوں کے ملکوں میں کیا کر رہے ہیں قوم کو اس سے تبلیغ دین و خروج کی گولیاں کھلا کر نیند میں سلاۓ رکھنے کی جدوجہد میں مشغول ہیں تاکہ کفار پوری آزادی سے مسلمان ملکوں میں اپنے مشن کی تکمیل کر سکیں ہماری مسلم قوم کا حال اس کشتی میں سوار لوگوں سے مختلف نہیں جس کو ڈشمنوں نے چاروں طرف سے آگ لگا رکھی ہوا اور اس میں سوار لوگ اپنے نصاب کی کتاب کھول کر پورے دین کو اپنے اندر داخل کرنے کے لئے غور و فکر کر رہے ہوں ان کو کوئی فکر نہیں کہ وہ کشتی جسمیں وہ سوار ہیں آگ کی لپیٹ میں ہے ان کی پوری جدوجہد اس بات پر مرکوز ہے کہ پورا دین ہمارے اندر کیسے آجائے اس کے لئے سخت محنت کی ضرورت ہے وہ محنت کیا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے مسلمان ملک و قوم کو کفار کی لگائی ہوئی آگ میں جھلستا دیکھ کر اس کو چھوڑ دیں اور کفار کے ملکوں میں دین کی تبلیغ کا کام کریں اپنے بال بچوں والدین مسلمان

للہ ﷺ (البقرة : ۱۹۳) یعنی کفار سے اس وقت تک لڑائی جاری رکھو جب تک دنیا سے فتنہ ختم نہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کا دین غالب نہ آ جائے۔ قرآن کے اس حکم سے یہ سوال ختم ہو گیا کہ کفار کے ملکوں میں جا کر دین کی تبلیغ کی جائے کیونکہ یہ بات کفار کے ملکوں میں ان کی حکومتوں کو تسلیم کئے بغیر ممکن نہیں اور مسلمانوں کو کافروں کی حکومت تسلیم کرنا جائز نہیں کیونکہ مسلمانوں کو ان کی حکومتوں کو ختم کرنے کا حکم ہے ان کو برقرار رہنے دینے کا نہیں اگر مسلمان کفار کی حکومت تسلیم کر لیں ان سے جنگ نہ کرنے کا معاهدہ کر لیں تو جہاد اسلامی ختم ہو کر رہ جائے گا اور جب سے مسلمانوں نے کفار کی حکومتوں کو تسلیم کرنا شروع کیا ہے اور مسلمان کفار کے ممالک میں آباد ہونا شروع ہوئے ہیں اسی وقت سے مسلمانوں پر زوال آنا شروع ہو گیا ہے کیونکہ مسلمان کفار کے ملکوں میں آباد ہونے لگے ادھر کفار نے مسلمانوں کے ملکوں میں ڈیرہ ڈالنا شروع کر دیا ادھر مسلمانوں نے کفار کے ملکوں میں اسلام کی اشاعت کا بیڑہ اٹھایا ادھر کفار نے مسلمانوں کے ملکوں میں اپنے مذہب کی نشر و اشاعت کے مراکز قائم کر دیے ادھر مسلمانوں نے کفار کو مسلمان کرنا شروع کیا ادھر کفار نے مسلمانوں کو کافر بنانے کی مہم تیز کر دی دونوں گروہ و جماعتوں اپنے اپنے مشن پر تندہ سے کام کر رہی ہیں جماعت تبلیغ و دیگر جماعتوں کو فخر ہے کہ وہ کفار کے ممالک میں اسلام کا نور پھیلارہے ہیں اور آئے دن اخبارات ولٹری پر کے

خواہ یہ حکمران کافر ہوں یا قبر پرست۔ یہی وجہ ہے دنیا کی ہر حکومت کے دروازے بشمول اسرائیل اس جماعت کے لئے کھلے ہیں بلکہ اکثر و بیشتر فاسق و فاجر مسلم حکمران فوراً اس جماعت میں شمولیت اختیار کر لیتے ہیں اور اپنی پوری حکومت کی قوت اس جماعت کی ترقی میں لگادیتے ہیں اور حق کی آواز کو بندوق کی گولی اور تلوار کی نوک سے دبادیتے ہیں۔

ایک ہندو قوم پرست کا تبلیغی جماعت پر اظہار طہانت

مولوی مختار احمد صاحب ندوی سابق امیر جماعت اہل حدیث ہند کا بیان صحیفہ اہل حدیث کراچی میں چھپا ہے جس میں مولانا نے فرمایا ابھی ممبئی میں کچھ دن پہلے جماعت تبلیغ کا اجتماع ہوا تو بالٹھا کرے (ہندو قوم پرست لیڈر) نے اپنے دعائیے کلمات میں کہا کہ بھگوان کرے آپ ہی جیسے لوگ اس ملک میں اٹھیں اس لئے کہ آپ کے پاس ایسا کوئی پروگرام نہیں جس سے ہم کو کوئی نقصان پہنچ ہم آپ کے امن کے سامنے میں آبادر ہیں گے۔ یہ ہے جماعت تبلیغ جس کے پروگرام سے ہندو سلطنت کوئی خطرہ محسوس نہیں کرتی اسی وجہ سے اس جماعت کو اسرائیل جیسے ملک کا دیزہ بآسانی مل جاتا ہے۔

اسلامی تحریک کے قاتل کو جنت کا سر ٹیکیکٹ

مصر میں جمال عبدالناصر کی حکومت کے خلاف علماء مصر نے تحریک چلانی اس

مرد عورتوں کو شرک و کفر والوں کا قتل و غارت و ڈیکنی اغوا برائے تاوان میں جلتا ہوا چھوڑ کر چلے لگائیں اور ان چلوں کے ذریعہ پورے دین کو نگل کر اپنے اندر داخل کریں تاکہ دین کا کوئی حصہ باہر اس دنیا میں نہ رہ جائے۔

انگریزوں کے ساتھ خضر

ہندوستان میں انگریزی فوج کے ساتھ جو لوگ لڑ رہے تھے ان میں مولوی فضل الرحمن صاحب گنج مراد آبادی بھی تھا اچانک ایک دن مولانا کو دیکھا گیا کہ خود بھاگے جا رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں کہ لڑنے کا کیا فائدہ خضر کو تو میں انگریزوں کی صف میں پار ہا ہوں (حاشیہ سوانح قاسمی ۲ ص ۱۰۳) یہ جماعت تبلیغ کے اکابرین کا حال ہے ان کو ہندوستان کی آزادی کی جنگ میں حصے لینے کی کیا ضرورت تھی ان کا ایمان و یقین یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت و تائید بصورت خضر انگریزوں کے ساتھ ہے یہ واقعہ ان لوگوں کے دعویٰ کو مزید پکار دیتا ہے جو کہتے ہیں جماعت تبلیغ اس لئے بنائی گئی تھی تاکہ کفار مسلمانوں کے ملک میں قابض رہیں مسلمانوں میں ان کے خلاف کوئی تحریک نہ اٹھنے پائے انگریزوں کے ہندوستان پر قبضہ کے دوران دونی تنظیمیں وجود میں آئیں ایک قادیانی جماعت اور دوسری تبلیغی جماعت ہے۔ ان دونوں جماعتوں کا دعویٰ ایک ہے کہ جہاد بالسیف کی مسلمانوں کو اب ضرورت نہیں ہے لہذا اجتناب ممکن ہو مسلمانوں کو ان کے حکمرانوں کے خلاف آواز نکالنے سے روکا جائے

سے کہتی ہے کہ اس کے فلاں اجتماع میں اتنے مسلمان شریک تھے اور فلاں اجتماع میں اتنے لاکھ کا اجتماع تھا اس سے سیدھے سادھے مسلمان دھوکہ کھا جاتے ہیں اور اس جماعت میں شرکت کے لئے فوراً تیار ہو جاتے ہیں حالانکہ کسی جماعت کے حق پر ہونے کے لئے یہ نشانی نہیں ہے کہ تعداد میں وہ جماعت سب سے زیادہ ہو اللہ تعالیٰ کا رشاد ہے۔

﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾ (یوسف : ۱۰۶)
 ان ایمان والوں کی اکثریت مشرک ہے اور ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ﴿وَإِن تَطْعَمْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يَضْلُوكُ عَن سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (الانعام : ۱۱۶) اگر آپ زمین والوں کی اکثریت کی اتباع کریں گے تو آپ کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے اور نوح علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال قوم کو تبلیغ کی مگر چند سو لوگ مسلمان ہوئے۔ ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثُوا فِيهِمُ الْفَسَادُ سَنَةً إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا﴾ (العنکبوت : ۱۲) ﴿وَمَا آمَنَ مَعَهُ الْأَقْلَلُ﴾ (ھود : ۲۰) لیکن جماعت تبلیغ نے نصف صدی میں کئی لاکھ لوگ مسلمان کر لئے آخر اسکی وجہ کیا ہے انہیاء جو اپنی پوری کوشش سے اس قدر کامیاب نہیں ہوئے جس قدر چند سالوں میں جماعت تبلیغ نے کام کر دھایا اس سے ظاہر ہے کہ اس جماعت کی تبلیغ خالص نہیں ہے اس میں شرک و بدعت کی ملاوٹ ہے جیسا کہ دو دھیں میں جس قدر پانی ڈالا جائے گا اس قدر اس کی مقدار

ظالم و خونخوار درندے نے ان میں سے بہت سے علماء کو سزاۓ موت دے دی ان میں سے ایک نامور عالم سید قطب بھی تھے جن کی (ঢলাল القرآن) کے نام سے قرآن کی تفسیر ہے۔

جماعت دیوبند کے مولانا غلام غوث صاحب ہزاروی نے ایک بیان میں کہا مصر کے صدر جمال عبدالناصر کے جنت میں داخل ہونے کے لئے یہی ایک عمل کافی ہے کہ اس نے سید قطب گمراہ کو سزاۓ موت دے دی (الطريق الى جماعت المسلمين ۳۹۸)

اس دیوبندی تبلیغی کے بیان سے صاف ظاہر ہے کہ کسی مسلمان ملک میں اس کی لادینی حکومت کے خلاف آواز اٹھانا مسلمانوں کو اس کے نظام کفر کے بارے میں مطلع کرنا مسلمانوں کو اس حکومت کے خلاف تیار کرنا بغاوت ہے اور جو عالم اس بغاوت میں سزا پائے گا وہ جہنم میں جائے گا اور وہ ظالم ہے مسلم ملک میں کفر کا قانون چلانے والا علماء مسلمین کو سزا دینے کے عمل کی وجہ سے سیدھا جنت میں جائیگا جب جماعت تبلیغ کا یہ نظریہ ہو اور وہ مسلمانوں میں اس نظریے کو عام کرنے اور بے دین حکمرانوں کے خلاف مسلمانوں کی زبان بند رکھنے پر زور دینے کے عمل پر رات دن ایک کر کے محنت کر رہی ہو تو بے دین حکمران اس جماعت کی کامیابی و تائید و نصرت پر اپنی قوت کیوں نہیں صرف کریں گے؟ اور حق گو مسلمان علماء کی زبانوں پر تالے کیوں نہیں لگائیں گے؟ جماعت تبلیغ فخر

اور نہ زمین تھی اور نہ سورج تھا اور نہ چاند تھا اور نہ جن تھا اور نہ انساں تھا پھر جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو اس نور کے چار حصے کئے ایک حصے سے قلم پیدا کی اور دوسرے سے لوح اور تیسرے سے عرش (المواہب ص ۱۷-۲۷)

یہ حدیث بے بنیاد اور جھوٹی ہے اس جھوٹی حدیث کی رو سے دنیا کی ہر چیز محمد ﷺ کے نور سے ہوئی اور محمد ﷺ دنیا کی ہر چیز کی بنیاد ہوئے اس قسم کا عقیدہ صرف کفر ہی نہیں بلکہ حلول و وحدۃ الوجود کی طرف سے لے جانے والی راہ ہے جس پر چل کر انسان کفر و شرک کی تمام حدوں کو پا کر کے بہت آگے نکل جاتا ہے۔

جماعت تبلیغ کی بنیاد اشرف علی تھانوی کی تعلیم عام کرنے کے لئے رکھی گئی

جماعت تبلیغ جھوٹ و فریب میں بہت ماہر ہے ایسے موقعہ پر وہ فوراً کہہ دیتی ہے ہمارا اشرف علی صاحب وغیرہ سے کوئی تعلق نہیں ہے اس لئے ان کی بات ہماری بات نہ سمجھی جائے لیکن حقیقت اس کے بر عکس ہے اس کے ثبوت میں یہ پڑھئے۔ ایک بار فرمایا ”حضرت تھانوی نے بہت بڑا کام کیا ہے بس میرا دل چاہتا ہے کہ تعلیم ان کی ہو اور طریقہ تبلیغ میرا ہو اس طرح ان کی تعلیم عام ہو جائے گی“ (ملفوظات مولوی الیاس صاحب ملفوظ ۵۶)

بڑھتی چلی جاتی ہے اسی طرح جس قدر جماعت تبلیغ اپنے عمل و قول گفتار میں جھوٹ و بدعت کی اور شرک کی ملاوٹ کرتی چلی جائے گی اس قدر اس کی تعداد بھی بڑھتی چلی جائے گی اس جماعت کی کثرت کا موجب لا دینی حکومات وقت کی تائید و حمایت بھی ہے حکومتوں کی منون جماعتیں کم سے کم وقت میں اپنی خاطر خواہ تعداد بڑھائیتی ہیں چونکہ جماعت تبلیغ عقیدے پر بات نہیں کرتی اس لئے ہر بدعتی و شرک ان کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے اس کو اپنی بدعت و کفر و شرک کے پھیلانے کے لئے بہترین پلیٹ فارم میں جاتا ہے۔

محمد ﷺ کے نور میں سے اور باقی مخلوق ﷺ کے نور میں سے

جماعت تبلیغ کے حکیم الامت اشرف علی صاحب تھانوی نشر الطیب فی ذکر الانبیاء الحبیب کے ترجمے میں فرماتے ہیں پہلی فصل نور محمدی کے بیان میں عبد الرزاق نے اپنی سند سے جابر بن عبد اللہ النصاری سے روایت کیا ہے میں نے عرض کیا میرے باپ ماں آپ پر فدا ہوں مجھ کو خبر دیجئے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کون سی چیز پیدا کی آپ نے فرمایا سب سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا کیا پھر وہ نور قدرت الہیہ سے جیسا اللہ تعالیٰ کو منظور تھا سیر کرتا رہا اور اس وقت نہ قلم تھا اور نہ بہشت تھی اور نہ دوزخ تھی اور نہ فرشتہ تھا اور نہ آسمان تھا

علم بیٹا سوکھی جو کی کی روٹی کھارہا ہے استاد نے یہ سن کر مرغی کے گوشت سے کہا
قم باذن اللہ تو اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاوہ مرغی اسی وقت زندہ ہو گئی استاد
نے اس عورت سے کہا بی بی آپ کا بیٹا جب اس درجہ پر پہنچ جائے کہ پکی ہوئی
مرغی کو زندہ کر دکھائے تو پھر وہ مرغی کھانے کا حقدار ہے اس نے کہا ہم بھی
طالب علمی کے زمانے میں سوکھی روٹیاں کھایا کرتے تھے فیض الباری ج ۲ ص ۲۱
حاشیہ۔

قبروں و مزاروں کے ساتھ مسجد بنانا

شیخ انور شاہ جن کو امام العصر کا لقب دیا گیا ہے فیض الباری میں لکھتے ہیں ج ۲ ص ۲۲
طبی نے کہا کسی بزرگ کی قبر کے پاس برکت حاصل کرنے کے لئے مسجد
بنائی جائے اس طرح کہ بزرگ کی قبر مسجد سے باہر ہو تو جائز ہے۔ یہی وجہ ہے
ہر مزار کے پاس مسجد بنی ہوئی ملتی ہے یہ دیوبندی جماعت کے بہت بڑے مفتی
کا فتویٰ ہے اس سے قبروں کی پوجا کی راہ ہموار ہوتی ہے جو یہود و نصاری کا
طریقہ ہے طبی کے حوالے سے انور شاہ نے لکھا ہے کہ بزرگ کی قبر کے پاس
مسجد بنانے سے غرض اس بزرگ سے نفع و فیض حاصل کرنا ہو تو بھی جائز ہے۔

قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا

انور شاہ صاحب مزید فرماتے ہیں جامع الصغیر میں ہے اگرچہ قبر کی طرف منہ

جماعت تبلیغ کی کرامات سے کھایا ہوا بکرا دوبارہ زندہ
سنا ہے ایک دعوت میں بکرا ذبح ہوا بکرے کی ہڈیاں جمع کر لی گئیں ان ہڈیوں
سے دوبارہ بکرا بن گیا۔ واہ! جماعت کی کرامات صوفیاء کے نزد یک بزرگوں کی
کرامات میں سے مردوں کو زندہ کرنا بھی ہے۔ دیوبندی صوفی شیخ انور شاہ شمسیری
بخاری کی شرح فیض الباری ج ۲ ص ۶۱ میں لکھتے ہیں کہ میں اس بات میں متعدد
تحاکہ ولی کی کرامات میں مردوں کا زندہ کرنا بھی ہے یا انہیں پھر میں نے یہ
حکایت پڑھی کہ دولتمند لوگوں میں سے ایک شخص نے ملا جامی کے لئے کھانا بنایا
اس میں مردہ مرغی پکائی، ملا جی آئے تو انہوں نے مرغی کے گوشت سے کہا! قم
باذن اللہ : ان کا یہ کہنا تھا کہ مرغی زندہ ہو گئی اور عبد القادر جیلانی صاحب وعظ
کر رہے تھے ایک چیل آئی وہ چینخ لگی عبد القادر جیلانی صاحب نے اس کو
بد دعا دی وہ وہاں گر کر مرگئی آپ جب وعظ سے فارغ ہوئے تو اس کو کہا قم
باذن اللہ وہ زندہ ہو کر اڑ گئی اور ایک آدمی بخونگیا وہاں ایک پرندے کی گردان
مروڑ کر اسے مار دیا تھوڑی دیر بعد اس کو زندہ کر دیا۔ انور شاہ کے شاگرد صاحب
فیض الباری کے حاشیے میں لکھتے ہیں ایک طالب علم کسی استاد کے پاس پڑھتا
تھا ایک دن اس کی ماں مدرسے میں آئی دیکھا کہ استاد مرغی کھارہا ہے اور اس
کے بچے کے ہاتھ میں جو کی روٹی ہے وہ بغیر سالم کے کھارہا ہے وہ عورت یہ
دلکھ کر حیران رہ گئی اس نے استاد سے کہا تم خود تو مرغی اڑا رہے ہو اور میرا طالب

میں تمام عبادات بجالا نامحقق ہے۔
..... اخ جبکہ اس دیوبندی تبلیغی شیخ و مفتی کے قول سے ثابت ہوتا ہے قبر والے
اپنی قبروں کو جمیع عبادات سے معمور رکھے ہوتے ہیں وہ اپنی قبروں سے نکل کر
حج و عمرہ بھی کرتے ہیں لیکن شیخ نے یہ نہیں بتایا کہ یہ لوگ باوضو نماز پڑھتے ہیں یا
بے وضو اور اگر باوضو پڑھتے ہیں تو پانی کہاں سے لاتے ہیں اگر کہا جائے کہ اس
شیخ کی بات علماء اہلسنت کے قول کے مطابق ہے کیونکہ اہل سنت کے نزدیک
قبر کا عذاب بھی ہے اور ثواب بھی اس سے قبر والوں کی زندگی ثابت ہوتی ہے
کیونکہ بدون زندگی عذاب وثواب محال ہے میں کہتا ہوں علماء اہلسنت کے
نزدیک دنیا سے مرجانے والے برزخ میں زندہ ہیں دنیا کی اس قبر میں نہیں اور
صوفیاء و اہل بدعت برزخی زندگی کے نہیں اس قبر کی زندگی کے قائل ہیں۔

نبی کریم ﷺ کی روح بدن سے جدا نہیں ہوئی

بلکہ بعض اہل بدعت انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کی روح کے بدن سے مفارقت
کے قائل نہیں چنانچہ مولوی قاسم صاحب نانوتوی نے آب حیات نامی کتاب
میں لکھا ہے نبی کریم ﷺ پر موت بمعنی انفاک روح عن الجسد واقع نہیں ہوئی
(تبلیغی جماعت اپنے نصاب کے آئینے میں ص ۲۰) یہی وجہ ہے کہ جماعت، قبر
والوں سے مانگنے کی ترغیب دیتی ہے اس بارے میں یہ حکایت سنئے۔

مصر کے ایک صاحب خیر ایک ضرورت کے لئے ایک بخی کی قبر پر درخواست

کر کے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے لیکن اپنے اور قبر کے درمیان کپڑا لٹکا دے تو پھر
اس قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے (فیض الباری ج ۲ ص ۵۲۲)۔

قبروں میں تمام عبادات، نماز، اذان، تلاوت قرآن جاری رہتی ہے

انور شاہ صاحب مزید فرماتے ہیں میرے نزدیک تحقیق شدہ بات ہے کہ قبروں
میں قرآن کی تلاوت، نماز اذان کے ساتھ دیگر عبادات جاری رہتی ہیں ص ۳۶
شاہ صاحب فرماتے ہیں قبروں میں ارواح نماز پڑھتی ہیں حج کرتی ہیں ان کی
قبریں تمام عبادات سے معمور اور آباد ہیں ہر وہ عمل جو انسان زندگی میں کرتا تھا
وہ عمل قبر میں بھی کرتا رہے گا فیض الباری ج ۲ ص ۶۲ انور شاہ صاحب نے لکھا
ہے بخاری کی حدیث اجعلوا فی بيوتكم من صلاتكم ولا تتحدوها
قبورا۔ اپنے گھروں میں نماز پڑھوان کو قبریں نہ بناؤ اس حدیث کی مختلف
شرعنیں کی گئی ہیں ان میں سے ایک قول یہ بھی ہے کہ گھروں کو قبریں نہ بناؤ یعنی
جیسا کہ قبر والے قبر میں نماز نہیں پڑھتے وہ اپنی قبروں میں ملکف نہیں ہیں تم ان
کی طرح نہ ہو جاؤ بلکہ اپنے گھروں کو عبادات سے معمور رکھو وہ فرماتے ہیں یہ
تفسیر اگرچہ میرے نزدیک صحیح ہے مگر اس میں اشکال یہ ہے کہ اس تفسیر میں
مردوں کا قبروں میں نماز نہ پڑھنا ثابت ہوتا ہے اور میرے نزدیک ان کا قبروں

نے تھا علماء مکہ کے کہنے پر رات کے پچھلے پھر اس نے چاہ زمزم میں آوازیں دیں تین دن تک جواب نہ ملا پھر ان کے مشورے سے وادی برسوت کے کنویں میں آواز دی فوراً جواب ملتی رامال محفوظ ہے اور مکان کے فلاں حصہ میں دفن ہے (فضائل صدقات حصہ اول تیسرا فصل)۔

ایک کفن چور کے متعلق لکھا ہے کہ اس نے قبر کھودی تو اس کے اندر ایک شخص تخت پر بیٹھے قرآن پاک سامنے رکھے تلاوت میں مصروف نظر آئے نیچے نہر چل رہی تھی یہ بیہوش ہو کر گر پڑا لوگوں نے اس کو قبر سے نکالا تین دن بعد ہوش میں آیا اور یہ قصہ سنایا بعض لوگوں نے اس قبر کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی اس سے پوچھا کہ قبر بتا دے اس نے ارادہ بھی کیا کہ ان کو لے جا کر قبر دکھاؤں رات کو خواب میں قبر والے بزرگ کو دیکھا کہہ رہے ہیں اگر تو نے میری قبر بتائی تو ایسی آفتوں میں پھنس جائے گا کہ یاد کریگا۔ (فضائل صدقات حصہ دوم مطبوعہ لتجانہ فضی لاہور)

یعقوب سنوی کہتے ہیں میرے پاس ایک مرید آیا اور کہنے لگا میں کل ظہر کے وقت مر جاؤ نگاہ چنانچہ وہ واقعی مر گیا میں نے اسے غسل دیا اور دن کیا جب میں نے اس کو قبر میں رکھا تو اس نے آنکھیں کھول دیں میں نے کہا مرنے کے بعد بھی زندگی ہے کہنے لگا میں زندہ ہوں اور اللہ کا ہر عاشق زندہ ہی رہتا ہے (فضائل صدقات حصہ دوم ص ۲۶۰)

گزار ہوئے رات کو وہ بزرگ انہیں خواب میں ملے اور کہا تم میرے گھر والوں کے پاس جاؤ اور ان سے کہو مکان کے فلاں حصے میں جو چوڑا جل رہا ہے اس کے نیچے ایک مرتبان ہے اس میں پانچ سوا شر فیاں ہیں وہ فقیر کو دے دیں یہ بات حرف بحروف صحیح ثابت ہوئی (فضائل صدقات حصہ دوم حکایت ۲۲)

قبر سے بزرگ کی اپنے مہمانوں کی ضیافت

یہ بھی سنئے عرب کی ایک جماعت ایک مشہور سخنی کریم کی قبر پر گئی صاحب قبر نے ان کی مہمانی کے لئے انہیں میں سے ایک آدمی کے ساتھ خواب میں اپنے اعلیٰ نسل کے اونٹ کے بد لے ایک اونٹ کا سودا کیا اور صاحب قبر نے اٹھکر اس اونٹ کو ذبح کر دیا اونٹ والا بیدار ہوا تو واقعی خون جاری تھا اگلی منزل پر صاحب قبر کے بیٹے کو اونٹ کے ساتھ منتظر پایا کیونکہ اس نے خواب میں کہہ دیا تھا اگر تو میری اولاد ہے تو میرا بختی اونٹ فلاں شخص کو دے دے (فضائل صدقات حصہ دوم حکایت ۱۵)۔

قبر سے جواب 'تیرامال محفوظ' ہے

یہ بھی پڑھئے:

مکہ مکرمہ میں ایک آدمی نے ایک خراسانی شخص کے پاس دس ہزار اشر فیاں امامت رکھیں اور سفر پر چلا گیا واپس آیا تو اس کا انتقال ہو چکا تھا امامت کا کچھ پتہ

والے کا شف عطا فرمائے تو دیکھنے میں سہولت رہے (فضائل حج، حکایت ۷۶
فصل ۸)۔

ابراهیم بن شیبان کہتے ہیں میں حج سے فارغ ہوا میں نے قبر شریف کے پاس جا کر سلام عرض کیا تو میں نے حجرہ کے اندر سے علیک السلام کی آواز سنی (فضائل حج زائرین کے واقعات واقعہ ۵) سید نور الدین ابی شریف کے والد نے (رسول اللہ ﷺ) کو سلام عرض کیا تو سارے مجمع نے قبر شریف سے سنا علیکم السلام یا ولدی (فضائل حج واقعہ ۱۳) ابو بکرؓ وصیت کے مطابق علیؑ نے انہیں حجرہ میں دفن کرنے کی اجازت مانگی ایک دم حجرہ کے کواڑھل گئے اور آواز آئی دوست کو دوست کے پاس پہنچا دو اس طرح کا واقعہ حضرت عائشۃؓ سے بھی مردی ہے علامہ سیوطیؓ نے خصائص کبریٰ میں اس روایت کو منکر بتایا ہے لیکن اسکی تاریخی حیثیت باقی ہے۔

جماعت تبلیغ کے جاہل مبلغین اپنی عاقبت کی فکر کریں میں کہتا ہوں منکر، جھوٹی روایت کو کہتے ہیں جب یہ روایت جھوٹی ہوئی تو تاریخی حیثیت سے کیسے ثابت ہوئی نبی کریم ﷺ سے متواتر حدیث ثابت ہے جس نے جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ بولا وہ اپنی جگہ جہنم میں بنالے جماعت تبلیغ کے جاہل مبلغین کو چاہیئے کہ اپنی عاقبت کی فکر کریں اور روزانہ حساب لگائیں کہ انہوں نے ایک دن میں رسول اللہ ﷺ پر کتنے جھوٹ بولے ہیں۔ ابو بکرؓ کے

ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرید کو غسل دیا اس نے میرا انگوٹھا پکڑ لیا میں نے کہا میرا انگوٹھا چھوڑ مجھے معلوم ہے تو مرانہیں ہے یہ ایک مکان سے دوسرے مکان میں انتقال ہے اسے میرا انگوٹھا چھوڑ دیا (ص ۲۶۰)۔
میں کہتا ہوں دنیا کے گھر سے آخرت کے گھر کی طرف انتقال ہی موت کہلاتی ہے تو پھر اس شخص کا یہ کہنا کہ تو مرانہیں یہ ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف انتقال ہے نہایت بے ہودہ بات اور جاہل عوام کو دھوکہ دینا ہے کہ اللہ کے انبیاء والیاء مرے ہی نہیں ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : ﴿ انک میت و انہم میتون ﴾ (الزمر : ۳۰) بیشک تو بھی مرتا ہے اور وہ بھی مرتے ہیں۔ (ترجمہ: محمود الحسن صاحب دیوبندی)۔ آپ کو بھی مرنا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے (ترجمہ: ازاد شرف علی صاحب تھانوی)

﴿ والذین يدعون من دون الله لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون .
أموات غير أحياء وما يشعرون ايان يبعثون ﴾ (الخل : ۲۰) اور جن کی یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے اور وہ خود ہی خلوق ہیں، مردے ہیں زندہ نہیں اور ان کو خبر نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے

میت کا کشف

مولوی زکریا صاحب مؤلف فضائل اعمال و تبلیغی نصاب فرماتے ہیں جب کسی قبر پر حاضری ہو تو میت کے پاؤں کی طرف جائے تاکہ میت کو حق تعالیٰ آنے

تاکہ میرے ہونٹ اس کو چو میں اس پر قبر شریف سے دست مبارک نکلا انہوں نے اس کو چو ما کہا جاتا ہے اس وقت تقریباً نوے ۹۰ ہزار کا جمع مسجد بنوی میں تھا جنہوں نے اس واقعہ کو دیکھا اور حضور ﷺ کے دست مبارک کی زیارت کی جن میں شیخ عبدالقادر جیلانی کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ (فضائل حج زائرین کے واقعات ۱۳)۔ یہ بھی صوفیوں اور دجالوں کے خرافات میں سے ایک خرافہ ہے۔ نبی کریم ﷺ اپنے جمرہ میں آرام فرمائیں آپکی اور صاحبین کی قبروں کے چاروں طرف سیسے پلائی ہوئی دیوار حائل ہے جس کا کسی طرف کوئی دروازہ نہیں رکھا گیا۔ (شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ فرماتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیزؓ نے ولیدؓ کے حکم سے جمرہ شریفہ کی دیوار کو منہدم کر کے منقش پتھروں سے تیار کیا اسکی پشت پر دوسرا احاطہ بنوادیا ان دونوں عمارتوں میں سے کسی میں کوئی دروازہ نہیں چھوڑا۔ (جذب القلوب تاریخ مدینہ ص ۱۲۵) یہی بات محمد عبدالمعبود نے اپنی کتاب تاریخ المدینہ ص ۵۲۰-۵۲۳ مطبوعہ مکتبہ رحمانیہ اردو بازار لاہور میں لکھی ہے۔) نبی کریم ﷺ کا ہاتھ نکلا بھی ہو تو جمرہ میں ہی نکلا ہو گا مسجد میں موجود لوگوں نے بند جمرے کے اندر سے کیسے دیکھ لیا اور پھر مسجد بنوی میں اس وقت نوے ۹۰ ہزار آدمی کی کثیر تعداد کدھر سے آ کر جمع ہو گئی تھی اور اس وقت کی آبادی کا اتنا ہونا بھی محال نظر آتا ہے اسکے ساتھ یہ بھی ہے کہ محدثین والیں تاریخ نے اس واقعہ کو مکمل طور پر کیوں نظر انداز کر دیا۔ حافظ ابن کثیرؓ کی البداية

واقعہ کو لے لیجئے یہ کیونکہ صحیح ہو سکتا ہے اس میں بتایا گیا ہے جمرہ کا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ سوال یہ ہے کہ کس جمرے کا دروازہ کھل گیا تھا جس جمرہ میں ابو بکرؓ عمرؓ اور رسول اللہ ﷺ دفن ہیں اس میں بی بی عائشہؓ قیام پذیر تھیں تو کس جمرے کے کواڑ بند تھے اور کھل گئے تھے۔ چونکہ ہماری عوام جاہل ہے تاریخ اسلام کی ان کو کوئی خبر نہیں اس لئے جھوٹ بولنے والا اپنے وعظ میں، اپنی کتاب میں جتنا جھوٹ بولے اور لکھے عوام اس کو سچا مان لیتے ہیں۔ گذشتہ واقعہ سے یہ تاثر ملتا ہے کہ ابو بکر صدیقؓ کو اس جمرے میں دفن کرنے کے لئے لے جایا گیا جس میں رسول اللہ ﷺ پہلے سے دفن تھے اور وہ بند تھا اس کو رسول اللہ ﷺ نے ابو بکرؓ کے لئے خود کھولا یہ رسول اللہ ﷺ پر اتنا بڑا جھوٹ ہے جو اس کے بولنے والے لکھنے والے کو جہنم میں لے جانے کے لئے کافی ہے۔ مولوی ذکریا صاحب کا یہ بیان کہ اس واقعہ کی بطور حدیث اگرچہ صحیح ثابت نہیں مگر تاریخی حیثیت اس کی ثابت ہے، غلط ہے بلکہ اس واقعہ کی تاریخی حیثیت باطل ہے کیونکہ جب عائشہؓ اس جمرہ میں مقیم تھیں جہاں رسول اللہ ﷺ اور صاحبین دفن ہیں تو دروازہ کا خود بخود کھلنا کیا معنی رکھتا ہے۔ مگر مقلد و صوفی کو عقل کہاں جوان باتوں پر غور کرے۔

**رسول اللہ ﷺ نے قبر مبارک سے لوگوں سے مصافحہ کیا
سید احمد رفاعی نے قبر اطہر پر حاضر ہو کر عرض کیا اپنا دست مبارک عطا کیجئے**

والے کو پیوں کی تھیلی عطا فرماتے تھے تو پھر واقعی آپ قبر میں اسی طرح زندہ ہوئے جس طرح دنیا میں تھے لیکن آپ اپنے دنیاوی جسم کے ساتھ زندہ ہوئے، اس لحاظ سے آپ اس جہاں میں زندہ ہوئے کیوں کہ قبر میں آپ کا زندہ ہونا جسم کے ساتھ یہی مطلب رکھتا ہے اگر واقعی ایسا ہی ہے تو پھر صحابہ کرام نے آپ کے ساتھ بہت زیادتی کی کہ آپ کو زندہ ہی دن کر دیا۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ صحابہ گواں زندگی کا علم نہ ہو سکا ہو کیونکہ اس زندگی کا علم کشف سے ہوتا ہے اور کسی صحابی کو کشف نہیں ہو سکا یہ صوفیاء کا خاصہ ہے اور صحابہ اس قسم کی صوفیت سے پاک تھے جس کا یہ عقیدہ ہو کہ رسول اللہ ﷺ قبر میں سے لوگوں کی حاجتیں پوری کرتے ہیں وہ پر لے درجے کا مشترک اور کافر ہے۔

نبی کریم ﷺ نے قبر سے عثمانؑ کو پانی کا ڈول پیش کیا

دیوبندی تبلیغی صوفی کا ایک اور جھوٹ سنئے محسوری کے آخری دن عثمانؑ نے عبد اللہ بن سلامؓ کو بتایا آج کھڑکی سے نبی کریم ﷺ کی زیارت ہوئی آپ نے فرمایا دشمنوں نے آپ کو پیاسا کر رکھا ہے میں نے عرض کی جی ہاں اس پر آپ نے ایک پانی کا ڈول لٹکایا جس میں سے میں نے پانی پیا جسکی ٹھنڈک اب تک محسوس ہو رہی ہے اس کے بعد آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا ان کے مقابلے میں مدد چاہتے ہو یا میرے پاس آ کر روزہ افطار کرنا چاہتے ہو میں نے عرض کیا حضور کے پاس آنا چاہتا ہوں چنانچہ اسی دن شہید کر دئے گئے (فضائل حج واقعہ

والنها یہ، ابن الاشری کی *الکامل فی التاریخ*، ابن الجوزی کی *المُنْتَظَم*، سعہودی کی تاریخ مدینہ وغیرہ کیوں اس واقعہ سے خالی ہیں اس واقعہ کا چند صوفیوں کی کتابوں میں ملنا دوسرے علماء کی کتابوں میں نہ ہونا اس کے جھوٹ ہونے کی صاف دلیل ہے۔

رسول ﷺ اپنی قبر سے لوگوں کو ادھر ادھر پہنچاتے ہیں

اس کے بعد حضور ﷺ نے میرا ہاتھ کپڑا اور مسجد حرام میں رکھ دیا (فضائل حج واقعہ ۱۱)۔ میں کہتا ہوں نبی کریم ﷺ اپنی زندگی میں اونٹوں پر سفر کر کے مدینہ سے مکہ جاتے تھے اس میں کئی دن لگ جاتے تھے اسی طرح آپ کے دوسرے سفر ہیں اور اس صوفی نے رسول ﷺ پر جھوٹ بول کر اپنی عاقبت خراب کر لی مجھزہ آپ کو زندگی میں نہیں ملا۔ وفات کے بعد کیسے مل گیا۔

قبر سے رسول ﷺ کی بڑھیا کو صبر کی تلقین

ایک ہاشمیہ کو خدام بہت ستاتے تھے وہ فریاد لیکر روضہ پر حاضر ہوئی روضہ اقدس سے آواز آئی کیا آپ کے لئے میری زندگی میں نمونہ نہیں ہے جیسے میں نے صبر کیا تم بھی کرو (فضائل حج واقعہ ۱۶)۔ میں کہتا ہوں اگر نبی کریم ﷺ یوں ہی اپنی قبر سے باہر والوں سے باتیں فرماتے تھے، ان کی فریاد سنتے تھے اور حل کرتے تھے قبر سے ہاتھ باہر نکال کر آنے والوں سے مصائب بھی فرماتے تھے اور بھوکے کو پکی ہوئی روٹی اپنی قبر سے عطا فرماتے تھے اور قرضے کی فریاد کرنے

نے شیراز تک خرچ کیا (فضائل حج واقعہ ۲۲)۔ مسجد بنوی میں نماز پڑھکر اللہ سے مانگنے کی بجائے یہ مشرک صوفی رسول اللہ ﷺ کی قبر پر جا کر مراقب ہوا جو شرک اکبر ہے اسی شرک و کفر و بدعت کی تبلیغ کے لئے صوفیوں کا یہ ٹولہ پوری دنیا کا گشٹ لگاتا پھر رہا ہے۔

غیبی درہم

جھوٹے بزرگوں کی کرامت کا یہ واقعہ پڑھئے۔ قافلہ میں ایک بزرگ نے ایک ضعیفہ کی مدد کرنا چاہی ضعیفہ نے ہاتھ اوپر کیا تو مٹھی میں درہم آگئے وہ بولی تو نے جیب سے لئے ہم نے غائب سے لئے (فضائل حج حکایات ۲۲)۔ نبی کریم ﷺ کا، ایک ماہ تک گھر میں چولھا نہیں جلتا تھا اور آپؐ نے دو وقت پیٹ بھر کر روٹی نہیں کھائی، مگر یہاں بزرگوں کے ہاتھ دولت سے مالا مال ہیں آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہی درہم سے ان کے ہاتھ بھر جاتے ہیں یہ جھوٹ نہیں تو اور کیا ہے؟ ان جھوٹی کہانیوں پر جماعت تبلیغ کی ترقی کا دار و مدار ہے، لوگ جب اس قسم کی حکایت پڑھتے اور سنتے ہیں اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ درجہ خروج اور دین میں محنت سے حاصل ہوتا ہے یعنی بیوی بچوں کو چھوڑ واللہ کے راستے میں گھروں سے باہر نکل جاؤ مساجد میں چلے لگاؤ آسمان وزمین کے خزانوں کے مالک بن جاؤ یہ بات سنتے ہی لوگ اپنا کاروبار، گھر، مال مویشی چھوڑ کر جماعت کے ساتھ ہو جاتے ہیں تاکہ وہ بھی غیبی خزانے حاصل کرنے کے اہل ہو سکیں۔ اور قبر

۱۸) اس واقعہ کے جھوٹے ہونے کے لئے یہ کافی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے عثمان کو پانی پلا یا جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا روزہ نہیں تھا اور آگے لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے عثمانؓ سے کہا تم ہمارے ہاں افطار کرنا، جس کا مطلب یہ ہے کہ عثمانؓ روزے سے تھے اس کہانی کے بنانے والے سے اسکا جھوٹ چھپایا جائے اس کے جھوٹ ہونے کے دلیل یہ بھی ہے کہ عثمانؓ کے گھر کا رسول اللہ ﷺ کے گھر سے ساتھ متصل ہونا ثابت نہیں ہے اور کہانی میں ہے رسول اللہ ﷺ نے کھڑکی سے عثمانؓ کو پانی کا ڈول پیش کیا ہاں یہ ممکن ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی قبر اطہر سے نکل کر عثمانؓ کو پانی کا ڈول پیش کیا ہوا گر آپ ﷺ کا قبر میں زندہ ہونا تبیغی و دیوبندیوں کے نزدیک ثابت ہے تو احمد رضا خان بریلوی نے غلط نہیں کہا کہ آپؐ قبر میں اپنی بیویوں سے شب باشی فرماتے ہیں (ملفوظات احمد رضا خان ص ۲۲۶)۔ اس لحاظ سے دیوبندی اور بریلوی عقیدت انجامی بھائی ہیں۔

رسول اللہ ﷺ نے اپنی قبر سے مسلمان کو سفر خرچ کے درہم عطا فرمائے

یہ جھوٹ بھی ملاحظہ فرمائیے جو شرک اکبر کی طرف کھلی دعوت ہے۔ ابو زرعہ کو فاقہ تھا، قبر انور کے پاس مراقبہ میں بیٹھ گئے حضور ﷺ نے درہم دیئے جنہیں انہوں

سے شکایت نہ کرنا (فضائل حج زائرین کے واقعات واقعہ) ۲۸ ابوالعباس بن نفس مقری جو نابینا تھے کہتے ہیں میں تین دن بھوکارہ تو قبر شریف پر یہ عرض کر کے کہ میں بھوکا ہوں سو گیا ایک لڑکی آئی اور پاؤں سے حرکت دے کر مجھے جگایا اور کہا چلو، میں ساتھ ہو لیا وہ اپنے گھر لے گئی گیوں کی روٹی اور گھنی اور کھجور میں میرے سامنے رکھ کر کہنے لگی ابوالعباس کھاؤ مجھے میرے دادا نے اس کا حکم فرمایا ہے اور جب بھوک لگا کرے یہاں آ کر کھا جایا کرو۔ ابوسليمان اس واقعہ کو نقل کر کے کہتے ہیں، اس قسم کے واقعات کثرت سے نقل کئے گئے ہیں اور ان میں دیکھا گیا ہے کہ اس قسم کا حکم حضور ﷺ نے اپنی شریف اولاد ہی کو زیادہ دیا ہے۔ (فضائل حج واقعہ) ۲۹۔ اس واقعے کو گھر تے وقت صوفی کو شرم نہیں آئی کیا رسول ﷺ نے اپنی اولاد میں سے ایک عورت کورات کی تاریکی میں اس صوفی کے پاس اکیلنے بھیج دیا تھا کیا مدینے میں کوئی مرد نہیں تھا جس کو آپ یہ حکم دیتے۔ آخر بے شری کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے مگر صوفی کے پاس شرم کہاں اور لڑکی نے پاؤں سے چھوکر صوفی کو جگایا کیا وہ آواز دیکر نہیں اٹھا سکتی تھی؟۔

درود پڑھنے والے کا آپ ﷺ نے منه چوم لیا
بکثرت درور پڑھنے سے نبی ﷺ نے خواب میں محمد بن سعید بن مطرف کا منہ چوم لیا، آنکھ کھلی تو سارا بالاخانہ مشک کی خوشبو سے مہک رہا تھا مشک کی

پر مراقبہ اور قبر والے سے مدد مانگنے کا یہ جھوٹا قصہ بھی سماعت فرمائیں۔

رسول ﷺ کی قبر سے روئی وصول

شیخ ابوالخیر اقطع بیان کرتے ہیں میں نے پانچ دن سے کچھ نہیں کھایا تھا روضہ اقدس پر سلام عرض کیا اور حضور ﷺ کا مہمان بن کر سو گیا حضور ﷺ مع شیخین و حضرت علیؓ تشریف لائے آپ نے مجھے ایک روئی مرحمت فرمائی میں نے آدھی کھائی اور جب میری آنکھ کھلی تو آدھی میرے ہاتھ میں تھی (فضائل حج واقعہ) ۸۔

پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی شخص کے بعد الموت دنیا میں آنا محال ہے۔ اگر بفرض محال مان لیا جائے تو شیخینؓ تو نبی ﷺ کیسا تھا دن ہیں ان کا آنا تو ٹھیک ہے مگر علیؓ تو کوفہ میں دن ہیں ان کا آنا بطریق اولی محال ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ولی کو طی الارض (زمین کا سمٹ جانا) کی کرامت حاصل ہے تو فقہ حنفیہ میں بھی اس عقیدہ کو کفر قرار دیا گیا ہے (بحوالہ درختار)۔

شرک اور بدعت کی طرف دعوت دینے والی ایک اور کہانی

شیخ عبدالسلام بن ابوالقاسم صقلی کہتے ہیں ایک مصری شخص نے حضور ﷺ سے کھانے وغیرہ کی درخواست کی حضور ﷺ نے خواب میں کسی سے مل کر پوری کرادی۔ میزبان شخص نے اس مسافر سے کہا خدا کی قسم آئندہ کبھی پردادے ابا

پھرتے ہیں اس عقیدے کا سبب امام ابن قیمؓ نے بیان فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ روح صوفیا کے نزدیک عرض ہے اور عرض کی انھوں نے یہ تعریف کی ہے جو دوسری چیز کے ساتھ رہ سکتی ہو علیحدہ رہنا اس کے لئے ممکن نہ ہوا سلئے وہ جسم کے بغیر روح کی زندگی کے قائل نہیں ہیں۔

امام ابن قیمؓ فرماتے ہیں : فالروح عندكم من الاعراض قائم بجسم الحی کا لا لوان یعنی روح تمہارے نزدیک عرض ہے اسکا جسم کے بغیر رہنا ممکن نہیں ہے جیسے انسان کا رنگ کالا گورا ہونا اسکے جسم سے تعلق رکھتا ہے اسی طرح انسان کی دوسری صفات اسکا سخن و بخیل ہونا عالم و جاہل ہونا۔ ان تمام صفات کا تعلق وجود انسان کے جسم کے ساتھ خاص ہے جسم کے بغیر ان کا وجود ممکن نہیں ہے۔ ان بدعتیوں کے عقیدے میں روح بھی اسی طرح ہے وہ جسم کے بغیر نہیں رہ سکتی اس لئے انھوں نے کہا ہے کہ انبیاء و اولیاء اپنے دنیاوی جسموں کے ساتھ مر نے کے بعد قبروں میں زندہ ہیں جو اسی دنیا میں ہیں (تو ضحی المقادير شرح قصیدہ نونیہ مؤلفہ امام ابن قیمؓ ج ۱ ص ۹۷، ج ۲ ص ۱۵۰) اور مولوی زکریا (فضائل حج فصل ۸ حديث ۹) (اس حدیث سے مراد وہ حدیث ہے جس میں ہے ”نہیں کوئی جو مجھ پر سلام پڑھتا ہے مگر اللہ تعالیٰ میری روح کو مجھ پر واپس کرتا ہے میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں، ابوداؤ و دوغیرہ) اسکی شرح میں لکھتے ہیں اکثر علماء نے نقل کیا ہے کہ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس

خوبصورائی رخسار میں سے آٹھ دن تک آتی رہی۔ (فضائل درود فصل ۵ حکایت ۳۸) ایک فوت شدہ نوجوان نے خواب میں ابراہیم نامی بزرگ سے مصافحہ کیا جسکی خوبصورتے دم تک قائم رہی (فضائل حج فصل ۵ حکایت ۱۵) حضرت شاہ ولی اللہ کے والد کو بنی صالحؓ نے خواب میں زردہ کھلایا آنکھ کھلی تو ہاتھوں سے زعفران کی خوبصورائی تھی۔ (فضائل درود فصل ۵ حکایت ۲۸) شاہ ولی اللہ اپنے والد کے بارے میں فرماتے ہیں بیماری کے دوران حضور ﷺ ان کی عیادت کے لئے تشریف لائے اپنی داڑھی کے دو بال انھیں دیئے جس سے ان کی صحت بحال ہوئی ایک بال انھوں نے شاہ ولی اللہ کو دے دیا۔ (فضائل درود فصل ۵ حکایت ۲۸) یہ دونوں حکایات زکریا صاحب نے شاہ ولی اللہ کی کتاب ”درشین“ سے نقل کی ہیں ان دونوں واقعات سے ثابت ہوتا ہے شاہ ولی اللہ صاحب بھی ایسی باتوں کے قائل تھے شاہ صاحب کی کتاب درشین جس میں انھوں نے اپنے والد کے رسول ﷺ سے ملنے کے واقعات بیان کئے ہیں اور انکی کتاب ”انفاس العارفین“ سے پتا چلتا ہے کہ وہ بھی ان صوفیاء کے سلسلے کے پیروکار تھے اور اس قسم کی بدعتات و خرافات پر وہ یقین رکھتے تھے۔ اللہ کرے انھوں نے ان کتابوں و مافیہا سے آخر عمر میں دست برداری و بیزاری ظاہر کر دی ہو۔ صوفیاء کے جو واقعات گزر چکے ہیں یا آئندہ آئیں گے ان سے ثابت ہوتا ہے کہ انکے عقیدے میں تمام انبیاء، اولیاء و شہداء زندہ ہیں اسی دنیا میں گھومتے

زندہ ہیں وہ وہاں تمام اعمال کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ یہ تمام باتیں اس بدعتی عقیدے کی وجہ سے ہیں کہ روح کے لئے جسم ضروری ہے وہ جسم کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی اور انہمہ اہل سنت کے نزدیک روح ایک مستقل مخلوق ہے وہ جسم انسانی کے بغیر بھی زندہ رہ سکتی ہے انسان کے مرنے کے بعد یہی روح عذاب میں بنتلا کی جاتی ہے اور اسی کو بہشت کی نعمتوں سے نوازا جاتا ہے اسی کو اللہ کے پاس لے جایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے اسی روح کو ان الفاظ کے ساتھ خطاب کرتے ہیں ﴿يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَةُ. ارْجِعِي إِلَى رَبِّكَ رَاضِيَةً مَرْضِيَةً. فَادْخُلِي فِي عِبَادِي. وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾ (النَّجْرَنَ ۳۰-۲۷) ”اے طمینان والی روح اللہ تعالیٰ کے پاس چلی جا خوش ہو کر (اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں) تو میرے بندوں کی جماعت میں چلی جا میری جنت میں داخل ہو جا“ اس آیت میں جس خطاب کا ذکر ہے وہ روح کو ہے انسان کے بدن کو مٹی میں دفن کر دیا جاتا ہے قیامت سے پہلے قبر میں پڑے ہوئے جسم کا روح کے ساتھ زندہ ہونا اور اس کے تمام اعضاء کا کام کرنا ممکن نہیں ہے، قبر میں موجود بدن میں روح نہ ہونے کی صراحت قرآن کریم میں موجود ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿قَالَوْيَاوِيلُنَا مِنْ بَعْثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمَرْسَلُونَ﴾ (لیں : ۵۲) جب صور میں پھونک جائے گا تو سب لوگ اپنی قبروں سے اپنے پور دگار کی ذات کی طرف تیز

وقت روح واپس آتی ہے بلکہ وہ توصال کے بعد واپس آچکی حالانکہ جو حدیث شیخ نے ذکر کی ہے اس میں کلام ہے۔
امام ابن قیم جلاء الافہام ص ۱۹ حدیث ۱۹ کی بحث میں فرماتے ہیں میں نے اپنے شیخ سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا اسکی سند میں یزید بن عبد اللہ ابو ہریرہؓ سے روایت کرتا ہے اس نے ان سے نہیں سننا اور حافظ ابن حجر تحقیۃ الاشراف (ج ۰ ص ۲۲۱) کے حاشیہ النکت الظراف میں فرماتے ہیں اس حدیث کو امام طبرانی نے مجمع الاوسط میں روایت کیا ہے وہاں یزید بن عبد اللہ اور ابو ہریرہؓ کے مابین ابو صالحؓ کا واسطہ ہے اس سے معلوم ہوا یہ حدیث متصل نہیں ہے اس لئے ضعیف ہے۔

ہر جمعہ کی رات کو دنیا کے تمام ولی بیت اللہ میں جمع ہوتے ہیں

مولوی زکریا صاحب نے فضائل حج فصل ۱۰ حکایت ۱۶ میں لکھا ہے کوئی کامل ولی ایسا نہیں جو ہر جمعہ کی شب کو اس شہر میں نہ آتا ہو یعنی مکہ مکرمہ اور بیت الحرام میں۔ یہاں مولوی زکریا صاحب نے زندہ اور مردہ ولی کا فرق نہیں کیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے عقیدے میں ہر زندہ و مردہ ولی بیت اللہ میں نماز پڑھتا ہے اور بعض دیوبندی علماء کا قول پہلے نقل کر چکا ہوں کہ اولیاء اپنی قبروں میں

روح نہیں ہے اور مردوں کے نہ سننے کے بارے میں ہے ﴿فَإِنَّكَ لَا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعا، اذا وَلَوْ اَمْدَبْرِين﴾ (الروم : ۵۲) بیشک آپ مردوں کو نہیں سن سکتے اور بہرے کو بھی نہیں سن سکتے جب وہ پیٹھ دے کر جائیں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو نہ سننے میں بہروں سے تشیبیہ دی ہے خاص کر جب وہ پیٹھ دیکر جائیں یعنی جس طرح بہرہ نہیں سنتا اسی طرح مردے بھی نہیں سن سکتے دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت ان الفاظ میں کی ہے۔ ﴿وَمَا يَسْتُوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظَّلْمَةُ وَلَا النُّورُ ☆ وَلَا الظُّلْمُ وَلَا الْحُرُورُ ☆ وَمَا يَسْتُوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْمَوْاتُ إِنَّ اللَّهَ يَسْمَعُ مِنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مِّنْ فِي الْقُبُورِ﴾ (فاطر : ۱۹-۲۲) نہیں برابرنا پینا اور دیکھنے والا اور نہ اندھیرا اور اجالا اور نہ سایہ و دھوپ اور نہ زندہ و مردہ بیشک اللہ تعالیٰ سناتا ہے جس کو چاہتا ہے اور آپ قبر میں پڑے ہوؤں کو نہیں سن سکتے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی ہے کہ مردہ و زندہ برابر نہیں ہو سکتے جیسا کہ نایبنا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہیں اور دھوپ و چھاؤں برابر نہیں ہیں اور جیسا کہ اندھیرا اوجالا برابر نہیں لیکن جماعت تبلیغ کے شخ کیا فرماتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المؤمنون میں انسانی تخلیق کے ذکر فرمایا ﴿ثُمَّ أَنْكُمْ لَمْ يَتَوَلَُّوْنَ ☆ ثُمَّ أَنْكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَبْعَثُوْنَ﴾ (آیت ۱۵-۱۶) پھر تم کو موت آجائے

تیز چلنے لگیں گے کہیں گے ہائے ہمیں ہماری خواب گاہوں سے کس نے اٹھادیا یہی ہے جس کا وعدہ رحمٰن نے دیا تھا اور رسولوں نے یقین کہا تھا۔ یہ آیت بتارہی ہے کہ انسانوں کے جسم قبروں میں بغیر روح کے پڑے ہوئے ہیں ان کو قیامت سے پہلے کوئی نہیں اٹھائے گا اور اس آیت سے قبر کے عذاب و ثواب کا نہ ہونا ثابت نہیں ہوتا کیونکہ عذاب و ثواب کا تعلق روح سے ہے اور قبر میں روح بدن سے خارج ہوتی ہے ایک دوسری آیت میں ارشاد ہے ﴿كِيفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاحْيَاكُمْ ثُمَّ يَمْتِكِمْ ثُمَّ يُحِيِّكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تَرْجِعُوْنَ﴾ (البقرہ : ۲۸) تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کر سکتے ہو حالانکہ (نطفہ کی حالت) میں تم مردہ تھے پھر اس نے تم کو زندہ کیا پھر تم کو مارے گا پھر زندہ کریگا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دمومت اور دوزندگیوں کا ذکر کیا ہے پہلی موت ماں کے پیٹ میں روح پڑنے سے پہلے کی ہے دوسری دنیا سے جانے کے وقت کی اور پہلی زندگی ماں کے پیٹ میں روح پڑنے سے لیکر موت تک دوسری زندگی قیامت والی جب جسموں میں روح پھونکا جائے گا (ونفح فی الصور)۔ جب صور میں پھونک ماری جائیگی تو آسمان اور زمین والے بے ہوش ہو جائیں گے اور جب دوسری بار صور میں پھونک ماری جائے گی تو سب لوگ قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ (الزمر : ۲۸) ان آیات میں وضاحت موجود ہے کہ قبروں میں پڑے ہوئے مردہ جسموں میں

ثواب بعدك فاقول كما قال العبد الصالح و كنت عليهم ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد فيقال ان هولا لم يز الامر تدين على اعقابهم ”رواه البخاري كتاب التفسير حديث ٣٦٢٥.

ابن عباس فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے خطبہ دیا اس میں آپ نے فرمایا کہ ”قيامت کے دن میری امت کے کچھ لوگ میری طرف لائے جائیں گے پھر ان کو مجھ سے ہٹا کر باعین طرف لے جایا جائیگا اس وقت میں کہونگا یہ میرے صحابہ ہیں مجھ سے کہا جائیگا آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا خرافات و بدعات نکالی تھیں پھر میں وہ کلمات کہونگا جو عیسیٰ علیہ السلام نے کہے تھے یعنی میں ان پر اس وقت تک گواہ تھا جب تک میں ان کے اندر موجود تھا پھر جب آپ نے مجھے وفات دی تو پھر آپ ہی ان پر نگران تھے اور آپ ہی ہر چیز پر اطلاع رکھنے والے ہیں پھر مجھے کہا جائیگا یہ لوگ دین سے پھر کر مرتد ہو گئے تھے۔ یہ حدیث اس بات کی وضاحت کر رہی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد آپ کو اس جہاں میں ہونے والے فتنوں کی کوئی خبر نہیں ہے، اور صوفیاء کو انکے خوابوں میں جو شخص نظر آتا ہے اور وہ اس کو رسول اللہ ﷺ سمجھتے ہیں وہ رسول اللہ ﷺ نہیں کوئی اور ہوتا ہے جو ان مبتدعین کو دھوکہ دیتا ہے اس بات کی تائید اس واقعہ سے ہوتی ہے۔ شاہ ولی اللہ^{رحمۃ اللہ علیہ} (البلاغ لممین ص ۱۸۶)

گی پھر تم قیامت کے دن زندہ کئے جاؤ گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قیامت سے پہلے انسانی جسم میں روح نہیں ڈالی جائے گی۔

**نبی کریم ﷺ کی قبر کی زیارت کرنے والا یہ سمجھے میں زندگی
والی آپ کی مجلس میں حاضر ہوں**

اور نبی کریم ﷺ کی قبر کی زیارت کرنے والا یہ خیال کرے کہ چہرہ انور اس وقت میرے سامنے ہے حضور اقدس ﷺ کو میری حاضری کی اطلاع ہے اور یہ سمجھے گویا میں زندگی میں آپ کی مجلس میں حاضر ہوں اس لئے کہ امت کے حالات کے مشاہدے اور ان کے ارادہ و قصد کے ظہور میں اس وقت آپ کی حیات و ممات میں کوئی فرق نہیں۔ (فضائل حج فصل ۹ حکایات ۲۹)۔ اگر واقعی آپ ﷺ کی قبر کی زیارت کرنے والا آپ کی زندگی والی مجلس میں ہوتا ہے تو پھر آپ کی قبر کی زیارت کرنے والا ہر آدمی صحابی ہونا چاہیے اور اگر آپ کی قبر پر آنے والوں کی آپ کو مکمل اطلاع ہے اور آپ کی قبر پر جو کچھ اہل بدعت خرافات کرتے آئے ہیں اس کی بھی آپ کو اطلاع ہے تو پھر اس حدیث کا کیا جواب ہے ”عن ابن عباس رضى الله عنهما قال خطب رسول الله ﷺ فقال يا ايها الناس الا وانه ي جاء بر جال من امتى في وخذهم ذات الشمال فاقول يا رب اصحابي فيقال انك لا تدرى ما احد

عورتوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے میرے آنے سے وہ بہت خوش ہوا اور مر جبا کہا اس کے بعد شراب نوشی کا دور شروع ہوا مجھے بھی اس صوفی نے شراب پینے کا اشارہ کیا میں نے کہا یہ حرام ہے پینے کی اجازت نہیں ہے اس نے پینے کے لئے بہت زیادہ اصرار کیا میں نے بھی سختی سے انکار کیا اس کے بعد وہ تنگ آ کر بولا تو شراب نہیں پیتا دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کرتا ہوں میں اس کے سامنے سے آزردہ خاطر ہو کر اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے دوستوں میں آگیا لیکن اس واقعہ کو اپنے ساتھیوں سے نہیں بیان کیا اسی حالت میں مغموم ہو کر سونے کے لئے لیٹ گیا خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بہت ہی عجیب و غریب باغ ہے جو درختوں اور میوں اور نہروں سے مزین ہے اس کا نقشہ کھینچنا دشوار ہے مگر اس باغ کے راستہ میں کانٹے مصیبتیں اور قسم کی پریشانیاں ہیں جن کی بناء پر باغ تک پہنچنا مشکل ہے اور وہی صوفی شراب کا پیالہ ہاتھ میں لئے ہوئے سامنے آ کر بولتا ہے یہ شراب کا پیالہ پی لے میں تھے اس باغ تک پہنچا دوں میں نے انکار کیا اور بیدار ہو گیا لااحول پڑھا پھر سو گیا و اللہ اعلم چالیس مرتبہ یہی خواب دیکھا اور بیدار ہوا اس کے بعد میں نے رسول اکرم ﷺ پر درود پڑھا اور بارگاہ الہی میں دعا کی اس کے بعد کیا دیکھتا ہوں میں رسول خدا ﷺ کی خدمت مبارکہ میں ہوں اور آپ کے دست مبارک میں ایک لاٹھی ہے ناگاہ وہ بعدی صوفی بھی وہاں نمودار ہو گیا رسول اکرم ﷺ نے اپنا عصاء مبارک اس بعدی کی طرف

میں فرماتے ہیں شیخ اجل عبدالوہاب متفقی سے میں نے سنا ہے فرمائے تھے کہ فقراء مغرب میں سے ایک فقیر نے رسول اللہ ﷺ کو خواب میں دیکھا حضور اس کو شراب پینے کے لئے فرمائے ہیں الخ ظاہر ہے یہ شخص جس کو اس صوفی نے خواب میں دیکھا شیطان تھا رسول اللہ ﷺ کسی کو شراب پینے کو نہیں کہہ سکتے اس بات کی مزید تائید اس واقعہ سے ہوتی ہے۔ شاہ ولی اللہ (البلاغ لمیین) میں فرماتے ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے شیخ عبدالوہاب منڈوی کے احوال میں اخبار الاخیار میں لکھا ہے ص ۳۶۲-۳۶۱ ایک وقت سے مکرو واستدراج کی بحث ہو رہی تھی تو آپ نے فرمایا فاسقوں اور بدعتیوں کو بھی الیسی قوت دی جاتی ہے جس سے وہ عوام کے قلوب کو اپنی طرف کھینچ لیں احکام شریعت میں پختگی نہ ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور اپنی سرگزشت میں سے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ سفر کے زمانہ میں ایک مرتبہ دکن کے شہروں میں سے ایک شہر میں پہنچا قاضی شہر عبدالعزیز نامی ایک شخص ہے ان سے دریافت کیا کہ یہاں تمہارے شہر میں کوئی نیک بزرگ و صوفی موجود ہے کہ ان کے پاس کچھ زمانہ صحبت اٹھائی جائے وہ بولے ایک شخص اہل باطن میں مشہور ہے اکثر آدمی اس کے معتقد ہیں مگر ان کے بعض مناء ہی کے ارتکاب کی وجہ سے میرا دل ان سے خوش نہیں ہے قاضی شہر نے جو شاند ہی کی تھی میں اس نشان ہی کے پاس بزرگ کو دیکھنے کے لئے گیا دیکھتا کیا ہوں وہ ایک بلند جگہ پر مردوں

کرتے ہوئے پایا جب میں اس واقعہ پر مطلع ہوا تو میں نے سختی کے ساتھ اسکی ممانعت کی اور دونوں پر لعن وطن کیا وہ دونوں شرمندہ ہو کر چلے گئے جب میں سویا تو دیکھتا کیا ہوں کہ مقبرہ والے بزرگ مجھے زجر و توبخ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں مدت دراز سے ایک دوسرے کے مشتاق تھے اس رات ان کو موقع مل گیا غنیمت سمجھ کر اپنی خواہش پورا کرنا شروع کی تو کہاں کا خشک ملہ آیا کہ ان کے کام میں خلل انداز ہو گیا اور حقیقت حال کی تجوہ کو خبر نہیں اگر وکنا ہی منظور ہوتا تو میں خود ہی روکنے کی قوت رکھتا ہوں اور یہ کہہ کر زور سے میرے پیر پر لات ماری جس کی وجہ سے میں لٹنگڑا ہو گیا شاہ صاحب فرماتے ہیں مزاروں کے پیچاریوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ شیطان پیر کی شکل نہیں بناسکتا جیسا کہ شیطان رسول اللہ ﷺ کی شکل نہیں بناسکتا۔

جب کہ شیطان رسول اللہ ﷺ کی شکل نہیں بناسکتا حدیث سے ماخوذ ہے ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا (من رآنی فی المنام فسیرانی فی اليقظة ولا يتمثل الشیطان بی) (رواہ البخاری حدیث ۶۹۹۳) جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا وہ مجھے جاگتے ہوئے ضرور دیکھے گا اور انسؓ سے روایت ہے (قال قال النبی ﷺ من رآنی فی المنام فقد رآنی فان الشیطان لا یتخیل بی) (رواہ البخاری حدیث ۶۹۹۳) جس شخص نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا کیونکہ

پھینک دیا وہ فوراً کتاب بن کر رسول اللہ ﷺ کے سامنے سے ہٹ گیا اس کے بعد رسول اللہ ﷺ نے فرمایا وہ بھاگ گیا ہے اب مزید اس شہر میں نہیں رہے گا میں بیدار ہو کر اس کی بنی ہوئی قیام گاہ کی طرف گیا آدمی بولے وہ تو اپنی اس جگہ کو ویران کر کے کسی اور جگہ بھاگ گیا ہے۔ (البلاغ لممین ۱۸۱-۱۷۸)

شاہ صاحب اپنی اسی کتاب میں لکھتے ہیں ص ۱۵۶-۱۵۷ معتبر حضرات سے یہ بات ثبوت کے ساتھ منقول ہے کہ ایک عابد دریا گنگا اور جمنا کے علاقے میں خواجہ قطب الدین کے عرس کے زمانہ میں آیا خواجہ کی قبر کی زیارت کے لئے حاضر ہوا تو دیکھتا کیا ہے کہ حضرت خواجہ قطب الدین قبر سے باہر تشریف فرمائیں اور اس شخص کو اپنے ہاتھوں سے کپڑا کراز ردگی اور افسوس کے ساتھ اس ہجوم کی وجہ سے سر درد کی شکایت کر رہے ہیں انج. خواجہ قطب الدین کی قبر پر شیطان نے یہ کھیل بنا کر اس شخص کے عقیدے کو پا کر دیا کہ انہیاء اولیاء اپنی قبر میں زندہ ہیں اور اپنی قبر پر ہونے والے واقعہ سے باخبر ہیں اسلئے وہ عرس میں ہونے والے واقعات سے پریشان نظر آئے اور سر درد کی شکایت کی۔ شاہ صاحب اپنی اس کتاب کے ص ۱۹۰ میں فرماتے ہیں بعض (شیعہ) کہتے ہیں کہ تعزیہ کے ساتھ میں حسن و حسین کو برہنہ جاتے ہوئے دیکھا اس لئے مجھے بھی مجبور تعزیہ کے ساتھ چلنا پڑا شاہ صاحب فرماتے ہیں بعض پیر کہتے ہیں ایک شب میں نے فلاں بزرگ کے مقبرہ میں ایک مرد کو ایک عورت کے ساتھ زنا

میں منفرد نہیں بلکہ یہی بات مفسر قرآن عبد اللہ ابن عباس[ؓ] سے مردی ہے امام ترمذی (کتاب الشماں حدیث ۳۱۲) میں یہ حدیث لائے ہیں کہ ایک شخص نے ابن عباس[ؓ] سے کہا میں نے خواب میں رسول اللہ^{صلی اللہ علیہ وسلم} کو دیکھا ہے ابن عباس[ؓ] نے فرمایا رسول اللہ^{صلی اللہ علیہ وسلم} نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا کیونکہ شیطان میری شکل نہیں بنا سکتا ابن عباس[ؓ] نے فرمایا کیا تم اس شخص کی شکل میرے سامنے بیان کر سکتے ہو جس کو تم نے دیکھا ہے اس شخص نے ابن عباس[ؓ] کے سامنے وہ صورت بتائی جو اس نے دیکھی تھی تو ابن عباس[ؓ] نے فرمایا واقعی تم نے رسول اللہ^{صلی اللہ علیہ وسلم} کو دیکھا ہے ابن عباس[ؓ] کا اس شخص سے یہ سوال کرنا جس کو تم نے خواب میں دیکھا ہے اسکی شکل و صورت مجھے بتاؤ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ صحیح تھے کہ خواب میں آنے والا ہر وہ شخص جو محمد^{صلی اللہ علیہ وسلم} ہونے کا دعویٰ کرے وہ محمد^{صلی اللہ علیہ وسلم} نہیں ہو سکتا بلکہ اس کی تحقیق ہونی چاہیے اگر رسول اللہ^{صلی اللہ علیہ وسلم} کی شکل و صورت کے ساتھ اسکی مطابقت ہو تو اس نے رسول اللہ^{صلی اللہ علیہ وسلم} کی زیارت کی اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس نے رسول اللہ^{صلی اللہ علیہ وسلم} کو نہیں دیکھا کسی جن کو دیکھا ہے جس نے اس کو گراہ کرنے کی کوشش کی ہے اس مسئلہ کو صحیح لینے سے بہت سی غلط فہمیاں دور ہو سکتی ہیں اور شیطان و دجالوں کے دھوکے و فریب سے نجات مل سکتی ہے ان صوفیوں نے جو خوابوں پر اپنی دوکان چکار کھی ہے اور عوام الناس کو شرک و بدعت میں بٹلا کر رکھا ہے اس سے نجات پانے کے لئے خواب کے اس

شیطان میری شکل نہیں بنا سکتا ان احادیث سے ثابت ہے کہ شیطان رسول اللہ^{صلی اللہ علیہ وسلم} کی شکل و صورت اختیار نہیں کر سکتا لہذا جس نے خواب میں رسول اللہ^{صلی اللہ علیہ وسلم} کو دیکھا اس نے آپ ہی کو دیکھا، یہ واضح رہے کہ ان احادیث میں یہ ہے کہ رسول اللہ^{صلی اللہ علیہ وسلم} کی صورت شیطان نہیں بنا سکتا لیکن کسی دوسری صورت و شکل میں آکر اپنے بارے میں رسول اللہ^{صلی اللہ علیہ وسلم} ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے یعنی جو شخص رسول اللہ^{صلی اللہ علیہ وسلم} کی حقیقی صورت سے واقف نہیں ہے تو شیطان کسی بزرگ کی شکل میں آکر اس کو دھوکہ دے سکتا ہے کہ میں تیرانبی محمد^{صلی اللہ علیہ وسلم} ہوں اور احادیث میں یہ ہے کہ شیطان نبی کی صورت نہیں بنا سکتا اس لئے اگر کسی شخص نے خواب میں بزرگ کی شکل دیکھی اس نے اس کو نبی کریم^{صلی اللہ علیہ وسلم} سمجھ لیا تو ضروری نہیں کہ اس نے واقعی رسول اللہ^{صلی اللہ علیہ وسلم} کو دیکھا ہو۔ لہذا نبی کریم^{صلی اللہ علیہ وسلم} کو دیکھنے کے لئے شرط ہے کہ اس شخص نے آپ کو اس شکل میں دیکھا ہو جس صورت میں آپ کی وفات ہوئی ہے اس لئے امام بخاری^{رحمۃ اللہ علیہ} نے ابو ہریرہ^{رض} کی مذکورہ حدیث کے بعد خوابوں کی تعبیرات کے مشہور عالم تابعی ابو ہریرہ^{رض} کے شاگرد جناب محمد بن سیرین^{رحمۃ اللہ علیہ} کا قول نقل کیا ہے (قال ابو عبد اللہ قال ابن سیرین اذا ارآه في صورته) یعنی امام بخاری^{رحمۃ اللہ علیہ} نے فرمایا محمد بن سیرین^{رحمۃ اللہ علیہ} نے رسول اللہ^{صلی اللہ علیہ وسلم} کو دیکھنا اس وقت ثابت ہو گا جس وقت دیکھنے والے نے آپ^{صلی اللہ علیہ وسلم} کو آپ^{صلی اللہ علیہ وسلم} کی اصلی و حقیقی صورت میں دیکھا ہو، امام بن سیرین^{رحمۃ اللہ علیہ} اس شرط کے عائد کرنے

تالیف کر رہا ہوں انشاء اللہ یہ رسالہ بیت اللہ کی تعمیر روحانی میں معین ہو گا چنانچہ ہزاروں خطوط اس نوع کے پہنچنے کہ اس رسالہ سے حج و زیارت میں بہت لطف آیا۔

غور کیجئے! پہلی بشارت میں رسول اللہ ﷺ کو سفید داڑھی اور چشمہ کے ساتھ بتایا حالانکہ رسول اللہ ﷺ جب فوت ہوئے تو آپ کی داڑھی کامی تھی اور رسول اللہ ﷺ نے چشمہ کبھی نہیں پہنا پھر لطف کی بات یہ ہے کہ آپ مجرہ کے اندر تشریف فرماتھے اور مجرے میں بیٹھا ہوا انسان نظر کا چشمہ لگا تا ہے کوئی دوسرا نہیں اس ظالم صوفی نے رسول اللہ ﷺ کو بوڑھا بتایا اور آنکھوں کی کمزوری کا عیب آپ پر لگایا ان صوفیاء کو جو شیطان کے آله کار بنے ہوئے ہیں رسول اللہ ﷺ کی شان میں گستاخی کی کوئی پرواہ نہیں ہے انہوں نے اپنی دوکان چمکانا ہے دوسری بشارت کو لیجئے رسالہ فضائل حج جو بدعات و خرافات و تشرکیات سے بھرا ہوا ہے اس کی تالیف کے وقت جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اس ظالم صوفی نے اپنے خواب میں منگوالیا حالانکہ جناب ابراہیم علیہ السلام شرک کی جڑ کاٹنے والے حنیف تھے۔

رسول اللہ ﷺ کے سر پر انگریزی ٹوپی

اللہ کے رسول ﷺ کی شان میں گستاخی جماعت تبلیغ کے شیوخ واکابرین کا شیوه رہا ہے، انور شاہ صاحب کشمیری نے (فیض الباری ج ۱ ص ۲۰۳-۲۰۴) میں

مسئلہ کو ذہن نشین کر لینا چاہیے اس مسئلے میں بہت لوگوں نے دھوکہ کھایا ہے خاص کر جماعت تبلیغ کے شیوخ واکابرین کو اس غلط فہمی و دھوکہ دہی میں وافر حصہ ملا ہے جبکہ ان کی جماعت کی کثرت کا سبب بھی دھوکہ دہی و فریب کاری ہے مولوی زکریا صاحب مؤلف تبلیغی نصاب و فضائل اعمال کے مبشرات پر اقبال نامی شخص نے دو کتابیں لکھی ہیں ایک کتاب (بنام ہبھی القلوب) میں خواب اور بشارتیں جمع کی ہیں ان بشارتوں و خوابوں میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ ﷺ زکریا صاحب کی زیارت کے لئے تشریف لایا کرتے تھے ان خوابوں میں سے ایک میں لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ شیخ زکریا صاحب کی مجلس میں دیکھے گئے داڑھی آپ کی سفید تھی آنکھوں پر چشمہ لگا رکھا تھا (ہبھی القلوب ص ۱۶)۔

رسالہ فضائل حج کی تالیف پر بشارت

اسی کتاب کے ص ۱۲ پر خواب مذکور ہے جس میں ہے کہ رائے پور شریف کی خانقاہ میں ایک ذاکر شاغل بزرگ مولانا خدا بخش صاحب مقیم تھے انہوں نے ایک روز خواب دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور شیخ زکریا صاحب بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں انہوں نے خواب حضرت رائے پور قدس سرہ کی خدمت میں عرض کیا حضرت اقدس نے اپنی عادت شریفہ کے مطابق فرمایا کہ اس کی تعبیر حضرت شیخ سے پوچھنا حضرت رائے پوری تشریف لے گئے تو یہ خواب بیان ہوا اور تعبیر پوچھی گئی حضرت شیخ نے فرمایا میں آج کل رسالہ فضائل حج

رسول ﷺ آسمان سے مدرسہ دیوبند کا حساب لینے آئے جماعت دیوبند کے حکیم الامت اشرف علی صاحب نے (ارواح ثلاثہ حکایت ۲۲۰) میں لکھا ہے رسول ﷺ بعث صاحبین کے آسمان سے نازل ہو کر مدرسہ دیوبند کا حساب لینے آیا کرتے تھے۔

رسول ﷺ اس دنیا میں کہاں آئیں گے، شیطان ہی کبھی نبی بن کر کبھی ولی بن کر کبھی شہید بن کر جاہل صوفیوں کو گمراہ کرنے میں لگا ہوا ہے۔

شیطان کبھی بزرگوں کی شکل بنا کر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے
 علامہ شبلیٰ (احکام الجان ص ۳۶) میں مجاهد کی روایت لائے ہیں وہ فرماتے ہیں میں جب نماز کے لئے کھڑا ہوتا تھا تو شیطان ابن عباس کی شکل بنا کر میرے سامنے آ جاتا تھا ایک دن میں نے چھری اپنے ساتھ رکھ لی جب وہ میرے سامنے آیا تو میں نے چھری سے اس پر حملہ کر دیا وہ گرا، اس کے گرنے کی میں نے آواز سنی اس کے بعد میں نے اس کو نہیں دیکھا شاہ ولی اللہُ (البلغ امین ص ۱۹۲) و ما بعدہ میں فرماتے ہیں اس قسم کے لمبے چوڑے قصے پیر پرستوں اور قبر پرستوں کے مشہور ہیں جو کہ دین اسلام اور انبياء کرام اور اولیاء کے طریقوں کے سر اسر مخالف اور منافق ہیں اگر یہ واقعات خود بخود اس بات پر گواہی دیں کہ شیطان مسلمان بزرگ آدمی کی صورت میں آ سکتا ہے تو خیر و نہ میں حدیث

کسی شخص کے خواب کا ذکر کیا ہے کہ اس نے رسول ﷺ کے سر پر انگریزی ٹوپی دیکھی اس کی تعبیر مولیٰ رشید احمد گنگوہی صاحب نے یہ کی ہے کہ آپ ﷺ کے دین پر نصاریٰ کا دین غالب آ جائیگا کیا یہ شخص جس نے سر پر انگریزی ٹوپی لگا رکھی تھی رسول ﷺ تھے ایسا ہونا ہرگز ممکن نہیں ہے اس صوفی کے ساتھ جس نے یہ خواب دیکھا ہے شیطان کھیلا ہے اس کو بیوقوف بنا یا اس صوفی کے سامنے شیطان انگریزی ٹوپی لگا کر آیا اور اپنے آپ کو اس کے سامنے محمد رسول ﷺ ظاہر کیا اگر یہ صوفی جانتا کہ آپ ﷺ کو خواب میں دیکھنے کی کیا شرائط ہیں تو اس سے کبھی دھوکہ نہ کھاتا۔

رسول ﷺ علماء دیوبند کے شاگرد، رسول ﷺ نے علماء دیوبند سے اردوی یہی

مولیٰ خلیل احمد صاحب مؤلف بذل المحبود فی حل ابی داؤد نے برائیں قاطعہ نامی کتاب تالیف کی ہے اس کے ص ۳۰ پر لکھتے ہیں ایک صالح، رسول ﷺ کی زیارت سے مشرف ہوئے تو آپ کو اردو میں کلام کرتے دیکھ کر پوچھا آپ کو یہ کلام کہاں سے آ گیا آپ تو عربی ہیں؟ (آپ ﷺ نے) فرمایا جب سے علماء دیوبند کے مدرسے میں آنا جانا ہوا ہم کو یہ زبان آگئی اس جاہل صوفی کو اتنی سمجھ بھی نہیں آئی کہ اردو بولنے والے محمد عربی ﷺ نہیں ہو سکتے۔

تو سل سے منع فرمایا ہے لیکن جہوڑ علماء اس کے جواز کے قائل ہیں (فضائل حج فصل ۹ آداب زیارت ۳۲)۔

میں کہتا ہوں علماء اہل سنت و سیلہ سے دعا کرنے کو بدعت کہتے ہیں صحیح ہے۔ اور جن علماء کی مولوی زکریا صاحب نے بات کی ہے وہ علماء اہل بدعت ہیں اہل سنت نہیں شرح عقیدہ طحاویہ (ص ۲۳۷ میں ہے) (ولهذا قال ابوحنیفہ وصحابہؓ یکرہ ان یقول الداعی انی اسالک بحق فلان او بحق انبیائک ورسلک وبحق بیت الحرام والمشعر الحرام ونحو ذالک . حتیٰ کرہ ابوحنیفہ و محمدؐ ان یقول الرجل اللهم انی اسالک بمعقد العزم من عرشک) س لئے امام ابوحنیفہؓ اور امام محمدؐ نے اس بات کو ناجائز کہا ہے آدمی دعا میں اس طرح کہے اے اللہ فلاں کے واسطے سے میری دعا قبول فرمایا یوں کہے اپنے انبیاء اور رسولوں کے واسطے اور وسیلے سے یا کہے بیت الحرام اور مشعر الحرام کے واسطے سے میری یہ دعا قبول فرماتی کہ امام ابوحنیفہؓ و محمدؐ نے اس طرح دعا کرنے سے بھی منع فرمایا ہے اور مکروہ جانا ہے۔ اللهم انی اسالک بمعقد العزم من عرشک۔ یہ ہے علماء اہل سنت کا قول کہ بزرگوں کے وسیلے سے دعا کرنا بدعت ہے۔

بزرگوں کی قبر پر دعا کرنا، رسول ﷺ کے بالوں نے

شریف سے دلیل نقل کرتا ہوں وہ شافی دلیل یہ ہے کہ جب دجال بعض دیہات پر پہنچ گا اور وہاں کے رہنے والوں کو اپنی طرف دعوت دیگا اور وہ اس کا انکار کریں گے اور کہیں گے ہمارے والدین اور بزرگ جس دین پر ہمیں چھوڑ گئے ہیں اس دین پر قائم رہنے کا ہم کو حکم دے گئے ہیں تو دجال اپنے شیاطین کو حکم دے گا کہ ان بزرگوں کی شکل میں آ کر میری سچائی کی گواہی دو چنانچہ وہ شیاطین اس ملعون کے کہنے کے مطابق ان بزرگوں کی شکل میں آئیں گے اور ان لوگوں کے ایمان بتاہ کر دیں گے۔

اس حدیث سے زائد صریح روایت وہ جمع الجامع کی روایت ہے کہ رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا آخر زمانے میں شیاطین انسانوں کی شکل میں آ کر لوگوں کو گمراہ کرتے پھریں گے اس قسم کی احادیث کے لئے دیکھنے کنز العمال (حدیث ۳۸۷-۳۸۷-۳۸۷-۳۸۷-۳۸۷) ان احادیث میں اس بات کا ذکر ہے کہ دجال کے پاس شیاطین ہونگے جو زندہ لوگوں کے مردہ رشته داروں کی شکلوں میں آئیں گے اور ان سے کہیں گے یہ دجال ہی ہمارا رب ہے تم اس کو اپنا رب مان لو۔

دعا بزرگوں کے وسیلے سے مانگنی چاہیئے
مولوی زکریا صاحب فرماتے ہیں حاجی، سلام کے بعد اللہ جل شانہ سے حضور کے وسیلے سے دعا کرے اور حضور سے شفاعت کی دعا کرے بعض علماء نے

خفیت کو ترک کر دیا اور صوفیت کے سلسلے کو اختیار کر لیا جس میں دین و مذہب کی کوئی قید نہیں ہے صوفیت لا دینی مشرب ہے اس میں عشق و محبت کے نام پر سب کچھ جائز ہے یہی وجہ ہے جماعت تبلیغ کے شیوخ نے جو سب کے سب خنفی، دیوبندی کہلاتے ہیں اپنے مذہب کے اصول و قواعد کو بالائے طاق رکھ دیا ہے خنفی مذہب میں کسی کے طفیل کسی کے وسیلے سے دعا کرنا مکروہ ہے۔

(فتاویٰ عالمگیری ج ۵ ص ۳۱۸ میں ہے) ”وَيَكْرِهُ إِنْ يَقُولُ فِي الدُّعَاءِ

بِحَقِّ فَلَانٍ وَكَذَا بِحَقِّ الْأَنْبِيَاءِ كَ وَالْأَلِيَّاتِ وَرَسُولِكَ او بِحَقِّ
بَيْتِ الْحَرَامِ او مُشْعِرِ الْحَرَامِ لَا نَهِيٌّ لَّا حَقٌّ لِّلْمُخْلُوقِ عَلَى اللَّهِ
تَعَالَى“، یعنی مخلوق میں سے کسی کے حق کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا
مکروہ و ناجائز ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ پر مخلوق میں سے کسی کا حق نہیں ہے اللہ کے
انبیاء و رسول اور اولیاء کے حق کے طفیل بھی دعا کرنا جائز نہیں ہے یہ ہے خنفی مذہب
الحرام مشعر الحرام کے حق کے طفیل بھی دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ ہے خنفی مذہب
اس قول میں کسی خنفی امام و فقہ و مجتہد کا اختلاف مذکور نہیں ہے مگر زکر یا صاحب
نے تبلیغ کے نصاب کی کتابوں میں خنفیت کے تمام قواعد و اصولوں کو وندو لا ہے
اور بعدی صوفی سلسلوں کی راہ پر اپنی جاہل عوام کو ڈال دیا ہے اور اس جماعت پر
نصاب کی کتابوں کے علاوہ کسی بھی کتاب کو اجتماعات میں پڑھنا حرام کر دیا ہے
اس سلسلے میں یہ حوالہ ملاحظہ فرمائیں تابش مہدی لکھتے ہیں چند ماہ پہلے کی بات

غريب کو امیر کر دیا

زکر یا صاحب فرماتے ہیں ایک تاجر فوت ہوا تو کہ میں کثیر مال کے علاوہ حضور
کے تین بال بھی تھے بڑے بیٹے نے سارا مال لیا چھوٹے بیٹے نے تین بالوں
کو ترجیح دی وہ اس کی بار بار زیارت کرتا اور درو شریف پڑھتا آخر بڑا بھائی
غريب اور چھوٹا بھائی امیر ہو گیا چھوٹا بھائی فوت ہوا تو کسی صالح کو حضور نے
خواب میں ارشاد فرمایا جب کسی کو کوئی ضرورت ہوا اسکی قبر کے پاس بیٹھ کر اللہ
تعالیٰ سے دعا کرے (فضائل درود فصل ۵ حکایت ۳۵)۔

اس حکایت سے تبلیغ جماعت کو مولوی زکر یا صاحب نے قبر پرستی پر لگا دیا ہے
اور جماعت کو یہ ترغیب دلائی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جو مانگنا چاہیں وہ مسجدوں
میں نہیں قبروں پر جا کر مانگیں وہاں دعاؤں کی قبولیت کے زیادہ امکانات ہیں۔

ایک اعرابی نے آپ کے وسیلے سے مغفرت طلب کی تو قبراطہ سے آواز آئی
بیشک تمہاری مغفرت ہو گئی (فضائل حج فصل ۹ زائرین کے واقعات ۷۶)۔

نبی کریم ﷺ اسی حجرہ میں دن ہیں جہاں ساری عمر بی بی عائشہ صدیقہؓ مقیم
رہیں کیا کبھی بی بی عائشہؓ کو بھی آپ نے قبر سے جواب دیا کیا کبھی ابو بکر صدیق
ؓ کو بھی قبر سے علیکم السلام آپ نے کہا صوفی کے لئے یہی کہنا کافی ہے اذا الم
تستحبی فاصنع ما شئت (رواہ البخاری حدیث ۳۲۸۲) جب تو حیاء سے
خالی ہو جائے تو جو چاہے کر جماعت تبلیغ کے شیوخ نے اپنے فقہی مذہب

کروزگاً اگر ان کے بدن سے کبھی میرا بدن یا کپڑا چھو جاتا ہے تو میں کم از کم چالیس بار دھوتا ہوں یہ ہے جماعت تبلیغ کا اکرام مسلم جو اس کے چھاصولوں میں سے ایک ہے۔ دراصل یہ جاہل صوفی کا اپنے بارے میں یہ گمان ہے کہ وہ اتنے چلے لگا کر بہت بڑا ولی بن چکا ہے کہ پوری دنیا اس کے مقابلے میں کچھ نہیں وہ سمجھتا ہے کہ ان چلوں سے میں طاہر و مطہر ہو چکا ہوں باقی سب لوگ ناپاک ہیں یہ صوفی چند چلے لگانے کے بعد اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے۔

تابش مہدی کتاب مذکورہ کے ص ۱۸ پر لکھتے ہیں۔ ایک سے زائد بارگشت کے فضائل اس انداز میں بیان کرتے ہوئے سنائے ہے ”دوستو اور بزرگوں یہ گشت والا عمل انبیاء والا عمل ہے صحابہ والا عمل ہے خدا کی قسم اگر اس کام کو تمام انبیاء اور صحابہ نے کیا ہوتا تو سب کے سب مقی ہو کر مرتے“۔

تبلیغ پر نکلے ہوئے مرد کی نظر اگر حاملہ عورت پر پڑ جائے تو

پیدا ہونے والا بچہ ولی پیدا ہوگا

تابش صاحب کتاب مذکورہ ص ۱۸ میں لکھتے ہیں ایک صاحب نے بتایا کہ مہاراشٹر کالج نمبی کی مسجد میں ایک بار جماعت آئی گشت کا پروگرام بناؤ کچھ دیر کے لئے وہ صاحب بھی بیٹھ گئے لیکن جب گشت کے فضائل اس طرح بیان

ہے کہ دیوبندی کی جامع مسجد کے نمازیوں نے چاہا کہ عصر کے بعد بجائے تبلیغی نصاب کی خواندگی کے تفسیر معارف القرآن پڑھی جائے تو ایک تبلیغی بھائی نے بڑی سختی سے کہا کہ اس میں برکت نہیں ہے اور جب تفسیر شروع کر دی گئی تو اٹھ کر چلا گیا اور مسلسل یہی روشن رہی (تبلیغ جماعت اپنے بانی کے مفہومات کے آئینہ میں مؤلفہ تابش مہدی ص ۳۲) جماعت کے نزدیک دین کا کام صرف چلوں اور خروج پر مرکوز ہے دینی مدارس میں قرآن و سنت کی تعلیم احکامات کی تشریع و توضیح کوئی کام نہیں ہے اور تابش مہدی نے مذکورہ کتاب کے ص ۲۸ پر لکھا ہے۔ ایک بار جماعت تبلیغ دار العلوم پہنچی وہاں دارالعلوم کی مسجد میں قیام کیا اور وہیں سے گشت کا پروگرام بنایا۔ سب سے پہلے جماعت دارالعلوم کے شیخ الحدیث مولانا فخر الدین کے پاس پہنچی مولانا دارس میں مشغول تھے ان میں سے دو افراد نے بڑھ کر شیخ کو دو طرف سے پکڑ لیا اور کہا حضرت اٹھنے زندگی کا آخری وقت ہے اب تو کچھ دین کا کام کر لیجئے کتابوں میں تو پوری زندگی لگا دی۔

جماعت تبلیغ کا دوسرا جماعتوں کے ساتھ سلوک

تابش مہدی صاحب نے کتاب مذکورہ کے ص ۳۸ پر لکھا ہے چند سال پہلے کی بات ہے نان پورہ ضلع بہراچ کی بازار والی مسجد میں ایک قاری صاحب نے اقامت کہدی تو وہاں کے امیر تبلیغ جناب عبدالشکور صاحب نماز ہی چھوڑ کر چلے گئے اور کہا میں مودودیوں کی کہی ہوئی تکبیر سے ہونے والی نماز میں شرکت نہیں

تبليغيوں کے چلوں کی حقیقت کا انکشاف

مولوی اشرف علی صاحب نے فرمایا ایک بزرگ کی خدمت میں ان کے معتقد حاضر ہوئے بس مل کر مر جھا گئے انہوں نے پوچھا کیا بات ہے عرض کیا کہ یہاں آ کر ایک عجیب بات دیکھی کہ آپ کی سور کی شکل نظر آتی ہے ان بزرگ نے فرمایا کہ تم چلہ لگاؤ پھر جب آئے تو کتنے کی سی شکل نظر آتی اسی طرح بلی پھر انسان کی سی نظر آتی تب ان بزرگ نے فرمایا کہ یہ خرابی تمہارے اندر تھی میں تو آئینہ ہوں جیسی تمہاری حالت تھی ویسی میری اندر نظر آتی (مکتوبات و ملفوظات اشرفیہ ص ۲۹۹)۔ اس حکایت سے یہ حقیقت مکشف ہوتی ہے کہ صوفی تبلیغی اس لئے چلے لگاتے پھرتے ہیں کہ کہیں ان کی شکلیں اس پیر جیسی نہ ہو جائیں یا بقول پیر، مرید جیسی نہ ہوں۔ اور اس سے یہ بھی واضح ہوا کہ کم از کم تین چلے لگانا ضروری ہیں تین چلوں کے بعد ہی صوفی کا چہرہ انسانوں والا ہو سلتا ہے اس سے پہلے نہیں۔ اس حکایت سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ صوفیاء کے نزدیک جس شخص نے چلہ نہیں کھینچا انسان نہیں بلکہ حیوان ہے اس لئے صوفی تبلیغی کے ہاں اپنے علاوہ کسی اور کی کوئی اہمیت ہی نہیں اس کی حیثیت ان کے ہاں انسانوں جیسی نہیں حیوانوں جیسی ہے اس بات کی مزید تائید اس واقعہ سے ہوتی ہے۔

شاہ عبدالعزیز کی گپٹری

ہوئے۔ ”دوستوار بزرگو یہ گشت والاعمل بڑے اجر و فائدہ کا عمل ہے کیونکہ انبواء و صحابہ کا عمل ہے اس راہ میں چلنے والا ہر قدم اتنا متبرک ہے اتنا متبرک ہے اگر چلنے والے کی نظر کسی حاملہ عورت پر پڑ جائے تو انشاء اللہ پیدا ہونے والی اولاد ولی پیدا ہوگی۔“

تبليغي چلے لگانے والا مجاهد کی موت مرتا ہے اور نہ لگانے والا گدھے کی موت

تابش مہدی صاحب کتاب مذکور کے ص ۱۶ میں لکھتے ہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے کم ۱۹۶۷ء میں تیجی پور ضلع پرتاپ گڑھ کے اجتماع میں ایک مشہور تبلیغی واعظ کھڑے ہوئے پہلے انہوں نے فضیلت جہاد کی کئی حدیثیں سنائیں اس کام کو جہاد سے تعبیر کرتے ہوئے فرمایا بھی اب یہ بتاؤ کہ آپ میں سے کون کون گدھے کی موت مرننا چاہتا ہے ذرا ہاتھ اٹھائیں کسی نے جب ہاتھ نہیں اٹھایا تو موصوف نے فرمایا اچھا وہ بھائی ہاتھ اٹھائیں جو گھوڑے (یعنی مجاهد کی) موت مرننا چاہتے ہیں تو سب کے سب نے ہاتھ اٹھادیا پھر اس کے بعد فرمایا بھی سچی سچی بات تو یہ ہے کہ اگر گھوڑے کی موت مرنے کی تمنادل میں ہے تو کم از کم ایک چلہ تو اللہ کی راہ میں دینا ہی پڑے گا۔ یہ چلے کیوں لگائے جاتے ہیں اس کا انکشاف اس کہانی سے ہوگا۔

صوفیاء کتوں اور خزیروں کو اپنا معبود سمجھتے ہیں
ان کا یہ قول ہے و ما الكلب والخنزير الا الہنا۔ (الکشف عن حقیقت الصوفیاء ص ۱۶۲) کتنے اور خزیر ہمارے الہ اور معبود ہیں اسی کتاب کے (ص ۲۲۵) میں ہے ایک صوفی کے سامنے سے کتابگزرا صوفی اس کی تعظیم کے لئے اٹھ کھڑا ہوا اس بارے میں اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا اس کے گلے میں فقیری کا پڑھتا اس لئے میں اس کی تعظیم کے لئے کھڑا ہوا۔ اپنے آپ کو سور و کتا کہنے میں ہی صوفی بیحد فخر محسوس کرتا ہے مولوی زکریا صاحب اپنے ایک مکتوب میں فرماتے ہیں بارگاہ رسالت پر پہنچ کر اگر یاد آجائے تو یہ الفاظ بھی عرض کر دینا (ایک رو سیاہ ہندی کتنے نے بھی سلام عرض کیا تھا) سوانح محمد یوسف ص ۱۳۲ اور امداد المشتاق ص ۱۳۲ میں اشرف علی صاحب فرماتے ہیں جنید پر حالت طاری تھی سامنے سے کتابگزرا اس پر ایسا اثر پڑا کہ چیختا ہوا نکلا باہر جا کر مراقب ہو کر بیٹھ گیا اور شہر کے کتنے اس کے گرد بغرض استفادہ کے جمع ہو گئے۔ یہ ہے صوفیت جو انسان کو اس کی اپنی جنس سے نکال کر حیوانوں کی ذلیل ترین جنس میں شمار کر دیتی ہے انسان و مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی (سورہ ص : ۷۵)
حق تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس جس چیز کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا اس کو سجدہ کرنے سے تجوہ کوون سی چیز مانع ہوئی۔ ترجمہ اشرف علی صاحب تھانوی ﴿ولقد

شah عبدالعزیز صاحب جامع مسجد میں آتے تھے تو عمامہ آنکھوں پر جھکا لیا کرتے تھے اور ادھر ادھر نہیں دیکھا کرتے تھے ایک شخص نے اس کا سبب پوچھا شاہ صاحب نے اپنا عمامہ اس کے سر پر رکھ دیا، دیکھا کہ تمام جامع مسجد میں بجز دو چار آدمیوں کے سب گدھے، کتنے بھیڑیے، بندرو پھر رہے ہیں فرمایا اسی وجہ سے میں اس صورت میں آتا ہوں مجھ کو سب کتنے بندرو غیرہ نظر آتے ہیں اور طبیعت پریشان ہوتی ہے (قصص الاكابر : مؤلفہ اشرف علی تھانوی صاحب ص ۱۸-۱۷) یہ ہے صوفی تبلیغی کا اپنے مخالفوں کے بارے میں نظریہ، یہ دو چار آدمی جو شاہ صاحب کو انسان نظر آئے غالباً چلے نکالے ہوئے صوفی ہوئے اور ان کے علاوہ جو گدھے، کتنے بندرو غیرہ نظر آئے وہ ہوئے جنہوں نے کوئی چلہ نہیں کھینچا۔

صوفی اپنے آپ کو سور، کتنے سے بھی بدتر سمجھتا ہے اشرف علی صاحب تھانوی کے خلیفہ حاجی محمد شریف فرماتے ہیں اسی طرح آپ (اشرف علی صاحب) کا یہ جملہ مجھے نہیں بھولتا کہ میں اپنے آپ کتنے اور سور سے بدتر جانتا ہوں (مکتوبات و ملفوظات اشرفیہ ص ۳۳-۳۲) اور یہ جملہ بھی انہیں کا ہے، خدا کی قسم میں اس قابل ہوں کہ گندی نالی میں پھینک دیا جاؤں اور ہر شخص مجھ پر تھوک تھوک کر جائے (مکتوبات و ملفوظات ص ۲۷)

پیروی کرنے لگا تو اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی کہ تو اس پر حملہ کرے تب بھی ہانپے یا اس کو چھوڑ دے تب بھی ہانپے یہی حالت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آئیوں کو جھٹلایا۔

اس آیت سے معلوم ہوا دنیا کا کتا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کرتا ہے اور اپنی خواہش نفسانی کی غلامی کرتا ہے لہذا کسی مسلمان و مومن کو لا اُق نہیں کہ وہ اپنے آپ کو سور یا کتا کہے اور اگر کہتا ہے تو پھر رب تعالیٰ اگر اس کو اسی مخلوق سے اٹھادے تو اس کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے اور زکر یا صاحب کا قول گذرائے کعبہ بعض بزرگوں کی زیارت کو خود جاتا ہے اس کی تائید میں یہ پڑھیئے۔

بعض اولیاء ایسے ہیں کہ کعبہ خود ان کی زیارت کو جاتا ہے۔

یہاں پر فرمایا کہ حضرت خواجه ابراہیم بن ادھم نے حج کے ارادے سے خانہ کعبہ کا راستہ اختیار فرمایا اور فرمایا ہر شخص پیروں کے بل جاتا ہے مجھے یہ راستہ سر کے بل طے کرنا چاہیے چنانچہ شکرانے کے طور پر ایک ایک قدم پر دو گانہ نفل پڑھتے چلے گئے یہاں تک کہ چودہ برس کی مدت میں بلخ سے کعبہ معظمه تک پہنچ گروہاں خانہ کعبہ کو اپنی جگہ پر موجود نہ پایا نہایت حیران ہوئے اتنے میں ہاتھ غیبی سے آواز آئی اے ابراہیم ٹھہر و اور صبر کرو کعبہ معظمه ابھی ایک ضعیفہ کی زیارت کو گیا ہے ابھی آتا ہے خواجه ابراہیم یہ سن کر اور زیادہ متاخر ہوئے اور عرض کی الہی وہ

کرم منا بنی آدم ﷺ (بنی اسرائیل : ۷۰) اور ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی ﷺ (لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ﷺ (اتین : ۳) ہم نے انسان کو بہت خوبصورت سانچے میں ڈھالا ہے انسان وہ مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے ﷺ واذ قال رب للملائكة انى جاعل فى الارض خليفة ﷺ (ابقرہ : ۳۰) ارشاد فرمایا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ ضرور میں بناؤں گاز میں پر ایک نائب یعنی وہ میرانا نائب ہو گا کہ اپنے احکام شرعیہ کے اجراء و نفاذ کی خدمت اس کے سپرد کروں گا از اشرف علی صاحب تھانوی۔ یہ ہے انسان اور اسکی شان اگر اس کو چھوڑ کر کتا یا سور بننا چاہے تو رب تعالیٰ کو کیا اعتراض ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کفار کو دنیا کے کتے کہا ہے ﷺ واتل عليهم نباالذى آتینه آتینا فانسلخ منها فاتبعه الشیطان فکان من الغوین و لوشئنا لرفعنه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهم او تسرك يلهم ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآيتنا ﷺ (الاعراف : ۱۷۵-۱۷۶) اور ان لوگوں کو اس شخص کا حال پڑھ کر سائیے کہ اس کو ہم نے اپنی آیتیں دیں پھر وہ ان سے بالکل ہی نکل گیا پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا سو وہ گمراہ لوگوں میں داخل ہو گیا اور اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آئیوں کی بدولت بلند مرتبہ کر دیتے لیکن وہ دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی نفسانی خواہش کی

اس بدعتی و خرافی مذہب و جماعت کے عقائد و نظریات و افکار و اقوال کا ذکر چل رہا ہے تو کعبہ کے تعلق سے یہ خرافات پڑھتے چلیں۔ حظیم میں نماز پڑھتے ہوئے ایک بزرگ نے کعبہ کے اندر سے آوازنی میں اولا اللہ تعالیٰ سے شکایت کرتا ہوں اور اس کے بعد جریل سے شکایت کرتا ہوں لوگوں کی کہ وہ میرے گرد ہنسی مذاق اور لغو باتوں میں مشغول رہتے ہیں اگر یہ لوگ ان حرکتوں سے بازنہ آئے تو میں ایسا پھٹوں گا کہ میرا ہر پتھر جدا ہو جائے گا (فضائل حج فصل ۶ حدیث ۷ کی شرح)۔ میں کہتا ہوں کعبہ کی یہ آواز رسول اللہ ﷺ اور صحابہؓ میں سے بھی کسی نے سنی تھی جاہلیت کے زمانے میں کعبہ پر کیا کیا ظلم و زیادتیاں ہوئیں اللہ کے اس گھر میں تین سو سانچھت رکھے گئے اس طاہر و مطہر گھر کا لوگوں نے ننگا طواف کیا اور توں نے مردوں کو ننگا دیکھا اور مردوں نے عورتوں کو عریاں دیکھا کیا کبھی اس وقت بھی کسی صاحب کشف نے اس کی فریاد و شکایت سنی اگر کبھی ایسا ہوا ہوتا تو اس کا ذکر ضرور ملتا مگر یہ سب خرافات و اکاذیب جماعت تبلیغ کے حصے میں آئی ہیں قریش مکہ کا فرد مشرک ضرور تھے مگر پاگل و مجنوں نہیں تھے کہ پتھروں کے بولنے کی بڑھی ہا نکتے۔

کعبہ کا طواف کیا بلیک کا جواب نہیں سناتو بلیک کا کیا فائدہ
موسیٰ علیہ السلام کو صفا و مروہ کے درمیان دوڑتے ہوئے آسمان سے آواز آئی
(بلیک عبدي انا معك) یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام سجدہ میں گر گئے

ضعیفہ کوں ہیں جن کی زیارت کو کعبہ چل کر گیا ہے حکم ہوا جنگل میں ایک ضعیفہ ہیں خواجہ روانہ ہوئے تاکہ اس ضعیفہ کی زیارت کا شرف حاصل کریں جب جنگل میں پہنچے تو حضرت بی بی رابعہ بصری موجود ہیں اور کعبہ ان کے ارد گرد طواف کر رہا ہے حضرت ابراہیم کو غیرت آئی اور بی بی رابعہ کو پکار کر فرمایا کہ تم نے یہ کیا شورڈا ہوا ہے رابعہ بصری نے جواب دیا کہ یہ شور میں نہیں تم نے جہاں میں شور برپا کیا ہوا ہے کہ چلتے چودہ برس میں کعبہ تک پہنچے پھر بھی اسے دیکھنے کی آرزو پوری نہ ہوئی جب ابراہیم نے یہ سناتو فرمایا اے رابعہ تمہیں کعبہ کی آرزو تھی تو وہ تمہارے پاس موجود ہو گیا اور ہمیں خانہ کعبہ والے کی آرزو تھی وہ ہم سے چھپ گیا۔ (انیس الارواح ملفوظات خواجہ ہارونی ص ۳۳-۳۵)۔

بیت الحرام کا اپنی جگہ سے ہٹ جانا اس کا وہاں موجود نہ ہونا کسی ولی و بزرگ کی قدم بوی کے لئے خود اس کے پاس جانا فقہ حنفی کی مشہور کتاب (فتاویٰ شامی- حاشیہ رد المحتار ج ۱ ص ۲۹۰ اور ج ۲ ص ۸۶۸) میں ممکن لکھا ہے یعنی ہونا ممکن و جائز ہے لہذا اگر کبھی کعبہ اپنی جگہ پر نہ ملے کسی کی زیارت کے لئے گیا ہو تو اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے یہ ہے بدعتی عقیدہ و بدعتی مذہب اس مذہب والے اپنے آپ کو سنی کہلاتے ہیں کہاں سنت اور کہاں یہ بدعتی مذہب و بدعتی عقائد۔

کعبہ شریف کے پتھر بول پڑے

بھی کچھ زیادہ کیونکہ وہ کافروں کی تلوار سے شہید ہوئے اور میں عشقِ مولیٰ کی تلوار سے (فضائل حج فصل ۲۰) حج والوں کے قصہ، قصہ ۲۳ خود کشی کرنے والے اس ملحد جس نے نہ احرام باندھا بلکہ نگارہ انہ لبیک کہا اور حرام موت مرایہ کفر والحاد کی بڑھائی کی کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کا یہ لوگ طواف کرتے تو بیت اللہ سے بے نیاز ہو جاتے اور دعویٰ کیا کہ اس کو شہداء بدر سے بھی اونچا درجہ ملا ہے اس قسم کی بکواس وہی شخص کر سکتا ہے جو عقل سے فارغ ہو کر پاگل و دیوانہ ہو چکا ہو کہاں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ صحابہؓ کا جہاد اور وہ بھی غزوہ بدر اور کہاں حرام موت مرنے والا یہ صوفی ملحد ممکن ہے اس حرام موت مرنے والے صوفی کی شکل میں آ کر شیطان نے اس خواب دیکھنے والے کو گمراہ کیا ہوا اور یہ سب بکواس اس نے کی ہو۔

مسجدوں کے بجائے قبروں اور مزاروں پر چلے

تبیغی جماعت کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ مسجدوں میں چلے کھینچتی ہے لیکن مسجدوں کے چلے اتنے با برکت نہیں جتنا کہ قبروں اور مزاروں کے چلے با برکت ہیں اس کے ثبوت کے لئے یہ حکایت پیش خدمت ہے۔ حاتم اصم مبلغی جو مشہور صوفیاء میں سے ہیں کہتے ہیں کہ تمیں برس تک ایک قبر میں انھوں نے یہ چلے کیا تھا کہ بے ضرورت کسی سے بات نہیں کی، جب حضور اقدسؐ کی قبر اطہر پر حاضر ہوئے تو اتنا ہی عرض کیا تھا کہ اے اللہ ہم لوگ تیرے نبیؐ کی

(فضائل حج فصل ۵) شیخ المشائخ قطب دوراں شبلی قدس سرہ کے ایک مرید حج کر کے آئے انہوں نے ان سے پوچھا اللہ جل شانہ کی طرف سے لبیک کا جواب ملا تھا عرض کیا نہیں تو فرمایا پھر لبیک کا کیا کہنا (فضائل حج فصل ۲۴) ذکر فوائد ۲۵۔ اس حکایت کا مطلب یہ ہے کہ ہر صوفی و تبلیغی کو کعبہ کے طواف کے وقت لبیک کا جواب سنائی دیتا ہے کیونکہ اگر ان کو جواب سنائی نہ دیتا تو کوئی تبلیغی حج و عمرہ کو نہ جاتا۔

لوگ بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں اگر وہ اللہ پاک کی ذات کا طواف کرتے تو کعبہ سے بے نیاز ہو جاتے

مالک بن دینار فرماتے ہیں ایک شخص جس کے پاس کوئی تو شہ اور پانی نہیں تھا انہیں نے احرام باندھا نگارہ رہا کہ دنیا کے کرتے سے نگارہ نہیں اچھا ہے نہ لبیک کہا کہ کہیں لا لبیک کا جواب نہ ملے منی میں یہ شعر پڑھا لوگ اپنے بدنا سے بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں اگر وہ اللہ کی ذات کا طواف کریں تو حرم سے بے نیاز ہو جائیں پھر کہا میرے پاس کوئی چیز قربانی کے لئے نہیں سوائے میرے..... پھر چیخ ماری اور مردہ ہو کر گر گیا اس کے بعد غیب سے آواز آئی کہ یہ اللہ کا دوست ہے خدا کا قتیل ہے مالک بن دینار نے اس رات خواب میں دیکھ کر اس سے پوچھا تھا مارے ساتھ کیا معاملہ ہوا کہنے لگا جو شہداء بدر کے ساتھ ہوا بلکہ اس سے

الحادیث حضرت مولانا زکریا صاحب فرماتے ہیں : کہ ہم لوگ اسی زمانے میں ان سے ابتدائی فارسی پڑھتے تھے، ان دونوں ان کا دستور تھا کہ شاہ عبدالقدوس کے روضہ کے پیچھے ایک بوریہ پر بالکل خاموش دوزانو بیٹھے رہتے تھے، ہم لوگ حاضر ہوتے اور کتاب ان کے سامنے رکھ کر انگلی کے اشارے سے سبق کی جگہ ان کو بتا کر سبق شروع کر دیتے تھے اور فارسی شعر پڑھتے تھے اور ترجمہ کرتے تھے، جہاں ہم نے غلط پڑھا انگلی کے اشارے سے انہوں نے کتاب بند کر دی اور سبق ختم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوبارہ مطالعہ دیکھ کر لاؤ (مولانا الیاس کی دینی دعوت ص ۵۸)۔ یہ ہیں عبدالقدوس صاحب گنگوہی جن کی قبر پر مولانا الیاس دوزانومراقبے میں بیٹھے، عقیدہ وحدۃ الوجود کے قائل وداعی تھے۔

سید ابوالحسن ندوی فرماتے ہیں : اس صدی میں حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی ۹۲۳ھ کا آفتاب ارشاد نصف النہار پر پہونچا اور ان سے سلسلہ چشتیہ صابریہ کو نئی تاریخ اور طاقت حاصل ہوئی، وہ وحدت الوجود کے اسرار بر ملازبان سے کہتے اور اس کے داعی تھے۔ (تاریخ دعوت و عزیمت ص ۳۷-۳۸)۔ سوال یہ ہے کہ جماعت تبلیغ کے بانی عبدالقدوس گنگوہی جیسے مخدوبے دین شخص کی قبر پر مراقبہ کر کے کیا فیض لینا چاہتے تھے اور پھر ان کا سارا دن خاموش رہنا حتیٰ کہ طلباء کے درس کے وقت بھی بات نہ کرنا صرف اشارے سے سبق شروع کرانا اور اشارے سے بند کر دینا، وہ ان بالتوں میں کس کی سفت پر عمل کر رہے تھے۔

قبر کی زیارت کو حاضر ہوئے ہیں تو ہمیں نامرادواپس نہ کیجیو، غیب سے آواز آئی کہ ہم نے تمہیں اپنے نبی گی کی قبر کی زیارت نصیب ہی اس لئے کی ہے کہ اس کو قبول فرمائیں۔ جاؤ ہم نے تمہارے اور تمہارے ساتھ جتنے حاضر ہیں سب کی مغفرت کر دی۔ (فضائل حج، فصل زائرین کے واقعات، واقعہ ۲۷)۔

اس حکایت سے ظاہر ہے کہ تبلیغ جماعت صرف مسجدوں کے چلوں پر یقین نہیں رکھتی بلکہ قبروں، مزاروں اور قبوں کے چلوں کی اہمیت پر بھی یقین رکھتی ہے بلکہ ایک لحاظ سے مسجدوں کے چلوں سے قبروں کے چلے زیادہ مفید ہو سکتے ہیں، کیونکہ مسجدوں کے چلوں سے صرف چلے کھینچنے والے کی مغفرت کی امید ہے اور قبروں و مزاروں کے چلوں سے سب حاضرین کی بخشش کرائی جاسکتی ہے، جیسا کہ مذکورہ حکایت سے ظاہر ہے۔ جماعت تبلیغ لاکھ انکار کرے کہ قبروں و مزاروں کی مجاورت اور چلوں کو ہم جائز نہیں کہتے، لیکن ہمارے پاس اس کا پاک ثبوت موجود ہے۔ جماعت تبلیغ کے بانی محمد الیاس صاحب نے ایسے شخص کی قبر پر مجاورت کی اور چلے کا ٹو جو کفر والاد کے عقیدے وحدت الوجود میں غرق تھا یعنی عبدالقدوس صاحب گنگوہی۔

سید ابوالحسن ندوی فرماتے ہیں : گنگوہ کے قیام کے دوران میں نے مولانا رشید احمد صاحب کی وفات کے بعد دیکھا کہ (مولانا الیاس پر) زیادہ سکوت اور مراقبہ طاری رہتا تھا شاید سارے دن میں کوئی ایک بات کرتے ہوں، شیخ

سے علم کے حصول کے وہ قائل نہیں جیسے دنیا میں انبیاء اور رسولوں کا کوئی استاد نہیں اسی طرح صوفیاء کے علم کا بھی دنیاوی کوئی استاد نہیں ہے۔ اس لئے صوفیاء کے اقوال میں سے کوئی قول قرآن و سنت سے تکریتاً بھی ہوتا صوفیاء اس کو غلط تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتے علم دنی کے حصول کا ذریعہ ریاضت و مجاہدہ ہوتے ہیں، اسی وجہ سے جماعت تبلیغ مساجد کے ائمہ، مدارس کے معلم اور طلباً و طالبات پر زور دیتے ہیں کہ وہ چلوں کے لئے ان مدارس و مراکز تعلیم کو چھوڑ کر خروج کریں، مدارس و مراکز تعلیم میں بیٹھ کر کام کرنے والے اساتذہ و طلباً دین کا کوئی کام نہیں کر رہے ہیں، دین کا کام چلے کھینچنے میں ہے ان چلوں میں خروج سے وہ علم حاصل ہوتا ہے جو تعلیم و تعلم سے ممکن نہیں ہے اسی وجہ سے وہ مراقبہ کرنے والے صوفی محدث عبد الرزاق کی احادیث کی تعلیم کی طرف متوجہ نہیں ہوا بلکہ گھٹنوں پر سر کر کر وحی الہی سے علم حاصل کرتا ہا صوفیاء کے مشہور بزرگ بایزید بسطامی کا مشہور قول ہے: ”تم نے مردوں سے علم حاصل کیا اور ہم نے ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات سے علم حاصل کیا۔“

بایزید نے کہا تم نے یہ علم شریعت مردوں سے حاصل کیا ہے اور ہم نے اپنا علم اس ذات سے براہ راست حاصل کیا ہے جو ہمیشہ رہنے والی ذات ہے اس کو کبھی بھی موت نہیں آئے گی۔ ہم کہتے ہیں ہمارے دل نے ہم کو حدیث بیان کی ہمارے رب سے، اور تم کہتے ہو ہم کو حدیث بیان کی فلاں نے، جب تم سے

صوفیوں کا براہ راست اللہ تعالیٰ سے علم حاصل کرنے کا دعویٰ

ابوال میں سے ایک شخص نے حضرت سے دریافت کیا کہ تم نے اپنے سے زیادہ مرتبہ والا کوئی ولی بھی دیکھا؟ فرمائے گے ہاں دیکھا ہے۔ میں ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں رسول اللہ ﷺ کی مسجد میں حاضر تھا میں نے امام عبد الرزاق محدث گو دیکھا کہ وہ احادیث سنار ہے ہیں اور مجھے ان کے پاس احادیث سن رہا ہے اور مسجد کے ایک کونہ میں ایک جوان گھٹنے پر سر رکھے علیحدہ بیٹھا ہے، میں نے اس جوان سے کہا تم دیکھتے نہیں کہ مجمع حضور اقدس ﷺ کی حدیثیں سن رہا ہے تم ان کی ساتھ شریک نہیں ہوتے، اس جوان نے نہ تو سراٹھایا اور نہ میری طرف التفات کیا اور کہنے لگا کہ اس جگہ وہ لوگ ہیں جو رزاق کے عبد سے حدیثیں سنتے ہیں اور یہاں وہ ہیں جو خود رزاق سے سنتے ہیں نہ کہ اس کے عبد سے خضر نے فرمایا : اگر تمہارا کہنا حق ہے تو تما میں کون ہوں؟ اس نے اپنا سراٹھایا اور کہنے لگا کہ اگر فراست صحیح ہے تو آپ خضر ہیں۔ خضر فرماتے ہیں : اس سے میں نے جانا کہ اللہ جل شانہ کے بعض ولی ایسے بھی ہیں جنکے علم مرتبہ کی وجہ سے میں ان کو نہیں پہچانتا۔ (فضائل حج نصلی و زائرین کے واقعات واقعہ)۔

اس واقعہ سے واضح ہے کہ صوفیاء علم دنی کے قائل ہیں، تعلیم و تعلم اور کتابوں

واسطہ نہیں اس لئے ان کے جھوٹ کو پکڑنے کے لئے بانی جماعت کا بیان حفظ کر لیجئے۔ ایک بار فرمایا حضرت تھانویؒ نے بہت بڑا کام کیا ہے جس میرا دل چاہتا ہے کہ تعلیم ان کی ہو اور طریقہ تبلیغ میرا ہو کہ اس طرح ان کی تعلیم عام ہو جائے گی (ملفوظات مولانا الیاس ملفوظ ۵۶) تذکرۃ الخلیل ص ۲۹-۳۰ میں شاہ بھیک نام کے فقیر کا تذکرہ ہے اس نے اپنے پیر کی بے انتہا خدمت کی تھی اس لئے پیر نے اس کو اپنی چھاتی سے لگالیا اور وہ حانی نعمت جو کچھ دینی تھی وہ عطا کر دی ادھر سینے سے سینہ لگا اور ادھر ولایت و معرفت الہیہ نصیب ہو گئی۔

نبی کریم ﷺ کو جریل کا سینے سے لگانا صحیح بخاری میں مذکور ہے لیکن وہاں جریل نے کہا (اقرأ) پڑھو آپ نے فرمایا میں پڑھا ہو انہیں ہوں، پھر جریل نے آپ کو پڑھایا اور کہا (اقرأ باسم ربک الذی خلق) اس حدیث میں ہے رسول اللہ ﷺ کو جریل کے پڑھانے سے علم آیا اور سورہ القیامت ﴿ لا تحرک به لسانک لتعجل به .. ان علینا جمعه و قرآنہ . فادا فرانہ فاتیع قرآنہ ﴾ یعنی جریل کے پڑھنے کے وقت آپ جلدی نہ کریں ان کے ساتھ ساتھ نہ پڑھیں بلکہ جب وہ پڑھ کر ختم کریں تو آپ پڑھیں اس آیت میں بھی رسول ﷺ کے علم کو جریل کی تعلیم سے حاصل کر دہ بتایا گیا ہے لیکن صوفیاء اپنا علم پڑھنے پڑھانے سے نہیں سینے کو سینے سے لگانے سے منتقل کرتے ہیں، علم کی منتقلی کا یہ ذریعہ انسانوں میں معروف نہیں ہے ہاں شیاطین کا

دریافت کیا جاتا ہے کہ وہ فلاں کہاں ہے تو تم کہتے ہو وہ مر گیا، اس کو سے حدیث بیان کی اور وہ کہاں ہے؟ تو تم کہتے ہو وہ بھی مر گیا۔ (الفکر الصوفی ص ۹۹، الفتوحات المکیہ باب ۵۲ شرکیہ اعمال ص ۲۹)۔ دیوبندی تبلیغی جماعت کہتی رہتی ہے کہ ہمارے علماء و شیوخ کا صوفیاء کے ان اقوال سے کوئی تعلق نہیں ہماری خالص مذہبی جماعت ہے یہ بات کوئی تبلیغی کہہ یاد بیندی اس کو سچ نہیں سمجھ لینا چاہیے تبلیغی جماعت نے اپنے عمل سے اپنے پکے صوفی ہونے کا ثبوت دے دیا ہے یہ جماعت کسی تعلیمی ادارے و مرکز سے تعلق نہیں رکھتی، پڑھنا پڑھانا ان کے راستے کی بڑی رکاوٹ ہے اس کی شھادتیں پہلے بھی گزر چکی ہیں آئندہ بھی آئیں گی۔

کتابوں میں کیا رکھا ہے کچھ سینے سے عطا فرمائیے اشرف علی صاحب تھانوی (حکیم الامت) (قصص الاکابر ص ۱۷) میں فرماتے ہیں : ایک بار حضرت حاجی صاحب مجھے اپنا کتب خانہ دینے لگے میں نے کہا کتابیں اپنے پاس رکھیے کتابوں میں کیا رکھا ہے کچھ سینے سے عطا فرمائیے یہ سن کر حضرت خوشی کے مارے کھل گئے اور فرمایا : ”ہاں بھائی ہاں بھی تو یہ ہے کہ کتابوں میں کیا رکھا ہے؟“! (صد کتاب و صدور ق در نار کن سینہ را ازنور حق گلزار کن) یعنی کتابوں کو آگ میں جلا دیجئے سینے کو حق کے نور سے روشن کیجئے۔ دیکھئے کہیں تبلیغی جماعت یہ نہ کہہ دے کہ اشرف علی صاحب سے ہمارا کوئی

تعالیٰ کی طرف سے ملا تھا اور پھر یہ کہ آسمان سے اترنے والا خط کس زبان میں تھا اور اس کو لکھا کس نے تھا اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھ سے تحریر فرمایا تھا یا اللہ تعالیٰ نے املا فرمایا اور جریئل نے اس کو قلم بند کیا۔ (قاتلهم الله أَنِي يُؤْفِكُونَ) صوفیوں کی طرف سے لوگوں کو جنت کے پروانے اور اللہ

تعالیٰ کی طرف سے ان کی تائید

مالک بن دینار نے ایک نوجوان کو ایک لاکھ درہم کے عوض جنت میں ایک محل ملنے کا اقرار نامہ لکھ کر دیا وہ نوجوان چالیس روز بعد مر گیا اس کی وصیت کے مطابق وہ اقرار نامہ اس کے کفن میں رکھ دیا گیا اگلے روز اقرار نامہ مالک کے سامنے پڑا تھا جس کی پشت پر لکھا تھا یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے مالک بن دینار کی برآت ہے جس مکان کا تم نے اس نوجوان سے وعدہ کیا تھا وہ ہم نے اس کو دے دیا ہے اور اس سے ستر گناہ زیادہ دے دیا۔ (فضائل صدقات فصل ۷ شخص واقعہ ۵)۔

یہ ہیں صوفیوں کی مجعونانہ اور احتمانانہ باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے صوفی، لوگوں کو جنت کا پروانہ دے رہا ہے ایسی بات کوئی احمق ہی کر سکتا ہے اور اس سے بڑھ کر اسکا یہ دعویٰ کہ اللہ تعالیٰ نے میرے پروانے یافتہ کو میرا لکھا دیکھا اس کی اطلاع بھی مجھ تک پہنچا دی ہے۔ رسول اللہ ﷺ اپنے صحابہ کو بعض اعمال پر جنت

یہ طریقہ تعلیم ہو تو ممکن ہے صوفیاء کی وجہ بھی شیطانی ہوتی ہے اس وجہ پر ان کے علم و دین و مذہب کا دار و مدار ہے ﴿وَان الشَّيَاطِينَ لِيُوَحِّنُ إِلَيْهِمْ أُولَئِنَّهُمْ لِيُجَادِلُوكُمْ﴾ (الانعام : ۱۲۱) بیشک شیاطین اپنے اولیاء کی طرف وجہ کرتے ہیں تاکہ وہ تمہارے ساتھ جھگڑا کریں اگر تم نے ان کی بات مان لی تو مشرک ہو جاؤ گے۔

اللہ کی طرف سے حاجی کو خط، تیرے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیئے گئے

ذوالنون مصری فرماتے ہیں: ”میں نے نوجوان کو دیکھا کہ دمادم روکوں وجود کر رہا ہے میں نے پوچھا کہ بڑی کثرت سے نمازیں پڑھ رہے ہو وہ کہنے لگا کہ واپسی کی اجازت مانگ رہا ہوں اتنے میں ایک کاغذ کا پرچہ اوپر سے گرا اس میں لکھا ہوا تھا یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے اپنے سچے شکر گزار بندے کی طرف ہے کہ تو واپس چلا جا اللہ تعالیٰ نے تیرے اگلے و پچھلے سب گناہ بخش دیئے“ (فضائل رح فصل ۱۰ اللہ والوں کے قصے، قصہ ۱۵)۔

پوری دنیا میں دین پہنچانے کی علمبردار جماعت تبلیغ اس قسم کی کہانیوں کو دین سمجھ کر دنیا نے عالم تک ان کی نشر و اشتاعت کرتی پھر رہی ہے کیا یہی دین ہے جو محمد ﷺ نے تھے کیا ہمارے نبی محمد رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرام کو بھی کوئی خط اللہ

۲۶۰ میں ولی کے لئے طی الارض۔ (زمین کے سمت جانے) کو امام زعفرانی کے قول میں جہالت اور ابن مقائل و محمد بن یوسف کے قول میں کفر کہا ہے یعنی جو شخص یہ کہے کہ ولی کے لئے زمین سمت جاتی ہے وہ بعض حنفی علماء کے نزدیک جاہل اور بعض کے نزدیک کافر ہے۔

حضرت پنج نماز کہاں پڑھتے ہیں

ایک بزرگ کو حضرت نے بتایا میں صبح کی نماز مکہ میں پڑھتا ہوں عصر کی نماز بیت المقدس میں اور عشاء کی سد سکندری پر (فضائل حج فصل ۱۰، اللہ والوں کے قصہ، قصہ ۲۶)۔

یہ حکایت بھی مسئلہ طی الارض سے تعلق رکھتی ہے اس قسم کا طی الارض بطور مجذہ ہمارے نبی کو نہیں ملا دوسروں کو اسکا حاصل ہونا کہاں ممکن ہے، اس لیے یہ بھی صوفی کا سفید جھوٹ ہے اس صوفی نے یہ نہیں بتایا کہ نبی کریم ﷺ کی زندگی میں حضراتی طرح مکہ و مدینہ آیا کرتے تھے یا نہیں اگر آیا کرتے تھے تو مکہ و مدینہ میں انہوں نے آپ ﷺ سے ملاقات کیوں نہیں کی اور آپ ﷺ پر ایمان لا کر مسلمان کیوں نہیں ہوئے جو شخص رسول اللہ ﷺ کی زندگی میں زندہ تھا اور وہ آپ ﷺ تک پہنچ بھی سکتا تھا پھر بھی وہ آ کر مسلمان نہیں ہوا وہ کافر ہے ان صوفیوں کو شرم نہیں آتی یہ حضرت کو زندہ مان کر ان کے کافر ہونے کے درپے کیوں ہیں ان لوگوں نے شیطان کو خضر مان رکھا ہے کیونکہ وہ مخلوق جوانسانی آنکھ سے

کی پیشگوئیاں کیا کرتے تھے مگر یہ کبھی نہیں ہوا کہ رسول اللہ ﷺ کی طرف اللہ کی طرف سے لکھا ہوا خط آیا ہو کہ ہم نے تمہارے فلاں امتی کو یہ چیز دے دی ہے اور رسول اللہ ﷺ نے کسی امتی کو کوئی لیٹر بھی نہیں بنا کر دیا ہے مگر اس صوفی ملحد کی ڈھنائی دیکھنے کے اللہ تعالیٰ سے پوچھے بغیر اس کی جنت کو تقسیم کرتا پھرتا ہے اس لئے یہ بات یقینی ہے کہ یہ احقوں کی جنت ہو گی وہ جس کو چاہیں دیں کسی کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔

ستائیں سو ۲۷۰۰ میل سے صبح کی نماز مکہ میں

ایک شخص جس کا نام مالک بن قاسم جیلی تھا ستائیں سو میل سے مکہ میں صبح کی نماز پڑھنے آگئے خود ہفتہ سے کچھ نہ کھایا تھا والدہ کو کھلا کر آئے تھے ابھی ہاتھوں سے گوشت کی خوشبو آرہی تھی بعض بزرگوں کا بیان ہے کہ انہوں نے کعبہ شریف کے گرد فرشتوں اور انبیاء کو بھی دیکھا ہے۔ (فضائل حج فصل ۱۰، اللہ والوں کے قصہ، قصہ ۱۶)

یہ قصہ بھی جھوٹ و مکرو خداع کے قسم سے ہے کیونکہ جو چیز بطور مجذہ رسول اللہ ﷺ کو عطا نہ ہوئی وہ بطور کرامت ایک امتی کو کیسے نصیب ہو سکتی ہے رسول اللہ ﷺ سے مکہ تک کا سفر کئی دن میں طے کر کے وہاں پہنچ پاتے تھے اور یہ صوفی اس سے کئی سو گناز یادہ سفر منشوں سکینڈوں میں کیسے طے کر لیتے ہیں جنپی فقة کی کتاب در مختار حج ص ۵۲۹ اور اس کے حاشیہ رد المحتار المعروف فتاویٰ شامی ج ۳ ص

وَلَا يُوْمَنْ بِإِلَّا دَخَلَ النَّارَ فَجَعَلَتْ أَقْوَلَ اِنْ تَصْدِيقَهَا فِي
كِتَابِ اللَّهِ حَتَّى وَجَدَتْ هَذَا الْأَيَّةَ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ
فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ. (هُودٌ : ۷۱) قَالَ: الْأَحْزَابُ الْمُمْلَلُ. رَوَاهُ الْحَامِنُ فِي
الْمُسْتَدِرِ رَكْ جَ ۲ صَ ۳۲۲). -

ابن عباس کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اس وقت سے جس شخص نے بھی
میری رسالت و نبوت کے بارے میں سنا اور اسی طرح یہودی اور نصرانی نے بھی
پھر وہ میرے اوپر ایمان نہیں لایا وہ جہنم میں داخل ہوگا۔

ابن عباس فرماتے ہیں : رسول اللہ ﷺ کے اس فرمان کی تصدیق میں نے
قرآن میں تلاش کی تو مجھے سورہ ھود کی یہ آیت ملی سابقہ امتوں میں سے جس شخص
نے بھی اس دین کے ساتھ کفر کیا وہ اس پر اور اس کے نبی پر ایمان نہیں لایا اس
کے لئے جہنم واجب ہوگی۔

یہ حدیث بھی اس بات کی دلیل ہے کہ جو شخص رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں
زندہ تھا اس نے آپ کی نبوت کے بارے میں سنا پھر بھی وہ آکر آپ کے ہاتھ
پر مسلمان نہ ہوا وہ کافر ہے اس لئے خضر، اگر زندہ ہوتے تو آکر آپ ﷺ کے
ہاتھ پر ضرور بیعت کرتے۔

جب تک عشق پیدا نہ ہو اس وقت تک ان واقعات پر

اوجھل ہے وہ جن ہے، جن کا معنی ہے آنکھوں سے اوچھل مخلوق۔ خضر علیہ السلام
انسان تھے اگر وہ زندہ ہیں تو لوگوں کی آنکھوں سے اوچھل کیوں ہیں، اگر وہ صحیح
کی نماز کمہ میں پڑھتے ہیں تو پھر وہ عام مسلمانوں کو نظر کیوں نہیں آتے، اگر وہ
واقعی بیت اللہ میں موجود ہوتے ہیں اور نظر بھی نہیں آتے تو وہ یقیناً انسان نہیں
دوسری مخلوق ہیں، لہذا وہ خضر شیطان ہو سکتا ہے، وہ خضر نہیں جو موسیٰ علیہ السلام
کے ساتھ ہم سفر تھا جن کا ذکر سورہ کہف میں آیا ہے۔

اگر خضر علیہ السلام رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں بھی زندہ تھے تو آج وہ صحیح مسلم
کی حدیث کی رو سے زندہ نہیں ہیں۔

(أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لِيلَةَ ،
صَلَاةَ الْعِشَاءِ فِي آخِرِ حَيَاةِهِ ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ فَقَالَ : أَرَأَيْتَكُمْ لِي لِتَكُمْ
هَذِهِ ؟ فَانْ عَلَى رَاسِ مَائِةِ سَنَةٍ مِنْهَا لَا يَقِنُ مَنْ هُوَ عَلَى ظَهَرِ
الْأَرْضِ أَحَدٌ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ حَدِيثُ ۲۵۳۷) جابر کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے ہم
کو عشاء کی نماز پڑھائی پھر کھڑے ہو کر فرمایا اس رات میں جو شخص زندہ ہے وہ
آج سے سو سال بعد زندہ نہیں رہے گا۔ ائمہ اہل حدیث نے اس حدیث سے خضر
کے زندہ نہ ہونے پر استدلال کیا ہے اور یہ حدیث بھی خضر کے زندہ نہ ہونے
پر دلیل ہے۔ (عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ أَحَدٍ يَسْمَعُ بِي مِنْ هَذِهِ إِلَّا مَنْ وَلَّ يَهُودِيًّا وَلَا نَصَارَانِي

بالکل کام کرنا چھوڑ دے۔ وہ رے وہ ! یہ بھی عجیب دین ہے جس پر عمل، عقل و ہوش کے وقت ممکن نہ ہو جب نہ رہے تو اس پر عمل شروع ہوا یادِ دین واقعی اجتماعوں کا دین ہے محمد رسول اللہ ﷺ والا دین نہیں۔ اور صوفیاء کا لفظ عشق بھی قبل غور ہے یہ لفظ عربی زبان میں اچھے معنی میں استعمال نہیں ہوتا، اس لئے یہ کوئی نہیں کہتا کہ میں نے اپنی ماں سے عشق کیا، اپنی بیٹی سے عشق کیا، اپنی بہن سے عشق کیا، اور یہ کہا جاتا ہے میں اپنی ماں سے محبت کرتا ہوں، بیٹی سے اور بہن سے محبت کرتا ہوں۔ لفظ عشق ایسی محبت میں استعمال ہوتا ہے جو ناجائز ہو اس لئے اس لفظ کا استعمال وہ لوگ کرتے ہیں جو کسی سے ناجائز محبت کرتے ہوں۔ قرآن کریم اور احادیث نبویہ میں مسلمانوں کو اللہ اور اس کے رسول سے عشق نہیں محبت کا حکم ہے، ان ظالم و جاہل صوفیوں نے انسانی و اخلاقی اقدار کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو اپنا معموق بناداً الامحمد رسول اللہ ﷺ سے عشق کی رٹ لگانے لگے، اور اگر صوفیاء سمجھتے ہیں کہ لفظ عشق اور محبت میں کوئی فرق نہیں تو پھر اپنی ماں بہنوں اور بیٹیوں سے بھی عشق کرنے کا اعلان کریں امید ہے جماعت تبلیغ جلد سے جلد اس پر عمل شروع کر دے گی صوفی زکریا صاحب نے اس مقام پر جو اشعار لکھے ہیں وہ نہایت بیہودہ اور غیر اخلاقی اشعار ہیں ان اشعار کا اطلاق ان استادوں پر ہوتا ہے جو طلباء و طالبات پر غلط نظر رکھتے ہیں، جن طلباء طالبات کو اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کی تمنا میں اپنے دلوں میں

اعتراض نہیں کرنا چاہیے

صوفیوں کی ان بے اصل اور احمقانہ حکایتوں کے بارے میں ان کو بھی یقین ہے کہ یہ مصلحکہ خیز ہیں اور کسی بھی ذی عقل و باشур آدمی کے لئے ان کو تسلیم کرنا ممکن نہیں ہے اس لئے صوفی زکریا صاحب فرماتے ہیں ان واقعات میں تین امر قابل لحاظ ہیں اول یہ کہ یہ احوال و واقعات جو گذرے ہیں وہ عشق و محبت پر مبنی ہیں اور عشق کے قوانین عام قوانین سے بالاتر ہیں ۔

مکتب عشق کے انداز زارے دیکھے

اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔

عبد ہے جستجو بمحبت کے کنارے کی

بس اس میں ڈوب ہی جانا ہے اے دل پار ہو جانا۔

لہذا ان واقعات کو اسی عینک سے دیکھنے کی ضرورت ہے اور اس رنگ میں رنگ جانے کی کوشش کرنی چاہیے لیکن جب تک عشق پیدا نہ ہو اس وقت تک نہ تو ان واقعات سے استدلال کرنا چاہیے اور نہ ان پر اعتراض کرنا چاہیے اسلئے کہ وہ عشق سے صادر ہوتے ہیں اخ (فضائل حج فصل ۱۰ حکایات و واقعات، واقعہ ۷۰)۔

اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان واقعات کی تصدیق اس وقت ممکن ہے جس وقت انسان مکمل طور پر پاگل اور دیوانہ ہو جائے اس کی عقل

آسمان میں موجود ہے تو کافر ہو جائے گا اور اس سے اگر اس کی نیت کچھ نہیں تھی تو بھی کافر ہو گیا اور اگر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انصاف کے لئے بیٹھایا کھڑا ہے یا اللہ تعالیٰ کے لئے اوپر یا نیچے کی سمت بیان کرے یعنی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے یا نیچے تو کافر ہو جائے گا اور اگر کہتا ہے اللہ تعالیٰ آسمان سے نیچے کی طرف دیکھتا ہے یا کہتا ہے عرش سے دیکھتا ہے تو کافر ہو جائے گا۔ (فتاویٰ عالمگیری عربی ج ص ۲۵۹) ائمہ اہل سنت (جن میں امام ابوحنیفہ بھی ہیں) کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے جو ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے وہ ہر جگہ پر نہیں ہے اس کا علم ہر جگہ کو محیط ہے علم کے لحاظ سے کوئی چیز اس سے دور نہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے (الرحمن علی العرش استوی) (ط : ۵) وہ بڑی رحمت والا ہے عرش پر قائم ہے۔ (ترجمہ اشرف علی صاحب تھانوی) اور عرش با تفاق علماء ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے اور ایک حدیث میں ہے جس کو بخاری نے روایت کیا ہے لما قضى الله الخلق كتب فى كتاب فهو عنده فوق العرش ان رحمتى سبقت غضبى (صحیح البخاری حدیث ۳۵۳۷) اس حدیث میں ہے کہ لوح تحفظ اللہ تعالیٰ کے پاس آسمان کے اوپر عرش پر ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے ہر جگہ پر اس کا علم ہے اس کی ذات نہیں قرآن کریم کی بعض آیات جن میں انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی معیت کا ذکر آیا ہے اس معیت سے مراد اس کا علم ہے اس کی ذات نہیں اور

رکھتے ہیں اس لئے وہ ان طلباء و طالبات کو سبق یاد ہونے کے باوجود اپنے پاس روک کر رکھتے ہیں جو نہایت بے ہودہ اور خبیث حرکت ہے اس قسم کے اشعار کو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ سے محبت کے معنی میں استعمال کیا جائے، ناجائز ہے۔ یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں ﴿أَمْ تَامِرُهُمْ أَحْلَامَهُمْ بِهِذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ﴾ (طور : ۳۲) کیا ان کی عقلیں ان کو ان باتوں کی تعلیم کرتی ہیں یا یہ کہ یہ شریر لوگ ہیں۔ ترجمہ اشرف علی صاحب تھانوی۔

اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے ہر جگہ پر نہیں

صوفی زکریا صاحب (فضائل حج فصل ۱۰، اللہ والوں کے قصے، قصہ ۳) میں فرماتے ہیں : حضرت ابو عبید خواص ممتاز بزرگوں میں سے ہیں ان کے متعلق مشہور ہے کہ ستر برس تک آسمان کی طرف منہ نہیں اٹھایا، کسی نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ ”مجھے شرم آتی ہے کہ اتنے بڑے محسن کی طرف اس سیاہ منہ کو اٹھاؤں“، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو عبید خواص طریقہ سلف پر تھے وہ اللہ تعالیٰ کو آسمان پر مانتے تھے ہر جگہ نہیں اور حفیہ دیوبندی و تبلیغ جماعت اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ پر مانتے ہیں صرف آسمان پر نہیں۔

فتاویٰ عالمگیری (جس کو پانچ سو علماء حنفیہ سے بھی زیادہ علماء نے لکھا ہے) میں ہے اگر کسی نے کہا ”اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے تو اگر اس کا مقصد قرآن کریم میں موجود آیات کی خالی نقل ہے تو کافر نہیں اور اگر اس کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ

بدون اتصال اور کسی کیفیت کے، نہ محض علم سے محیط ہے۔

حلول کا عقیدہ

ہمارے کلام میں دو لفظ زیادہ استعمال ہوئے ہیں حلول اور وحدۃ الوجود، ان دونوں کی تعریف معلوم ہو جائے تو بات کے سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی حلول کا معنی ہے اتنا، داخل ہونا۔ اصطلاح میں حلول کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا بندے کے اندر اتنا، داخل ہونا۔ صوفیاء میں کچھ لوگ حلول کے قائل ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے اندر بستا اور رہتا ہے اللہ تعالیٰ بندے کے اندر ایسے گھل مل جاتا ہے جیسے دودھ کے ساتھ پانی یا جیسے شکر پانی میں گھل مل جاتی ہے۔ اس کی تفسیر میں صوفیاء کہتے ہیں انسان کے اندر جو روح ہے وہ اللہ تعالیٰ کی روح ہے اس روح کو وہ مخلوق نہیں کہتے بلکہ کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے اس کی ایک صفت ہے اور اللہ تعالیٰ کی تمام صفات غیر مخلوق ہیں اس لئے انسان کے اندر روح بھی ان کے نزدیک غیر مخلوق ہے اسی عقیدے کی بنیاد پر حسین بن حلاج نے خدائی دعویٰ کیا تھا۔

دیوبندی جماعت کے حکیم الامت اشرف علی صاحب تھانوی فرماتے ہیں : لوگوں نے خدائی دعوے کئے ہیں مگر حسین بن منصور حلاج پر شبہ نہ کیا جائے کہ انہوں نے (انالحق) میں خدائی کا دعویٰ کیا تھا کیونکہ ان پر ایک حالت طاری تھی ورنہ وہ عبدیت کے بھی قائل تھے چنانچہ وہ نماز بھی پڑھتے تھے کسی نے پوچھا کہ

آیت (وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ) (ق : ۱۶) میں قرب سے مراد اللہ تعالیٰ کا قرب نہیں، بلکہ اس کے علم کا قرب مراد ہے۔ اشرف علی صاحب تھانوی اس کے حاشیہ میں لکھتے ہیں ”مطلوب یہ ہوا کہ ہم باعتبار علم کے اس کی روح اور نفس سے بھی زیادہ قریب ہیں“، اور ابن کثیر نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے ”اور ہم اس کی رگ جاں سے بھی زیادہ قریب ہیں یعنی ہمارے فرشتے“ اور بعض نے کہا ہے ہمارا علم ہے ان کی غرض یہ ہے کہ حلول و اتحاد نہ لازم آجائے جو بالا جماع رب کی مقدس ذات سے بعید ہے اور وہ اس سے بالکل پاک ہے اور صوفیاء اللہ تعالیٰ کو بذاته ہر جگہ مانتے ہیں کیونکہ ان کا عقیدہ وحدت الوجود اور حلول کا ہے، جماعت تبلیغ اور دیوبندی مذہب صوفی مشرب رکھتا ہے اس لئے کہ ان کے یہاں اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے ہر جگہ پر موجود ہے، اشرف علی صاحب تھانوی نے، جن کی تعلیمات کو عام کرنے کے لئے جماعت تبلیغ بنائی گئی ہے قرآن کریم کی آیت ﴿فَإِنَّمَا تَوْلُوا فَشَمْ وَجْهَ اللَّهِ﴾ (البقرة : ۱۱۵) کے حاشیہ میں لکھا ہے اس میں دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی جہت کے ساتھ خاص نہیں ﴿أَنَّ اللَّهَ وَاسِعُ الْعِلْمِ﴾ (البقرة : ۱۱۵) کا ترجمہ انہوں نے ان الفاظ میں کیا ہے : ”اللہ تعالیٰ محیط ہیں کامل العلم ہیں“ اور آیت والله محیط بالکافرین (بقرہ : ۱۹) کے حاشیہ میں اشرف علی صاحب نے لکھا ہے اس میں دلیل ہے قول صوفیاء کی کہ حق تعالیٰ اپنی مخلوق کو ذاتاً محیط ہے

وعقیدے سے کسی قسم کی کوئی بذعت لازم نہیں آتی، میں کہتا ہوں مانا یہ حلول نہیں مگر یہ وحدۃ الوجود ہے کیونکہ آئینہ سے باہر بیٹھا ہوا انسان اور آئینہ میں اس کی صورت دونوں ایک چیز ہیں آئینہ میں آنے والی تصویر یعنیہ اس انسان کا عکس ہے جو اس کے سامنے بیٹھا ہوا ہے لہذا اگر مخلوق میں خالق حلول کئے ہوئے نہیں تو مخلوق مکمل اس کا عکس تو ہوا اور عکس و صاحب عکس ایک دوسرے کا غیر نہیں ہوتے لہذا اس ظہور و تجلی کے عقیدے میں خالق مخلوق ایک ہوئے العیاذ باللہ تعالیٰ بعض صوفیاء علانية طور پر وحدت الوجود یا حلول کے عقیدے کا اظہار نہیں کرتے وہ اپنے مذہب کو ظہور کے نام سے تعبیر کر کے لوگوں کو دھوکے میں ڈالتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ تجلی و ظہور یعنیہ وحدۃ الوجود کا عقیدہ ہے اس بات کو سمجھنے لینے کے بعد اب اگر کسی کو تجلی و ظہور کے عقیدے کا حامل پاؤ تو سمجھنے کی مشکل نہیں ہوگی کہ یہ شخص وحدت الوجود کا قاتل ہے۔

دیوبندی و تبلیغی جماعت کے حکیم الامت نے ارواح ثلاشہ (حکایت ۲۱۵) میں طویل حکایت نقل فرمائی ہے اس میں انھوں نے اپنے ایک پیر بھائی صوفی دیوبندی کے بارے میں یہ باتیں نقل فرمائی ہیں۔ اس بزرگ کے بیٹے کا بیان ہے میرے والد کے اندر چشتیت بہت غالب تھی ان کی کیفیت یہ تھی جس جگہ یہ سنتے تھے کہ وہاں فلاں شے خوبصورت ہے تو سفر کر کے اسے دیکھنے جاتے تھے، چنانچہ ایک مرتبہ انہیں معلوم ہوا کہ جے پور میں ایک تصویر بہت خوبصورت ہے

جب تم خدا ہونماز کس کی پڑھتے ہو؟ جواب دیا کہ میری دوستیں ہیں ایک ظاہر، ایک باطن۔ میرا ظاہر میرے باطن کو سمجھہ کرتا ہے (الافتراضات الیومیہ جاص ۲۵۱)۔

اس سے معلوم ہوتا ہے یہ حلاج اپنے آپ کو باطن میں خدا مانتا تھا اور باطن سے مراد روح ہے یعنی وہ اس روح کو اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوق نہیں سمجھتا تھا بلکہ رب کی ذاتی روح سمجھتا تھا گویا یہ انسان اس عقیدے میں رب و عبد سے مرکب ہے یہی انسان رب بھی ہے اور عبد بھی ہے۔ العیاذ باللہ تعالیٰ۔

ظہور اور حلول میں فرق

دیوبندی و تبلیغی جماعت کے حکیم الامت نے حلاج اور اس کے پیر بھائیوں کی صفائی میں یہ اکشاف فرمایا ہے۔ الافتراضات الیومیہ کا جامع و مرتب لکھتا ہے ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ ظہور و حلول میں کیا فرق ہے فرمایا جیسے صورت کا عکس کہ آئینہ میں اس کا ظہور ہے نہ کہ حلول یا ظل انسانی (انسان کا سایہ) کہ انسان کا ایک ظہور ہے انسان اس کے اندر حلول کئے ہوئے نہیں، صوفیاء کی ایسی مثالوں سے نادانوں کو شبہ حلول کا ہو جاتا ہے (جاص ۷۷)۔

حکیم الامت صاحب نے اپنے اس بیان میں ان لوگوں کی طرف سے صفائی پیش کی ہے جو مخلوق کی صورت میں اللہ تعالیٰ کا ظہور و تجلی مانتے ہیں حکیم الامت نے اپنے طب سے یہ نقطہ کشائی فرمائی ہے کہ یہ حلول نہیں ہے اس لئے اس قول

صاحب تھانوی نے ان کے نام پر مختلف کتابیں لکھی ہیں فتاویٰ امدادیہ امداد المشتاق، شمام امدادیہ وغیرہ۔ مولوی اشرف علی صاحب نے قصص الاكابر ص ۱۰۲ میں اپنے اسی پیر کے بارے میں نقل کیا ہے کہ حضرت حاجی صاحب پاؤں پھیلا کر نہیں سوتے تھے کسی خادم نے کہا آپ پاؤں کیوں نہیں پھیلاتے فرمایا کوئی اپنے بادشاہ کے سامنے پاؤں بھی پھیلایا کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے یہ حاجی صاحب اپنے چاروں طرف رب کی ذات کو موجود مانتے تھے حالانکہ اس طرح رب تعالیٰ کو زمین پر بذاتہ مانا کہ اس کی طرف پاؤں پھیلانا بے ادبی ہو، کفر ہے۔ امام طحاویؒ نے عقیدہ ائمہ اہل سنت میں کتاب تایف کی ہے اس کی شرح ایک حنفی عالم نے کی ہے یہ کتاب شرح عقیدہ طحاویہ کے نام سے مطبوع ہے اس کتاب کے ص ۲۸۸ میں ہے شیخ الاسلام ابو اسماعیل الانصاری نے ابو مطیع بلجی سے نقل کیا ہے انہوں نے امام ابوحنفیہ سے پوچھا ایک شخص کہتا ہے میں نہیں جانتا رب تعالیٰ زمین پر ہے یا آسمان میں ہے اس کے بارے میں کیا فتویٰ ہے۔ امام صاحب نے فرمایا وہ کافر ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کافرمان ہے (الرحمن علی العرش استوی) اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے اور اللہ تعالیٰ کا عرش ساتویں آسمان کے اوپر ہے میں نے کہا اگر وہ یوں کہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے لیکن میں نہیں جانتا کہ عرش آسمان پر ہے یا زمین پر۔ امام صاحب نے فرمایا وہ بھی کافر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ علی علیین میں ہے۔ یہ ہے اللہ

پس وہ اسے دیکھنے کے لئے جے پور روانہ ہو گئے، جا کر اسے دیکھ آئے اس طرح ان کو معلوم ہوا کہ لکھنؤ سے بہت دور مقام پر کسی کے بیہاں بانی حصار سے کوئی اونٹنی آئی ہے جو بہت خوبصورت ہے یہ سن کر اس کو دیکھنے روانہ ہو گئے اور وہاں جا کر اس اونٹنی کو دیکھا اور اس کی گردان میں ہاتھ ڈال کر اس کا سرجھ کایا اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا کہ کہاں ظہور فرمایا ہے لکھنؤ کے اطراف میں ایک مقام پر ایک عالم رہتے تھے وہ ایک لڑکے پر عاشق تھے اس کو بہت محبت سے پڑھاتے تھے جب والد صاحب کو اس کے حسن کا قصہ معلوم ہوا تو وہ حسب عادت اسے دیکھنے چل دئے جس وقت والد پہنچ اس وقت لڑکا کوٹھری کے اندر تھا وہ عالم صاحب چارپائی سے کمر لگائے کوٹھری کی طرف پشت کئے ہوئے تھے والد صاحب اسباب رکھ کر اس عالم سے مصافحہ کرنے گئے جب یہ سہ دری پر پہنچ تو لڑکا ان کو دیکھ کر کوٹھری میں سے نکلا والد صاحب نے مصافحہ کے لئے ہاتھ بڑھائے تھے کہ ان کی نظر لڑکے پر پڑگئی اس عالم سے مصافحہ تو رہ گیا والد صاحب اس لڑکے کی طرف دیکھنے میں مستغرق ہو گئے..... الخ۔ یہ ہے دیوبندی و تبلیغی علماء و شیوخ کا دین کہ ہر خوبصورت چیز میں ان کا رب بیٹھا ہوا ہے یہود نے صرف عزریکو اللہ کا بیٹا کہا وہ کافر ہوئے عیسائی قوم نے عیسیٰ کو رب والا کہا وہ کافر ہوئے مگر اس امت کا صوفی ہر خوبصورت چیز میں رب مان کر بھی مسلمان ہے۔ دیوبندی شیوخ و علماء و اکابرین کا پیر حاجی امداد اللہ ہے اشرف علی

سے نہیں۔ ﴿الا لَهُ الْخَلْقُ وَالا مُرْتَبَارُكُ اللَّهُ رَبُّ
الْعَالَمِينَ﴾ (الاعراف : ۵۳) خبردار اسی کا کام ہے پیدا کرنا اور حکم چلانا
یہاں خدا کے دو مد ہیں جو علیحدہ علیحدہ ہیں ایک خلق دوسرا امر دونوں میں کیا فرق
ہے اس کو سیاق آیات سے سمجھتے ہیں۔ پہلے فرمایا (ان ربکم الله الذى خلق
السموات والارض فى ستة ايام) يَخْلُقُ هُوَ دِرْمِيَانَ مِنْ (ثم استوى
على العرش) کا ذکر کیا جو شان حکمرانی کو ظاہر کرتا ہے فرمایا (يغشى الليل
النهار يطلبه حثيثاً والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره)
یعنی ان مخلوقات کو معین و محکم نظام پر چلاتے رہنا جسے تدبیر و تصریف کہہ سکتے
ہیں یہ امر ہوا ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مُثْلِهِنَّ
يَنْزِلُ لَأُمَّرِيْنِهِنَّ﴾ (طلاق : ۱۲) گویا دنیا کی مثال ایک بڑے کارخانے
کی سمجھو جس میں مختلف قسم کی مشینیں لگی ہوں کوئی کپڑا بن رہی ہے کوئی آٹا پیس
رہی ہے کسی سے نکھلے چل رہے ہیں (وغير ذلك) ہر ایک مشین میں بہت کل
پڑے ہیں جو مشین کی غرض و غایت کا لحاظ کر کے ایک معین اندازے سے مشین
فت ہو کر کھڑی ہو جاتی ہیں تب بھلی کے خزانے سے ہر مشین کی طرف جدا جدا
راستے سے کرنٹ چھوڑ دیا جاتا ہے آن واحد میں ساکن و خاموش مشین اپنی اپنی
ساخت کے موافق گھونمنے اور کام کرنے لگ جاتی ہے بھلی ہر مشین اور ہر پڑہ کو
اس کی مخصوص ساخت اور غرض کے مطابق گھماتی ہے حتیٰ کہ جو قلیل و کثیر کہر باسیہ

تعالیٰ کے بارے میں ائمہ اہل سنت کا عقیدہ امام ابوحنیفہؓ کا عقیدہ بھی یہی ہے
امام صاحب نے اس شخص کو کافر کہا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ساتوں آسمانوں کے اوپر
عرش پر نہیں جانتا جلوں کے عقیدے میں انسانی روح کو رب تعالیٰ کی تجلی مانا جاتا
ہے جو غیر مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا حصہ ہے۔ اس لئے اشرف علی
صاحب نے فرمایا (عذاب و ثواب اس جسم پر نہیں ہے اور روح اعظم پر بھی
نہیں) (امداد المثناق ص ۹۷)۔ اس کی وضاحت حکیم الامت حنفیہ دیوبندیہ
تبليغیہ نے یہ فرمائی ہے کہ روح حق کی تجلی ہے اس لئے اس پر عذاب نہیں اور
اس جسم پر بھی عذاب نہ ہوگا بلکہ اس جسم پر ہوگا جو خواب میں نظر آتا ہے اور
فرماتے ہیں روح اعظم پر عذاب نہ ہوگا کیونکہ وہ تجلی ہے حق کی اور عذاب اس
روح پر ہوگا جو روح اعظم نہیں بلکہ ہر انسان میں جدا جدا ہے اس کی شان مثل
ملائکہ کے ہے کہ کائنات کے مرbi و مرید ہیں امر و نہی کے وہ مخاطب نہیں اس
روح اعظم کا علم کشف سے ہوا ہے۔ روح حیوانی اس کے علاوہ ہے۔ (صوفیاء
کے یہاں روح مخلوق نہیں) اس کے بارے میں شبیر احمد عثمانی صاحب نے جو
دیوبندی و تبلیغی جماعت کے بڑے علماء میں سے ہیں؛ سورہ اسراء کی آیت
(۸۵) ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي
وَمَا أُوْيِتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ کی شرح میں طویل بحث کی ہے اس بحث
میں شیخ موصوف نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ روح کا تعلق عالم اور عالم خلق

ممکن ہے جو ہر مجرد کے لباس میں یا ایک ملک اکبر اور روحِ عظیم کی صورت میں ظہور کپڑے جسے ہم کہر بائیہ روحیہ کا خزانہ کہ سکتے ہیں گویا بیٹیں سے روح حیات کی لہریں دنیا کی ذوی الارواح میں تقسیم کی جاتی ہے اور بے شمار تاروں کا کنکشن بیٹیں ہوتا ہے اب جو کرنٹ چھوٹی بڑی بے شمار مشینوں کی طرف چھوڑا جاتا ہے وہ مشین سے اس کی بناؤٹ اور استعداد کے موافق کام لیتا اور اس کی ساخت کے مناسب حرکت دیتا ہے بلکہ جن یہ پوں اور قمقوں میں یہ بھلی پہنچتی ہے ان ہی کے مناسب رنگ و ہیئت اختیار کر لیتی ہے رہایہ مسئلہ کہ روح جو ہر مجرد ہے جیسا کہ اکثر حکماء قدیم اور صوفیاء کا نہب ہے یا جسم نورانی لطیف جیسا کہ جمہور اہل حدیث وغیرہ کی رائے ہے اس میں میرے نزدیک قولِ فیصل وہی ہے جو بقیۃ السلف بحر العلوم سید انور شاہ صاحب نے فرمایا کہ بالفاظ عارف یہاں تین چیزیں ہیں اول وہ جواہر جن میں مادہ اور کمیت دونوں ہوں جیسے ہمارے ابدان مادیہ، دوم وہ جواہر جن میں مادہ نہیں صرف کمیت ہے جنچیں صوفیاء ارجام مثالیہ کہتے ہیں سوم وہ جو مادہ اور کمیت دونوں سے خالی ہوں جن کو صوفیاء ارواح یا حکماء جواہر مجرد کے نام سے پکارتے ہیں جمہور اہل شرع جسے روح کہتے ہیں وہ صوفیاء کے نزدیک بدن مثالی سے موسم ہے جو بدن میں حلول کرتا ہے اور بدن مادی کی طرح آنکھناک ہاتھ وغیرہ اعضاء رکھتا ہے یہ روح کبھی بدن سے جدا ہو جاتی ہے اس جدائی کی حالت میں بھی ایک طرح کا

روشنی کے لیمپوں اور قمقوں میں پہنچتی ہے وہاں پہنچ کر ان ہی قمقوں کی ہیئت اور رنگ اختیار کر لیتی ہے اس مثال میں یہ بات واضح ہو گئی کہ مشین کا ڈھانچہ تیار کرنا اسکے کل پرزوں کا ٹھیک اندازہ پر رکھنا پھر فٹ کرنا ایک سلسلہ کے کام ہیں جس کی تتمیل کے بعد مشین کو چالو کرنے کے لئے ایک دوسری چیز بھلی یا استیم اس کے خزانہ سے لانے کی ضرورت ہے اسی طرح سمجھ لوقت تعالیٰ نے اول آسمان و زمین کی تمام مشینیں بنائیں جس کو خلق کہتے ہیں ہر چھوٹا بڑا پرزا ٹھیک اندازہ کے موافق تیار کیا جسے تقدیر کہتے ہیں۔ سب کل پرزوں کو ٹھیک جوڑ کر مشین کو فٹ کیا جسے تصویر کہتے ہیں یہ سب افعالِ خلق کی مدد میں آتے ہیں اب ضرورت تھی کہ جس مشین کو جس کام میں لگانا ہے لگادیا جائے آخر مشین کو چالو کرنے کے لئے امرِ الہی کی بھلی چھوڑ دی گئی بہر حال میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں امر کے معنی حکم کے ہیں اور وہ حکم بھی ہے جسے لفظ (کن) سے تعبیر کیا گیا ہے اور (کن) جس کلام سے ہے جو حق تعالیٰ کی صفت قدمیہ ہے جس طرح ہم اس کی تمام صفات مثلاً حیات و سمع و بصر وغیرہ کو بلا کیف تسلیم کرتے ہیں کلام و کلمۃ اللہ کے متعلق بھی یہی مسلک رکھنا چاہیئے لہذا ثابت ہوا کہ روح کا مبدأ حق تعالیٰ کی صفت کلام ہے جو صفت علم کے ماتحت ہے شاید اس لئے (نَخْتَ فِيهِ مِنْ رُوحِي) میں اسے اپنی طرف منسوب کیا کلام اور امر کی نسبت متكلّم اور امر سے صادر و مصدور کی ہوتی ہے مخلوق و خالق کی نہیں ہوتی ہاں یہ امرِ کن، باری تعالیٰ سے صادر ہو کر

المطمئنة ارجعی الی ربک راضیة مرضیة فادخلی فی عبادی
وادخلی جنتی) اے اطمینان والی روح تو اپنے پروردگار کے جوار رحمت کی
طرف چل اس طرح کہ تو اس سے خوش اور وہ تجھ سے خوش پھر چل کر تو میرے
خاص بندوں میں شامل ہو جا۔ (ترجمہ اشرف علی تھانوی صاحب) شیخ محمود الحسن
صاحب دیوبندی نے اس آیت کا ترجمہ یہ کیا ہے ”اے وہ جی جس نے چین
پکڑ لیا پھر چل اپنے رب کی طرف تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی ہے اور
شامل ہو میرے بندوں میں۔

اشرف علی صاحب نے (ارجعی الی ربک) کا ترجمہ کیا تو اپنے پروردگار
کے جوار رحمت کی طرف چل، حالانکہ آیت کریمہ میں ایسا کوئی لفظ نہیں جس کا
ترجمہ جوار رحمت ہو یہ ترجمہ نہایت صوفیانہ ترجمہ ہے صوفیاء وغیرہ کے نزدیک
اللہ تعالیٰ کا عرش پر مستوی ہونا باطل ہے ان کے ہاں وہ ہر جگہ مخلوق کی شکل میں
موجود ہے لہذا روح کا آسمانوں کی طرف جانا انکے نزدیک بے معنی ہے
، اشرف علی صاحب کے اس ترجمہ سے رب کے عرش پر ہونے کی صاف طور
پر نقی ہو جاتی ہے، اور محمود الحسن صاحب کا ترجمہ قرآن کے الفاظ کے موافق ہے
جو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر مستوی ہے، رو جیں اسی کی
طرف لوٹائی جاتی ہیں۔

یہ آیت ارواح کے مخلوق ہونے کی واضح دلیل ہے، یہ آیت اس بات کی بھی

مجھوں الکلیفیت علاقہ بدن کے ساتھ قائم رکھتی ہے گویا علیؑ کے قول کے موافق جو
بغوی نے (الله یتوفی الانفس حین موتها) کی تفسیر میں نقل کیا ہے اس
وقت روح خود علیحدہ رہتی ہے مگر اس کی شعاع جسد میں پہنچ کر بقائے حیات کا
سبب بنتی ہے جیسے آفتاب لاکھوں میلیوں سے بذریعہ شعاعوں کے زمین کو گرم
رکھتا ہے میں یہی سمجھتا ہوں کہ ہر مخلوق کو اس کی استعداد کے موافق قوی یا ضعیف
زندگی ملی ہے یعنی جس کام کے لئے وہ چیز پیدا کی گئی ڈھانچہ تیار کر کے اس کو حکم
دینا ”کن“ اس کام میں لگ جا بس یہی اس کی روح حیات ہے جب تک اور
جس حد تک یہ اپنی غرض ایجاد کو پورا کرے گی اسی حد تک زندہ سمجھی جائے گی اور
جس قدر اس سے بعید ہو کر معطل ہوتی جائے گی اسی قدر موت سے نزدیک یا
مردہ کہلائے گی ”انتهی ملقطا“۔

اس طویل بیان میں جو کچھ شیخ صاحب نے لکھا ہے اس کا خلاصہ ولب لباب یہ
ہے کہ روح مخلوق نہیں ہے حالانکہ روح کے غیر مخلوق ہونے کا عقیدہ اہل سنت
کا نہیں اہل بدعت کا ہے روح کو اللہ تعالیٰ کا قول یا حکم کہنا اس کے مخلوق ہونے
کے منافی نہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے (تعرج الملائکة والروح
الیہ) (المعارج :۳) اللہ تعالیٰ کی طرف اسکے فرشتے اور روح پرواز کرتے ہیں
اس آیت سے ثابت ہے کہ روح جسم اور وجود والی مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ سے
ملاقات کے لئے اوپر جاتی ہے (سورہ فجر ۲۰-۲۱) میں (یا یتھا النفس

امداد اللہ ہیں، انہوں نے اپنے رسالے وحدت الوجود میں اس کی یوں تعریف کی ہے: ”بَنْدَهُ قَبْلُ خُودِ خُودِ خَادِيْ بُودَ ظَاهِرِ بَنْدَهُ - كَنْتَ كَنْزًا مَخْفِيَا - بَرِّيْسَ مَعْنَىً گَواهَ اسْتَ حَقَائِقَ كَوْنِيَّةَ كَنْتَ كَنْجَ علمَ الْهَيِّ اِنْدَرِ ذَاتَ مَطْلُقَ مَخْفِيَ بُونَدِ ذَاتَ بَرِّ خُودِ ظَاهِرٍ بُونَدِ چُوُنَ ذَاتَ خُودَ اسْتَ كَظَهُورٍ خُودَ بَرِّنَجَ دِيْكَرَ شُوَدَ عَيَانَ وَ بَلْبَاسَ قَابِيلَيَّاتَ شَانَ بَحْلُوَةَ تَجْلِيَ خُودِ ظَاهِرٍ فَرِّمُونَدَ خُودَ اِزْشَدَتَ ظَهُورٍ خُودَ اِزْجَضَمَ بَصِيرَ اِيشَانَ مَخْفِيَ گَرِّدِيدَ مِثْلَ تَحْمَمَ كَشَبَرِيَا تَمَامَ شَانَ وَبَرِّگَ وَگَلَ وَثَمَرَ رَاءَ پُوشِيدَ بُونَدَ گَوِيَا تَحْمَمَ بَالْغَصَلَ بُونَدَ وَشَبَرَ بَالْقَوَهَ چُوُنَ تَحْمَمَ بَاطِنَ خُودَ رَاءَ طَاهِرَ نَمُودَ وَجَوَ خُودَ پَنْهَانَ گَرِّدِيدَ ہَرَكَهَ بَيْنَدَ شَبَرِيَا بَيْنَدَ تَحْمَمَ بَنْظَرِنَيِّ آئِدَ). (کلیات امداد یہ ص ۲۲۲).

بَنْدَهُ اپنے وجود سے پہلے بَاطِنَ میں خدا تھا، خدا ظَاهِرٍ بَنْدَهُ. حدیث : میں مَخْفِيَ خزانہ تھا اس پر شاہد ہے حَقَائِقَ كَوْنِيَّةَ جَوْلَمَ الْهَيِّ کَنْتَ كَنْجَ ہیں ذَاتَ مَطْلُقَ میں مندوح مَخْفِيَ تھے اور جب یہ ذات کاَنَّاتَ کے روپ میں ظَاهِرٍ ہوئی تو اس نے اپنے آپ کو کاَنَّاتَ میں چھپا دیا اس کی مثال درخت کے نج کی ہے کہ اس میں درخت کی تمام چیزیں مَخْفِيَ تھیں اس کی جڑ اسی کی ٹھہریاں اس کے پتے اس کا پھل یہ تمام چیزیں مکمل طور پر درخت کے نج میں چھپی پڑی تھیں اور جب یہ درخت خود وجود میں آگیا تو وہ نج جو اس کا اصل تھا اس میں چھپ گیا اسی طرح یہ تمام کاَنَّاتَ ربِ تعالیٰ کی ذات کے اندر مکمل طور پر موجود تھی اور اس میں چھپی ہوئی تھی جب کاَنَّاتَ وجود میں آگئی تو درخت کے نج کی طرح ربِ تعالیٰ کی ذات

دلیل ہے کہ نیک روحلیں جنت میں ہیں ان قبروں میں پڑے ہوئے جسموں میں روحلیں نہیں ہیں، لہذا انبیاء و اولیاء و شہداء کو انہی جسموں کے ساتھ انہی قبروں میں زندہ ماننا اہل بدعت کا عقیدہ ہے اہل سنت کا نہیں، شیعہ احمد عثمانی کی مذکورہ بحث سے یہ بات بھی صاف عیاں ہے کہ وہ پوری کائنات کی ایک روح مانتے ہیں اس میں صرف روح والی مخلوق کی تخصیص نہیں ہے انہوں نے روح کو رب تعالیٰ کا حکم اور امر کہا ہے جو تمام مخلوق میں یکساں طور پر جاری و ساری ہے، اس معنی کے لحاظ سے جو روح جانوروں میں ہے وہی روح انسانوں میں ہے اس سے جانوروں میں بندر، سور، کتوں میں موجود روح اور انبیاء اولیاء کی ارواح کے ما بین فرق مٹ جاتا ہے۔ (العياذ بالله تعالى) صوفیاء تمام کائنات میں موجود روح کو روح اعظم کہتے ہیں، جوان کے نزدیک ربِ تعالیٰ کی تجلی ہے جو اس سے جدا نہیں اس سے متحدو متصل ہے۔ صوفیاء اس عقیدہ کی بناء پر دنیا سے مر جانے والے بزرگوں پر وفات کا لفظ استعمال نہیں کرتے بلکہ وصال کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جو مخلوق کی ارواح کے خالق کے ساتھ اتصال و اتحاد کو ظاہر کرتا ہے صوفی زکریا صاحب تبلیغی نصاب و فضائل اعمال میں بزرگوں کی وفات پر یہی لفظ وصال استعمال کرتے ہیں۔

عقیدہ وحدت الوجود
وحدت الوجود ہر صوفی کا عقیدہ ہے، دیوبندی مذہب کے شیخ اعلیٰ صوفی حاجی

آئینہ تھے رسول اللہ ﷺ کے اس آئینہ میں حضور نے اپنے آپ کو دیکھا تو آپ خود اپنے آپ سے مستفید ہوئے آپ جبریل کا کیا فیض لیتے۔ (امداد المشتاق ص ۱۵۹)۔ دیوبندی جماعت کے حکیم الامت صاحب نے اس بیان میں محمد ﷺ اور جبریل کو ایک ذات، ایک شخصیت، ایک جان بتایا اور فرمایا رسول اللہ ﷺ نے اپنے آپ کو وحی کی مدد بھی آپ تھے جبریل بھی آپ تھے۔ (العیاذ باللہ تعالیٰ)

صوفیاء کے نزدیک حلوہ اور غلاظت دونوں ایک چیزیں ہیں اشرف علی صاحب امداد المشتاق ص ۱۵۱ میں فرماتے ہیں : ایک موحد سے لوگوں نے کہا اگر تمہارے نزدیک حلوہ اور غلاظت ایک چیز ہیں تو تم ان دونوں کو کھاؤ اس نے بشکل خنزیر ہو کر پاخانہ کھالیا پھر بصورت انسان ہو کر حلوہ کھالیا یعنی اس نے ثابت کر دیا ہم دونوں چیزیں کھاتے ہیں شکل و صورت بدل کر صوفی کے نزدیک انسان خنزیر اور کتا ہے اور خنزیر و کتا انسان۔ (العیاذ باللہ تعالیٰ) اشرف علی صاحب نے یہ بھی کہا ہے : انسان کا ظاہر عبد ہے اور باطن حق (امداد المشتاق ص ۲۲) یعنی انسان کا یہ ظاہر جسم و بدن بندہ ہے اور اس کا باطن یعنی اس کی روح حق یعنی رب ہے۔ اس وجہ سے مشہور صوفی ابو یزید بسطامی نے کہا تھا۔ سبحانی ما اعظم شانی (شانم امدا یہ مولفہ اشرف علی صاحب تھانوی ص ۳۶) اس کلمہ کا معنی ہے میں پاک ہوں میری شان بہت بڑی ہے

اس کائنات میں چھپ گئی (العیاذ باللہ تعالیٰ) یہ ہے وحدۃ الوجود کی آسان مثال اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس وقت مخلوق کی ذات میں رب کی ذات مخفی و پوشیدہ ہے اس مخلوق کے باہر رب تعالیٰ کی ذات کا کوئی وجود نہیں ہے۔

مخلوق ظاہر میں مخلوق ہے اور باطن میں خالق اور رب ہے، اس طرح انسان رب بھی ہے اور بندہ بھی، اسی لئے ابن عربی نے فصوص الحکم میں فرعون کو حقیقت حال کا عارف اور مسلمان لکھا ہے کیونکہ جب ہر انسان رب ہے تو فرعون بادشاہ ہونے کی وجہ سے بڑا رب ہوا، ابن عربی نے کہا ہے کہ اس نے (انا ربکم الاعلیٰ) صحیح کہا تھا اور جادوگروں نے بھی فرعون کے رب ہونے کا یقین کر لیا تھا اس لئے انہوں نے فرعون کے آگے سرتسلیم خم کر دیا تھا۔ (فصوص الحکم فض موسوی، اردو ص ۳۹۵ طبع دہلی) دیوبندی علماء و اکابرین وحدۃ الوجود پر یقین و ایمان رکھتے ہیں صوفی اشرف علی صاحب تھانوی کی کتاب امداد المشتاق ص ۲۱ میں ہے : ایک دن ایک شخص نے مسئلہ وحدت الوجود کا سوال کیا فرمایا یہ مسئلہ حق و صحیح واقع کے مطابق ہے اس مسئلہ میں پچھلشک و شبہ نہیں معتقد علیہ تمام مشائخ کا ہے۔

جبریلؑ کون تھے محمد ﷺ خود جبریلؑ تھے
وحدت الوجود کے عقیدے میں چونکہ دوئی کا کوئی وجود نہیں اس دنیا میں موجود صرف ایک ذات ہے اس لئے اشرف علی صاحب تھانوی نے فرمایا : جبریل

بارے میں پہلے کہا وہ زندق ہے بے دین ہے اب کہہ رہے ہیں قطب تھا۔ سہر وردی نے کہا وہ قطب تھا لیکن زندگی میں انتابع کے قابل نہیں تھا آخر میں وہ مجدوب ہو گیا تھا اس نے رب تعالیٰ کا راز ظاہر کر دیا تھا جو نہیں کرنا چاہیئے تھا۔ (کلیات امداد یہص ۲۱۹) شیخ امداد اللہ نے علماء دیوبند کے بارے میں بھی یہی فرمایا ہے کہ وہ عقیدہ وحدت الوجود رکھتے ہیں مگر اس کا ظہار نہیں کرتے شامم امداد یہ میں اشرف علی صاحب تھانوی کے قلم سے پڑھئے سوال اول۔ محمد قاسم صاحب مرحوم معتقد ان وحدۃ الوجود وحدۃ الموجود و ملحد و زندق کہتے ہیں اور ان کے مرید اور شاگرد مولوی احمد حسن صاحب کا بھی یہی مقولہ ہے اور اقوال ضیاء القلوب کو محتاج تاویل جانتے ہیں اور ان تاویلیوں کا واقف اپنے سواد و سرے کو نہیں مانتے مولوی رشید احمد و مولوی محمد یعقوب صاحب اس مسلک پر ہیں باوجود اس کے کہ آپ سے اجازت بیعت کی حاصل ہے اور مشرب اہل چشت کا رکھتے ہیں خلاف مشائخ چشت گفتگو کرتے ہیں۔ جواب اول نکتہ شناسا مسئلہ وحدۃ الوجود حق و صحیح ہے اس مسئلہ میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے فقیر و مشائخ اور جن لوگوں نے فقیر سے بیعت کی ہے سب کا اعتقاد یہی ہے، مولوی محمد قاسم مرحوم، مولوی رشید احمد صاحب، مولوی محمد یعقوب صاحب، مولوی احمد حسن صاحب وغیرہم فقیر کے عزیز ہیں اور فقیر سے تعلق رکھتے ہیں کبھی خلاف اعتقادات فقیر و خلاف مشرب مشائخ طریق خود مسلک اختیار نہ کریں گے۔ (شامم امداد یہص

مولوی صوفی اشرف علی صاحب تھانوی فرماتے ہیں: کوہ طور پر آگ کے پاس موتی علیہ السلام کو جو آواز آئی تھی ﴿ انى انا ربک فاخلعنعليك انك بالواد المقدس طوى ﴾ (طہ : ۱۲) میں تمہارا رب ہوں اپنا جوتا اتارو تم طوی کی مقدس وادی میں ہو یہ آواز کہیں اور سے نہیں موتی علیہ السلام کے اپنے اندر سے آئی تھی یعنی موتی علیہ السلام کے باطن نے اس کے ظاہر کو کہا تھا میں تیرا رب ہوں، اس معنی کے لحاظ سے موتی علیہ السلام کا باطن رب تھا ظاہر بندہ تھا۔ اشرف علی صاحب فرماتے ہیں : اس معنی کی وجہ سے حسین بن منصور الحلاج نے کہا (انا الحق) میں ہی رب ہو۔ (شامم امداد یہص ۳۶)۔ حسین بن منصور پر اس وقت کے علماء اسلام نے زندق و ملحد ہونے کا فتوی لگایا تھا اسی وجہ سے اس کو اسلامی سزادے کرتل کیا گیا۔ مگر وہ ان صوفیاء کے ہاں اپنے رب ہونے کے دعوی میں سچا تھا دیوبندی علماء کے پیرو مرشد حاجی امداد اللہ نے یہ انکشاف کیا ہے کہ حلاج کو اسلامی سزا اس لئے ہوئی کہ اس نے رب تعالیٰ کے اہم راز کو ظاہر کر دیا، حالانکہ اس کا چھپانا فرض تھا وہ اہم راز عقیدہ وحدۃ الوجود ہے، ہر چیز کا رب ہونا حاجی امداد اللہ نے کہا ہے۔ صوفی شہاب الدین عمر سہروردی سے ابن عربی الصوفی کے بارے میں ان کی زندگی میں پوچھا گیا تو انھوں نے کہا : وہ بے دین ہے زندق ہے۔ اور جب ابن عربی فوت ہو گیا تو سہروردی نے کہا قطب الوقت فوت ہو گیا، لوگوں نے کہا آپ نے اس کے

پس مسجدوں ایسے ہوا اور وہ نابکار مظہر (مضل) گمراہی تھا اپنی حقیقت میں واصل ہوا اور اپنی مراد کو پہنچا۔ ایک درویش بھی اس کو عاشق کہتے تھے اور یہ کہے مراد ہے غلط ہے کیونکہ معنی بے مرادی عاشق کے اور ہیں کہ وصال معموق میں اس طرح فنا ہو جائے کہ لذت وصال و مکالمات کی نہ پائے۔ اس مقام پر صوفی امداد اللہ نے ابلیس کے بارے میں لفظ مظہر استعمال کیا ہے۔ مظہر کا معنی ہے ظاہر ہونے کی جگہ جیسے کہا جاتا ہے مطعم، کھانے کی جگہ، مقتل، قتل ہونے کی جگہ، آدم علیہ السلام اور بیت الحرام کو مظہر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کے ظاہر ہونے کی جگہ ہیں صوفیاء صرف ان ہی کو مظہر نہیں کہتے بلکہ ان کے نزدیک کائنات میں موجود ہر ایک جگہ ہر شی اس کا مظہر ہے اس لئے صوفی صاحب مذکور نے اپنے اس بیان میں ابلیس کو بھی اللہ تعالیٰ کا مظہر کہا ہے مظہر (مضل) کہنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی ایک صفت (مضل) بھی ہے قرآن کریم میں ہے (یضل به کثیرا) (البقرة) یعنی اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ بہت لوگوں کو گمراہ کرتا ہے لہذا گمراہ کرنا اس کی صفت ہوا، اور ہدایت دینا بھی اس کی صفت ہے ﴿ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ﴾ (البقرة) اس کے ذریعہ بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اس لئے ہر گمراہ کرنے والا اور ہر ہدایت دینے والا اللہ کا مظہر ہے اس کی مزید وضاحت اشرف علی تھانوی کے اس بیان میں ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب پر توحید کا بہت زیادہ غلبہ تھا وحدۃ الوجود تو حضرت کے سامنے ایسا

(۳۲-۳۱)

دیوبندی علماء مشائخ تبلیغ کے پیر و مرشد کے اس بیان سے ثابت ہو گیا کہ وحدت الوجود ان کا عقیدہ بھی ہے یہ لوگ اس سے انکار اس لئے کرتے ہیں کہ اس عقیدے کا اظہار کفر ہے اس کو چھپانا ہر حال میں فرض ہے جو بات حاجی امداد اللہ نے کہی ہے اس کا ثبوت دیوبند علماء و مشائخ کے مذهب کی کتابوں سے ثابت ہے۔

آدم کو فرشتوں نے اس لئے سجدہ کیا کہ وہ خدا کے مظہر تھے بیت اللہ کو اس لئے سجدہ کیا جاتا ہے کہ وہ بھی خدا کا مظہر ہے ابلیس بھی خدا کا مظہر ہے

صوفی اشرف علی صاحب تھانوی شامئ امدادیہ ص ۶۱-۶۲ پر فرماتے ہیں انھوں نے اپنے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ سے پوچھا کہ صوفیاء کی بعض کتب میں ابلیس کی مدح پائی جاتی ہے چونکہ توحید و عشق اس کا اعلیٰ درجہ کا تھا سجدہ آدم گوارانہ کیا حضرت حاجی صاحب نے فرمایا ابلیس نابکار نے ظاہر پر نظر کی اور کہا (خلقتنی من نار و خلقته من طین) یہ نہ سمجھا کہ یہ خطاب کس نے فرمایا ہے اور واجب الاتباع ہے اور نظر باطن پر نہ کی کہ آدم مظہر کس کے ہیں کیا بیت اللہ کو سجدہ کرتے ہیں حالانکہ وہ پتھروں سے بنایا ہے نہیں چونکہ وہ خدا کا مظہر ہے

اول ان کو رب سمجھ بیٹھے جب وہ غروب ہو گئے تو سمجھ گئے کہ یہ رب کے مظاہر تھے حقیقی طور پر رب نہیں تھے (نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْجُحْلِ وَالْكُفَّارِ) ابراہیم علیہ السلام کے کلام میں اس صوفی کے مذکور بیان کی کھلی تردید موجود ہے جب یہ ایک ایک کر کے سب غروب ہو گئے تو خلیل اللہ نے کہا میں غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا اگر یہ رب تعالیٰ کے مظاہر ہوتے تو ابراہیم یہ الفاظ نہ کہتے کیونکہ رب تعالیٰ کی صفات جن کو صوفی مظاہر کہتا ہے اس کی ذات کی طرح قائم و دائم ہیں ان پر فنا نہیں۔ یہ سورج، چاند، ستارے طلوع ہوئے پھر غروب ہو گئے یہ ان کے فانی ہونے کی علامت ہے۔ لہذا یہ رب تعالیٰ کے مظاہر اور صفات نہ ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہی بات بتائی کہ فانی چیز کبھی رب تعالیٰ کی صفات نہیں ہو سکتی۔ اور ابراہیم نے ان کو اول رب استفہام انکاری کے معنی میں کہا یعنی کیا یہ میرے رب ہیں۔

زاد المسیر فی علم التفسیر ج ۳ ص ۷ میں امام ابن الجوزی نے لکھا ہے کہ بعض علماء کا قول یہ ہے کہ ابراہیم کے ان چیزوں کے رب کہنے کا مقصد ان کو ایک طریقے سے سمجھانا تھا۔ اس پر انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک عقلمند شخص کسی قوم کے پاس ٹھہرایہ قوم بت کی عبادت کرتی تھی اس قوم پر دشمن نے حملہ کیا انہوں نے اس سے مشورہ کیا تو اس نے کہا اپنے اس معبد (بت) سے مدد طلب کرتے ہیں اس کے پاس جمع ہوئے اس کو پکارتے رہے اس نے ان کو کوئی

معلوم ہوتا کہ مشاہدہ ہے ایک مرتبہ سورہ طہ سنتے رہے اس آیت پر جب پہنچ (اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحَسَنَى) حضرت پراس پر غلبہ ہو گیا بطور تفسیر کے فرمایا کہ پہلے جملے پر سوال وارد ہوا کہ جب سوائے اللہ کے کوئی نہیں تو یہ حوادث کیا ہیں جواب ارشاد ہوا (لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحَسَنَى) یعنی سب اسی کے اسماء کے مظہر ہیں اسی کو کسی نے کہا ہے۔
 (ہرچہ یہ نہ درج ہے) یا توئی یا خوئے تو یا بوئے تو۔
 (الافتضالات الیومیہ ج ۱ ص ۲۳۳) یعنی حب اللہ تعالیٰ نے فرمایا (اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ) نہیں کوئی موجود مگر وہی اللہ تعالیٰ تو اس پر اعتراض وارد ہوا کہ اگر اس کے سوا کوئی موجود نہیں تو پھر دنیا میں موجود یہ تمام چیزیں کیا ہیں اس کا جواب ان الفاظ میں ملا (لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحَسَنَى) یہ سب چیزیں اس کی صفات یعنی اس کے مظاہر ہیں۔

سورج، چاند، ستارے رب تعالیٰ کے مظاہر ہیں

ابراہیم علیہ السلام نے ان کو رب کیوں کہا؟

اشرف علی تھانوی شاہم ص ۶۱ میں فرماتے ہیں عارف کی نظر پہلے ظاہر پر پڑتی ہے پھر مظاہر پر پڑتی ہے اس لئے ابراہیم علیہ السلام نے سورج، چاند، ستاروں کو کہا ”هذا ربی“ یعنی جناب ابراہیم خلیل اللہ کی ان چیزوں پر نظر پڑتی تو

رحمت الہی شامل ہے سہل کہتے ہیں میں نے قرآن میں شیطان کے استدلال کا جواب بہت ڈھونڈھا تو مجھے اس کا جواب مل گیا اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں آگے فرمایا ہے (فَسَاكِتُهَا لِلَّذِينَ يَتَقَوَّنُونَ وَيَوْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بَايَاتُنَا يَوْمَنُونَ) یعنی میں نے اپنی اس رحمت کو ان لوگوں کے لئے لکھا ہے جو متنقی ہیں اپنے مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں اور میری آیات پر ایمان رکھتے ہیں میں اس جواب سے بہت خوش ہوا شیطان سے اس دلیل کا ذکر کیا تو شیطان مسکرا یا اور کہنے لگا اے سہل تقیید آپ کی صفت ہے رب تعالیٰ کی نہیں ہے یعنی رب تعالیٰ کی صفات کسی چیز سے مقید اور مشروط نہیں کیونکہ اس طرح اس کی صفات محدود ہو کر رہ جائیں گی حالانکہ اس کی صفات محدود نہیں لامحدود ہیں پھر شیطان نے کہا میں نہیں سمجھتا تھا کہ تم اس قدر جاہل اور ناواقف ہو سہل کہتے ہیں میں شیطان کے آگے لا جواب ہو گیا شیخ ابن عربی اس حکایت کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں میں پہلے شیطان کو بہت بڑا جاہل اور بے وقوف حق سمجھتا تھا لیکن جب میں نے یہ حکایت پڑھی اور سنی تو میں نے کہا شیطان واقعی رب تعالیٰ کے واقعات اور معاملات میں بڑا علم رکھتا ہے ابن عربی اس حکایت کو اپنی کتاب کے اس باب میں لائے ہیں جس میں انھوں نے کہا ہے کہ بندوں کے اللہ تعالیٰ پر کوئی حقوق واجب نہیں ہیں جن کا بندوں کو ادا کرنا اللہ تعالیٰ کے لئے ضروری ہو۔ میں کہتا ہوں یہ پوری حکایت جھوٹ جہالت اور حماقت پر منی ہے کیونکہ جب

فائدہ نہیں پہنچایا تو اس نے ان سے کہا ہمارا معبد ہے ہم اس کو پکارتے ہیں اس سے مدد طلب کرتے ہیں جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا تو شمن بھاگ گیا اس سے وہ لوگ مسلمان ہو گئے ممکن ہے ابراہیم نے یہ طریقہ اختیار کر کے قوم پر حجت قائم کی ہوا اور خلیل اللہ کے حق میں یہ کہنا کہ وہ ان کو رب تعالیٰ کا مظہر سمجھتے تھے ان پر بہتان ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ خلیل اللہ بھی ان صوفیوں کی طرح وحدت الوجود کے قائل تھے (قاتلهم الله انى يوسفكون)۔

شیطان کا جنت میں جانے کے مسئلے پر صوفی سہل تستری سے مناظرہ شیطان کی جیت سہل کی ہار

شیخ ابن عربی صوفی نے فتوحات مکیہ (باب ۲۹۳) میں اور عبد الوہاب شعرانی نے الیوقیت والجوہر ص ۱۱۱ میں لکھا ہے مشہور صوفی بزرگ سہل تستری سے شیطان کی ملاقات ہوئی اس بات پر مناظرہ ہوا کہ شیطان کے لئے اللہ کی رحمت میں سے کچھ ہے یا نہیں؟ شیطان نے قرآن کریم کی آیت (ور حمتی وسعت کل شی) (الاعراف : ۱۵۶) میری رحمت ہر چیز پر غالب ہے سے استدلال کیا کہ میں بھی قرآن کے لفظ (کل شی) میں شامل ہوں کیونکہ میں بھی شی ہوں اور ہر شے کو رحمت الہی میں شامل ہونے کا ذکر یہاں ہے اور لفظ شے سے پہلے لفظ کل آیا ہے اور میں کل سے باہر نہیں ہو لہذا قرآن کی آیت کی رو سے مجھے بھی

جانتے اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ﴿لیس کمثله شی و هو السميع البصیر﴾ (الشوری : ۱۱) یعنی اس کی صفت جیسی کسی کی صفت نہیں ہے اور صوفی کا یہ کہنا کہ اولیاء اللہ تعالیٰ کی صفت سے متصف ہو سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اولیاء اللہ تعالیٰ کی ربو بیت والوہ بیت میں شریک ہیں۔ العیاذ باللہ

دنیا میں کوئی کسی پر ظلم کرے تو صوفی کہتا کہ ہے رب کے اسماء جلالیہ کا ظہور ہو رہا ہے۔

اشرف علی تھانوی صاحب (قصص الاکابر ص ۷۰) میں فرماتے ہیں حضرت حاجی امداد اللہ کو محبت حق اور توحید میں کمال تھا آپ ہر بات کو توحید (وحدت الوجود) کی طرف منعطف کرتے تھے چنانچہ ایک مرتبہ ایک شخص نے حاضر خدمت ہو کر بعض حکام مکہ کے تشدادات کا تذکرہ کیا کہ یوں ظلم کرتے ہیں یوں پریشان کرتے ہیں گروہاں تو دل میں ایک ہی بسا ہوا تھا بس معًا ہی فرماتے ہیں آجکل اسماء جلالیہ کا ظہور ہو رہا ہے یعنی جب اسماء جلالیہ کا ظہور ہو رہا ہے تو پھر دعا کی کیا ضرورت ہے۔

دیوبندیوں و جماعت تبلیغ کے شیوخ واکابرین کا پیر حاجی امداد اللہ مرید کی نظر میں رب المشرقین و رب المغارب میں تھا

اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو متقدی اور پرہیز گاروں کے لئے مشروط محدود کر رکھا ہے تو پھر شیطان کو اس سے کس حصے کی امید ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں شیطان اور اس کی پیروی کرنے والوں کے ساتھ جہنم کا وعدہ کر رکھا ہے (واَللّٰهُ عَلٰیک لعْنٰتٰ يَوْمَ الدِّين) بیشک تیرے اوپر میری لعنت ہے قیامت کے دن تک (ص : ۷۸)

﴿ قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقْوَلُ لَا مَلِئَنْ جَهَنَّمْ مِنْكُ وَمَنْ تَبعَكُ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ (ص : ۸۳-۸۵) اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ حق ہے اور میں حق ہی کہتا ہوں البتہ ضرور بھر دوں گا میں تجوہ سے اور تیرے پیروکاروں سے جہنم کو۔ ایسی وضاحتوں کے بعد صوفی سہل تستری کا شیطان سے ہار جانا غیر معقول ہے اگر واقعی وہ ہار گیا تھا تو یہ اس کی بہت بڑی جہالت ہے۔

اولیاء اللہ تعالیٰ کی صفت سے متصف ہو سکتے ہیں
اشرف علی صاحب تھانوی شانم امدادیہ ص ۹۷ میں فرماتے ہیں مولانا روم نے کہا کہ جنات کو یہ دخل ہے کہ اپنے صفات کو دوسرے میں جاری و ساری کر دیتے ہیں پھر اولیاء کرام کا صفات باری سے متصف ہونا کیا بعید ہے۔

میں کہتا ہوں ایسے بدعتی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ﴿فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَإِنَّمَا لَا تَعْمَلُونَ﴾ (النحل : ۷۳)
یعنی اللہ تعالیٰ کے لئے مثالیں مت بیان کرو (کیونکہ) وہ جانتا ہے تم نہیں

فضل الرحمن صاحب گنج مراد آبادی کا کشف بڑھا ہوا تھا ایک مرتبہ فرمایا اللہ کا ترجمہ ہندی میں بتاؤ پھر خود ہی فرمایا اللہ کا ترجمہ ہندی میں من موہن ہے یہ کہہ کر جیخ ماری۔

صوفی کا اپنا کوئی رنگ نہیں ہوتا

مولوی اشرف علی صاحب قصص الاكابر ص ۷۵ میں لکھتے ہیں حضرت حاجی صاحب نے کہا سب لوگ مجھے اپنا سمجھتے ہیں حالانکہ میرا کوئی رنگ نہیں میری مثال پانی کی ہے اس کا اپنا کوئی رنگ نہیں جس رنگ والی بوتل میں بھر لواسی کے رنگ میں پانی نظر آئے گا۔ میں کہتا ہوں مسلمان اور مومن کا ایک رنگ ہوتا ہے اس کے مختلف چہرے اور رنگ نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا (ثم او حينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا و ما كان من المشركين) (الحل : ۱۲۳) پھر ہم نے آپ کے پاس وحی بھیجی کہ آپ ابراہیم کے طریقہ پر ہیں جو بالکل ایک طرف کے ہو رہے تھے اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ ترجمہ اشرف علی صاحب صوفی کے ایک رنگ نہ ہونے کی وجہ سے حاجی امداد اللہ کو بریلوی اور دیوبندی دونوں اپنا پیر سمجھتے ہیں اور تبلیغی جماعت کو بھی سب لوگ اپنا سمجھ لیتے ہیں اس لئے اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں بریلوی، دیوبندی ان پڑھ اور ناواقف الہمدیث ان کو اپنا سمجھ کر ان کے ساتھ چل پڑتے ہیں یہ لوگ اپنا اصلی اور حقیقی چہرہ کسی کو نہیں دکھاتے یہی ان کی کثرت کاراز ہے آپ اگر ان

مولانا اشرف علی تھانوی صاحب قصص الاكابر ص ۱۵ میں فرماتے ہیں ایک شخص نے حضرت حاجی صاحب کو خط میں القاب کی جگہ یہ لکھا تھا (رب المشرقين و رب المغربين) میں نے حضرت کو سنایا حضرت بڑے ہی حلیم تھے فرمایا (لا حول ولا قوۃ الا بالله) جہل بھی کیا بری چیز ہے یہ فرمائیا شخص کی معدود ری بیان کردی کہ بوجہ بے علمی کے ایسا ہوا میں کہتا ہوں کیا حضرت صاحب نے اس ملدا نہ زندیقانہ عقیدے کی اصلاح بھی کی یا نہیں صرف انہیں الفاظ پر اکتفا کیا ”بے علمی کی وجہ سے ایسا ہوا“ اور پھر یہ بات بھی غور طلب ہے کہ اس نے حضرت حاجی صاحب کو (رب المشـرـقـيـن و رب المغربـيـن) کیوں کہا ہماری نظر میں اس کا یہ قول کسی جہالت کی بناء پر نہیں تھا بلکہ اس کا موجود و سبب عقیدہ وحدت الوجود وحدۃ الموجود ہے جب ہر چیز وہی ہے تو حاجی صاحب بھی وہی ہوئے اس کا ثبوت مولانا اشرف علی صاحب سے سنئے۔ جملہ معشوق است عاشق پرداہ ☆ زندہ معشوق است عاشق مردہ۔ (قصص الاكابر ص ۱۰۹)۔

دنیا میں موجود تمام اشیاء حقیقت و اصل میں معشوق کی کوئی نہ کوئی شکل ہے عاشق اپنی شکل میں معشوق کا پرداہ ہے حقیقت میں معشوق یعنی رب تعالیٰ ہی زندہ ہے عاشق و باقی کائنات مردہ ہے ۔

مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قصص الاكابر ص ۲۸ میں فرماتے ہیں مولانا

میں تھا) یعنی تمیں سال تک رب تعالیٰ میں تھا۔ العیاذ باللہ تعالیٰ۔ اور یہ بھی انہیں کا ملفوظ ہے (مدت ہو گئی خانہ کعبہ کا میں طواف کرتا تھا اب خانہ کعبہ میرے گرد طواف کرتا ہے ص ۱۹۰)۔ سوڈان میں ملحد صوفی کوموت کی سزا دی گئی وہ وحدت الوجود و وحدۃ الموجود کا قال وداعی تھا اس نے سورۃ نساء کی پہلی آیت ﴿يَا يَاهُ الْنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾ سے استدلال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے آپ سے پیدا کیا اس آیت میں (من نفس واحدة) سے مراد اللہ کی ذات ہے یہ سوڈانی ملحد محمود طہؑ کہتا ہے کہ انسان ترقی کرتا رہتا ہے یہاں تک اللہ کی ذات میں مل جائے انسان کے اللہ بن جانے پر وہ وہ آئیوں سے استدلال کرتا ہے اول آیت ﴿يَا يَاهُ الْنَّاسُ إِنَّكُمْ كَادِحُوا إِلَى رَبِّكُمْ كَدَحًا فَمَلَقُيْهِ﴾ (الاشتقاق : ۲) اے انسان تجھ کو تکلیف اٹھانی ہے اپنے رب کے پہنچنے تک کوشش کرتے کرتے دوسری آیت سورہ نجم ﴿وَإِنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى﴾ بے شک تیرے رب تک پہنچنا ہے وہ اپنی ایک کتاب میں لکھتا ہے انسان کا مطلق ہونا اصل ہے اور اطلاق اللہ تعالیٰ کی شان ہے وہ کہتا ہے انسان کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کہاں ہو گی اس کے جواب میں وہ ایک جھوٹی من گھڑت حدیث کے حوالے سے کہتا ہے حدیث قدسی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری گنجائش نہ میری زمین میں ہے اور نہ میرے آسمان میں ہے میری گنجائش

کے اندر شامل لوگوں کے اندر کوٹھو لیں اور کسی مسئلہ پر بحث چھیڑ دیں تو آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کہ یہ سب اندر سے ایک نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿تَحْسِبُهُمْ جَمِيعًا وَ قُلُوبُهُمْ شَتِيٌّ﴾ اے مخاطب تو ان کو ظاہر میں متفق خیال کرتا ہے حالانکہ ان کے قلوب غیر متفق ہیں ﴿ذَلِكَ بَأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ﴾ (الحضر : ۱۳) یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے واقعی نصف صدی میں اس تنظیم، یا تحریک کا اتنا پہلنا پھولنا اس میں اتنی بھیڑ کا جمع ہو جانا اس لئے ہے کہ اس میں شامل ہر شخص کو معلوم ہی نہیں کہ جس قافلے میں وہ شامل ہے اس کا اصلی رخ کرہر ہے ہر شخص سمجھتا ہے یہ قافلہ اس کی منزل کی طرف رواں دواں ہے مگر کسی کو معلوم نہیں کہ یہ قافلہ وحدۃ الوجود و وحدۃ الموجود اور وحدۃ ادیان کی طرف سب کو لے جا رہا ہے جو اس کی آخری اور حقیقی منزل ہے۔ ہندوپاک میں مشہور ہے کہ ہندوستان میں خواجہ معین الدین چشتی نے لاکھوں لوگوں کو مسلمان کیا ہے مگر یہ نہیں بتایا جاتا کہ خواجہ نے ان کو کس قسم کا مسلمان کیا ہے خواجہ کا اپنا عقیدہ کیا تھا ظاہر ہے جو عقیدہ خواجہ صاحب کا ہوگا اس نے لوگوں کو مسلمان بھی اسی قسم کا بنایا ہوگا، خواجہ صاحب بھی عقیدہ وحدت الوجود رکھتے تھے چنانچہ ان کی ملفوظات پر مشتمل کتاب خلیل الصادقین ترجمہ اردو دلیل العارفین کے ص ۱۸۹ پر لکھا ہے پھر اسی موقع پر فرمایا خواجہ با یزید کہا کرتے تھے کہ تمیں سال ہو گئے (حق تعالیٰ

ہیں، پس اگر کسی دوسرے کو روشن کرنا انسان کے لئے محاں ہوتا تو ذات پاک ﷺ کو بھی یہ کمال حاصل نہ ہوتا کیونکہ آنحضرت ﷺ بھی تو اولاد آدم میں سے ہیں مگر آنحضرت ﷺ نے اپنے ذات کو اتنا مطہر بنالیا کہ نور خالص بن گئے اور حق تعالیٰ نے آپ کو نور فرمایا ہے اور شہرت سے ثابت ہے کہ آنحضرت ﷺ کے سایہ نہیں تھا اور ظاہر ہے کہ نور کے علاوہ ہر جسم کے سایہ ضرور ہوتا ہے اس طرح آپ نے اپنے تبعین کو اس قدر تزکیہ و تصفیہ بخشنا کہ وہ بھی نور بن گئے چنانچہ ان کی کرامات وغیرہ کی حکایتوں سے کتابیں پر اور مشہور ہیں۔ اس پوری عبارت کو مؤلف صاحب نے توضیح، عبدالیت، فناہیت کے عنوان کے تحت لکھا ہے اس پوری عبارت کے پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی کٹربریلوی مولوی کا کلام ہے حالانکہ یہ دیوبندی صوفی مولوی کا کلام ہے اس بیان میں مؤلف نے رسول ﷺ کی ذات کو مجسم نور کہا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پرشریت سے نکل کر نوری مخلوق ہو گئے تھے اس لحاظ سے آپ بشر نہیں رہے تھے اس کی دلیل مؤلف نے یہ دی ہے کہ آپ کا سایہ نہیں تھا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے آپ ﷺ کو خالی نور نہیں کہا بلکہ دوسروں کو منور کر دینے والا فرار دیا۔ مؤلف نے وضاحت کی ہے کہ آپ کی مطہر ہستی نے صحابہ کو بھی خالص نور کر دیا جس کا مطلب یہ ہے صحابہ کا سایہ بھی نہیں تھا۔ دیوبندی شیخ نے رسول ﷺ اور صحابہ کے نور ہونے کا سبب ریاضت و مجاہدہ اور سیر و سیاحت کو فرار دیا ہے یعنی جس کو

میرے مومن بندے کے دل میں ہے جب اس کو پھانسی دی گئی تو اس کا ایک مرید تھا اٹھا (وما فسلوه وما صلبوه ولكن سبه لهم) (النساء) اس کو انہوں نے نہ قتل ہی کیا نہ پھانسی دی لیکن اس کی صورت بن گئی ان کے سامنے (تصوف اور اہل تصوف مولانا سید احمد عروج قادری ص ۲۷۱ و ما بعدہ)۔ دیوبندی جماعت کے شیوخ واکابرین کا صوفیت سے گہرا تعلق ہے اس لئے امدالسلوک مؤلفہ مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی کے ص ۲۰۱ میں ہے (قد افلح من تزکی) بیشک اس شخص نے فلاح پائی جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا یعنی خواہشات نفس کی مخالفت اور مجاہدہ کی تواریخ نفس کی آلاتشوں اور کدو روں کو کاٹ ڈالا نیز معلوم کر لے کہ پیر کی وجہ سے انسان کا نفس نورانی ہو جاتا ہے یہی بات ہے کہ حق تعالیٰ نے اپنے حبیب کی شان کے بارے میں فرمایا (قد جائکم من الله نور و كتاب مبين) (المائدہ : ۱۵) بے شک آیا تمہارے پاس حق تعالیٰ کی طرف سے نور اور واضح کتاب نور سے مراد حبیب خدا ﷺ کی ذات ہے نیز حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَ مُبَشِّرًا وَ نذِيرًا وَ دَاعِيًّا إِلَى اللَّهِ بِأَذْنِهِ وَ سَرَاجًا مُنِيرًا ﴾ (الازhab : ۳۵-۳۶) اے نبی ﷺ ہم نے تم کو نور اور مژده سنانے والا اور ڈرانے والا اور اللہ کی طرف بلانے والا اور چراغ منیر بنا کر بھیجا ہے منیر روشن کرنے والے اور دوسروں کو نور دینے والے کو کہتے

نورا، و عن يسارى نورا، و فوقى نورا، و تحتى نورا، و امامى نورا، و خلفى نورا، و جعل لى نورا۔ (رواه البخارى في صحيح حدیث ۲۳۱۶) یا اللہ میرے دل میں نور کر دے میری آنکھوں میں نور کر دے میرے کانوں میں نور کر دے میرے دائیں طرف نور کر دے میرے بائیں طرف نور کر دے میرے اوپر نور کر دے میرے نیچے نور کر دے میرے آگے نور کر دے میرے پیچھے نور کر دے اور میرے لئے نور ہی نور کر دے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ آپ ﷺ کو نور کہنے والے جھوٹے ہیں کیونکہ جو خود نور ہو اور دوسروں کو بھی نور کر دینے والا ہو وہ یوں اللہ تعالیٰ سے کبھی نور نہیں مانگتا۔

کفر و ایمان کی تفریق بے معنی ہے

شیخ عبدالقدوس گنگوہی (جنکی قبر کے قریب بانی جماعت تبلیغ مولانا الیاس مرائبے کیا کرتے تھے) کے بارے میں علامہ احمد عروج قادری لکھتے ہیں۔ گنگوہ کے شیخ عبدالقدوس نے اعلان کیا انسانوں کے درمیان اہل ایمان و کافر گنہ گارو دیندار و گمراہ و راستی پسند پاک و ناپاک وغیرہ کی بے معنی تقسیم کیوں ہے سب ایک ہی باغ کے پھول ہیں (تصوف اور اہل تصوف ص ۲۵۵)۔

میں کہتا ہوں اس صوفی کا یہ بیان اس بات کی دلیل ہے کہ صوفیاء کے مذہب میں کفر و ایمان کے مابین کوئی فرق نہیں اس کی دلیل اس نے یہ دی ہے کہ سب ایک ہی باغ کے پھول ہیں میں کہتا ہوں کیا اس صوفی کی نیک و فرم ان بردار اولاد

آج تبلیغی جماعت خروج کا نام دیتی ہے اس سے واضح ہے کہ اس دیوبندی مؤلف و شیخ نے جس دین کی بات کی ہے وہ مسلمان قوم کا دین نہیں ہے جو گیوں اور رہبانوں کا دین ہے قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ آپ مجسم نور نہیں تھے کیونکہ نور نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ سوتا ہے نہ نکاح کرتا ہے نہ اس کی اولاد ہوتی ہے اور یہ تمام چیزیں رسول اللہ ﷺ کے لئے ثابت ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں وضاحت فرمائی ہے کہ انبیاء سب بشر تھے ان میں کوئی نبی و رسول نور یا فرشتہ نہیں تھا۔ ﴿ قل لوکان فی الارض ملائکة یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم ملکا رسولا ﴾ (بنی اسرائیل : ۹۵) کہہ دیجئے کہ اگر زمین پر فرشتے رہتے ہوتے اور اس میں چلتے بستے تو البتہ ہم ان پر آسان سے فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی ہے کہ چونکہ زمین پر بشر اور انسان بستے ہیں اس لئے ہم ان میں رسول بھی انسان اور بشر کو بھیجتے ہیں۔ اور امداد السلوک کے ص ۲۰۱ میں مؤلف صاحب نے لکھا ہے حضرت ﷺ نے فرمایا جو حق تعالیٰ نے مجھ کو اپنے نور سے پیدا فرمایا اور مومنین کو میرے نور سے اخ. حالانکہ اس قسم کی کوئی حدیث رسول اللہ ﷺ سے ثابت نہیں ہے اور صوفیاء کے اس قول کا رد کہ آپ ﷺ نور تھے اس حدیث میں بھی ہے ابن عباس فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ ان الفاظ سے دعا کرتے تھے (اللهم اجعل فی قلبی نورا، و فی بصري نورا، و فی سمعی نورا، و عن يمينی

اکیلا ماننا ہے یعنی توحید یہ ہے کہ اس کائنات میں وجود حقیقی صرف اللہ تعالیٰ کا ہے باقی ظاہر میں موجود اشیاء اس کی تخلیات اور عکس ہیں اور صوفیاء کے ہاں شرک یہ ہے کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ باقی موجود چیزوں کا وجود حقیقی و اصلی مانا جائے۔ اس اصطلاح کو سمجھ لینے کے بعد مذکورہ عبارت کے سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں پیش آئے گی مذکورہ الفاظ نتیجہ ہر غیر سے براءت اور خلت کا وہ مقام تھا جہاں کسی دوئی کا ادنیٰ شانتہ نہیں کیا جا سکتا..... اخ. کسی تفسیر کا محتاج نہیں اور یہ وحدت الوجود و وحدت الموجود کے عقیدے کی کھلی دلیل ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ الفاظ بھی قابل غور ہیں۔

حضرت کے وہی علوم سے صاف معلوم ہو رہا تھا کہ آپ نہیں کہہ رہے ہیں کہلوایا جا رہا ہے علوم کا فیضان موسلا دھار بارش کی طرح حضرت کے قلب پر ہو رہا تھا مولانا کی توجہ کا مرکز خاص آپ کی ذات بن چکی تھی (ص ۶) محسوس ہوا کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک علم عطا ہوا ہے جو مدرسے اور کتب خانے کا علم نہیں (ص ۳۱) ہمارے سید الملة سید سلمان ندوی فرمایا کرتے تھے کہ مولانا الیاس تو مأمور من اللہ تھے ایک مرتبہ ان کے فضائل و مکالات کا تذکرہ فرمایا عجیب و جداً فرین انداز میں دو تین مرتبہ فرمایا (سلام علی الیاسین ص ۲۶)۔ تذکرہ حضرت جی کے مذکورہ صفحات پر یہ مکالات درج ہیں یعنی حضرت کے وہی علوم ان کا علم کسی مدرسے و کتب خانے کا علم نہیں تھا اس قسم کا علم انبیاء اور رسول کا علم

اور نافرمان اولاد برابر ہے کیا اس صوفی کے نزدیک عالم و جاہل دونوں برابر ہیں کیا حیوانات میں گائے و بھینس و بھیڑ کے اور کتے و خزر یہ برابر ہیں۔ اگر واقعی وہ ایسا ہی صحیح ہے تو پھر گائے و بھینس کے اور کتے و خزر یہ کوشت کے مابین کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اگر کفر و ایمان کی تفرقی بے معنی ہے تو پھر انبیاء و رسول کا دنیا میں آنابے سودا یعنی ہوگا۔ بارہا کہا جاتا ہے کہ جماعت تبلیغ کے اکابرین و شیوخ کا صوفیت و وحدت الوجود وال موجود کے عقیدے سے کوئی تعلق نہیں یہ صحیح العقیدہ جماعت ہے لیکن کتابیں اور بیانات اس حقیقت کو واضح کرنے کے لئے کافی ہیں کہ یہ جماعت عقیدہ مذکورہ ہی رکھتی ہے اس کے حوالہ جات پہلے بھی گذر چکے ہیں اور یہ بھی اسی حقیقت کا شاہد ہے صدیقیت کا یہ مرتبہ بلند اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات عالیہ کے کمال عرفان کا نتیجہ ہوتا ہے

حضرت جی (مولوی یوسف مولوی الیاس کے بیٹے) پر صفات الہیہ جس تفصیل ووضوح سے کھلی تھیں اس کی مثال کم دیکھنے میں آئی ہے اور وہ یقیناً صوفیاء کا ملین اور محققین عارفین کا ہی حصہ ہے تو حید کامل کا رسونخ دل کی گہرائیوں میں نتیجہ ہر غیر سے براءت اور بن چکی تھی اور تو حید کامل کا رسونخ دل کی گہرائیوں کا ادنیٰ شانتہ نہیں کیا جا سکتا۔ تذکرہ حضرت جی ص ۶۲ صوفیاء کی اصطلاحیں ہمیں سمجھ لینی چاہیں تاکہ ہم ان کے بیانات اور عبارتوں کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ صوفیاء کی اصطلاح میں تو حید اللہ تعالیٰ کا وجود میں

کائناتی اسباب کتنے ہی ہاتھ آ جائیں بلکہ کائناتی اسbab حکومت، تجارت زراعت وغیرہ میں جب تک حضور والے اعمال کی روح نہ آ جائے یہ اسbab مردہ ہیں اور یہ بھی فرماتے تھے کہ جو انسان خالق کائنات اور اصل کائنات حضور ﷺ کو جانے اور مانے بغیر کائنات کی چیزوں میں گھستے ہیں ان کی حیثیت چوروں اور ڈاکوؤں کی سی ہے انہیں مال و دولت مل سکتے ہیں مگر سکون و محوبیت ہرگز نہیں مل سکتی اس بیان میں حضرت جی نے نبی کریم ﷺ کو کائنات کا اصل کہہ کر اپنے پکے صوفی ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ اگر واقعی حضرت جی یہی عقیدہ رکھتے تھے تو یہ کفر والاد سے کم نہیں بیہیں سے وحدت الوجود وحدت الموجود کے گمراہ عقیدے و مذہب بد کی طرف راستہ جاتا ہے۔

اصحاب خدمت ابدال

صوفیاء کے عقیدے و مذہب میں اس کائنات کا نظام ابدال کے ہاتھوں میں ہے ان کو اصحاب خدمت ابدال کہا جاتا ہے وہی اس کائنات کا نظام چلاتے ہیں مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی المذہب صوفی المشرب کا یہ بیان ملاحظہ ہو۔ ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا جو بزرگ صاحب خدمت ہیں تعلق تکوینیات میں اس کی شان ایسی ہے جیسے حضرت خضر علیہ السلام اس لئے ان کا پتہ لگنا بھی مشکل ہے وہ مثل سی، آئی، ڈی۔ کے مخفی ہیں اس لئے اس کی

ہوتا ہے تذکرہ کے مؤلف نے حضرت یوسف جی کو نبی اور رسول تو نہیں کہا البتہ نبیوں اور رسولوں کی خصوصیات کو ان کی طرف نسبت کر کے ان کو نبی کا درجہ دے ہی دیا۔ ان کو ماً مور من اللہ کہنا اس بات کو مزید تقویت پہنچاتا ہے (سلام علی الیاسین) کا جملہ مولوی الیاس صاحب کے لئے بولنا اللہ کے نبی الیاس سے متعلق قرآنی کریم کی آیت (سورہ صافات) کی تحریف ہے اس آیت کو مولوی الیاس کے متعلق بولنے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ اول یہ کہ اس آیت کو مولوی الیاس کے متعلق سمجھ کر اس کو پڑھا ہوا گرایا ہے تو پھر یہ بات کفر سے کم نہیں ہے دوم یہ کہ مولوی الیاس کو اللہ کے نبی الیاس سے تشییہ دے کر یہ آیت پڑھی گئی اگر ایسا ہے تب بھی یہ بات جرم عظیم سے کم نہیں۔

نبی کریم ﷺ کی کائنات کی اصل تھے

صوفیاء کے مذہب میں اس کائنات کا اصل جس سے یہ کائنات بنی ہے محمد ﷺ ہیں صوفیاء اس معنی کے لحاظ سے آپ ﷺ کو انسان کبیر بھی کہتے ہیں پہلے یہ حوالہ گزر چکا ہے کہ رسول اللہ ﷺ اللہ تعالیٰ کے نور سے پیدا ہوئے باقی کائنات رسول ﷺ کے نور سے ہی ہے یہی بات یہاں پر حضرت جی کے الفاظ میں دہرائی گئی ہے (تذکرہ حضرت جی ص ۵۲) میں یہ عبارت پڑھئے۔

اسی کے ساتھ حضرت جی کی ایک ایک بات کا کامل یقین بھی ظہور ہو رہا تھا کہ حضور والے اعمال کے بغیر کبھی بھی دنیا و آخرت میں کامرانی نصیب نہیں ہو سکتی

ایک چھدام میں ایک کٹوراپانی اس شخص نے ایک چھدام دی اور ایک کٹوراپانی ماںگا انہوں نے دیدیا اس نے یہ کہکر گردایا کہ اس میں تنکا ہے اور دوبارہ ماںگا اس نے دریافت کیا اور چھدام ہیں اس نے کہا اور تو میرے پاس نہیں اس نے ایک چپت رسید کیا اور کہا چھدام نہیں تھا تو دوسرا کٹورا کیسے ماںگا کیا خربوزے والا سمجھا ہو گا۔ یہ شخص بھاگا حضرت شاہ صاحب سے عرض کیا۔

ایک اور واقعہ ہے ایک شخص شاہ صاحب کے پاس حاضر ہوا عرض کیا صاحب خدمت کو دیکھنا چاہتا ہوں فرمایا ایک ٹھیکری لاوہ شخص ٹھیکری لایا شاہ صاحب نے اس پر کچھ لکیریں بنائے کفر مایا فلاں مقام پر سرکاری فوج پڑی ہے وہاں کچھ فاصلے سے ایک شخص جوتے گا نٹھتے ملیں گے۔ ان کو ٹھیکری دے دینا یہ شخص ٹھیکری لے کر پہنچا دیکھا ایک شخص جوتے گا نٹھ رہا ہے بظاہر صورت چماروں جیسی بنارکی ہے اس شخص نے جا کر ٹھیکری دی انہوں نے لیکر گا نٹھنے کا جو سامان پھیلا پڑا تھا اس کو ایک جگہ جمع کیا اس طرف فوراً فوجی افسر نے بگل دیا کہ کوچ ہے سب سامان جمع کرو پھر انہوں نے وہ سامان جھوٹی میں بھرا دوسرا بگل ہوا سب خیمے ڈیرے الھاڑ لوفوج نے ایک دم ڈیرے الھاڑ ڈالے وہ جھوٹی گلے میں ڈال کر کھڑے ہوئے ایک دم بگل ہوا کوچ کے لئے تیار ہوا س کے بعد یہ پیٹھ گئے تو بگل ہوا کہ سب سامان اتار ڈالو پھر جھوٹی میں سے سامان نکالا سب خیمے گاڑنے کا بگل ہوا پھر اس نے سامان پھیلا یا تو فوج نے بگل پر سامان

تلash بھی بے کار ہے چونکہ وہ تصرفات تکوینیہ میں ماؤ مورومضطہر ہیں اس لئے اگر ان کو راضی رکھو تو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے اور اگر کوئی ناراض رکھے تو ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ وہ جو کرتے ہیں حکم سے کرتے ہیں حضرت شاہ عبدالعزیز کے زمانہ میں ایک شخص نے شاہ صاحب سے شکایت کی کہ آجکل دہلی کے اندر منتظم حکام میں بڑی سستی چھائی ہوئی ہے۔ ہر کام میں اندر ہیں فرمایا بازار میں فلاں سمت صاحب خدمت ڈھیلے ہیں عرض کیا گیا ملاقات کر آؤں فرمایا کر آؤں اس شخص میں جو خربوزے قیچ رہے ہیں عرض کیا گیا ملاقات کر آؤں فرمایا کر آؤں اس شخص نے وہاں پہنچ کر سلام مسنون عرض کر کے کہا کچھ خربزوں کی ضرورت ہے کہا لے لو اس نے کہا پہلے دیکھ لوں اس شخص نے تمام خربوزے ٹوکرے کے کاٹ ڈالے اور آخر میں کھدیا اپھنے نہیں ہیں میں نہیں لیتا کہا بہتر یہ چلا آیا آکر حضرت شاہ صاحب سے تمام واقعہ بیان کیا فرمایا دیکھ لو یہ ایسے ہیں انہیں کا اثر ظاہری حکام پر ہے تقریباً ایک مہینہ گزر اتھا کہ دفعۃ تمام کاروبار میں ترقی ہو گئی اس شخص نے پھر دوبارہ جا کر شاہ صاحب سے عرض کیا آج کل تو دہلی کے اندر کاروبار میں رونق ہے فرمایا اب صاحب خدمت بھی ایسے ہیں تیز و طرار ہیں عرض کیا کہ وہ کون ہیں فرمایا قیچ پوری کے بازار میں پانی پلاتے پھرتے ہیں صاحب خدمت وہ ہیں دو کٹوروں کی جھنکار لگا رہے ہو نگے عرض کیا ملاقات کر آؤں فرمایا کر آؤں یہ شخص قیچ پوری بازار میں پہنچا ایک صاحب کہتے پھرتے ہیں

امتحن بے وقوف اور جن کے بدن پر لباس بھی نہیں ہوتا بازاروں میں گلیوں میں
نگے پھرتے ہیں وہ دنیا کے نظام کے مہتمم و منتظم ہوتے ہیں۔ انہیں کے اشاروں
سے یہ کائنات روای دواں ہے اگر وہ نرم و سست ہوں تو نظام حکومت بھی نرم و
سست ہو گا اور وہ سخت ہوں تو نظام سخت ہو گا۔

ان مجددوں اور پاگلوں کے ہاتھ میں نظام مملکت دینے کی حکیم الامت صاحب
نے بہترین وجہ ذکر کی ہے ان کا یہ قول ہے کہ سالک یعنی شریعت پر عمل کرنے
والا مسلمان یہ نظام حکومت اس لئے نہیں چلا سکتا کہ کبھی بعض مصلحتوں کی وجہ
سے کافر فوج کو مسلمانوں پر فتح دلانا ضروری ہوتا ہے اور عقل و شعور رکھنے والا
مسلمان یہ کام سرانجام نہیں دے سکتا اس وضاحت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دنیا
کا نظام مملکت ایسی ہستیوں کے ہاتھوں میں ہوتا ہے جو شریعت اسلامیہ سے مکمل
طور پر آزاد ہوتے ہیں کفر اور اسلام ان کے ہاں برابر ہوتا ہے صوفیاء کا مذہب
چونکہ وحدت ادیان بھی ہے اس لئے ان کے ہاں کفر و ایمان کی تفریق بے معنی
ہے گذشتہ حکایت بھی اس سلسلے کی کڑی ہے اور اس کی مزید وضاحت ملاحظہ ہو۔

ولایت کے شنوں

مولانا اشرف علی صاحب کی کتاب شریعت و طریقت میں سے مذکورہ عنوان کے
تحت یہ عبارت پیش خدمت ہے۔

ولایت چونکہ نبوت سے ماخوذ ہے اور نبوت میں مختلف شانیں ہیں اس لئے کسی

پھیلا دیا اسی طرح دو تین مرتبہ ہوا فوجی لوگوں نے باہم کہا کہ افسر کا داماغ خراب
ہو گیا ہے اس کی ڈاکٹری کراوے شخص یہ تماشہ دیکھ آیا الافتادات الیومیہ ج ۷ ص
۔ ۲۰-۲۲۔

مولوی اشرف علی صاحب نے پہلے یہ کہا کہ ابدال کو کوئی نہیں پہچانتا پھر یہ واقعہ
بیان کرتے ہوئے فرمایا شاہ صاحب نے ان ابدال کا پتہ بتایا بلکہ سر کاری فوج
کے ابدال کے نام تھیکری پر لکھ کر اس کو احکامات دیئے تھیکری پر لکھے ہوئے حکم کی
ابdal نے تعییل کر کے اپنے ابدال ہونے کا ثبوت فراہم کیا اور فوج کو اٹھک
بیٹھک کرائی۔ یہ ہے دیوبندی حکیم الامت کی توحید اسی حکیم الامت صاحب نے
دوسری جگہ فرمایا۔

تکوئی کارخانہ مజذوبین سے متعلق کرنے میں یہ حکمت ہے کہ ان میں عقل نہیں
ہوتی اس لئے شریعت کے مکلف نہیں ہوتے اور ان کی بعض خدمتیں شرع پر
منطبق نہیں ہوتیں مثلاً اگر مسلمانوں اور کافروں میں مقابلہ ہو تو مسلمانوں کا
غلبة مقصود تشریعی ہے اور ایسا ہونا بعض اوقات خلاف مصلحت و خلاف حکمت ہے
یہ نظام ایسی جماعت کے سپرد کیا گیا جس کو اس سے کوئی بحث نہیں اور ایسا کام
سالک کب کر سکتا ہے اور اس کو کیسے جائز ہوتا (الافتادات الیومیہ ج ۱ ص
۸۵-۸۶)۔

حکیم الامت صاحب کے اس بیان سے واضح ہے کہ اس زمین پر پاگل دیوانے

حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ کے متعلق بھی ایک بزرگ سے سنا ہے کہ ان کی نسبت موسوی تھی مگر خود ان کو اپنی نسبت کا علم نہیں تھا ان کے کسی معاصر بزرگ کے پاس ان کے مرید زیارت کے لئے جا رہے تھے آپ نے چلتے وقت فرمایا کہ ان حضرت سے میرا بھی سلام کہنا مرید نے جا کر پیر کا سلام پہنچایا انہوں نے جواب میں فرمایا کہ اپنے یہودی پیر سے ہمارا سلام کہنا یہ سن کر شیخ نجم الدین کبریٰ پر وجد طاری ہو گیا اور فرمایا کہ الحمد للہ مجھے اپنی نسبت معلوم ہو گئی کہ موسوی ہے اس پر حضرت والامولانا اشرف علی صاحب نے فرمایا کسی کو حق نہیں کسی کی نسبت پر کچھ اعتراض کرنے کا.....

انہ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں میں بعض یہودی اور عیسائی بھی ہوتے ہیں اور یہ لوگ مرتبے ہوئے کلمہ بھی اسی نبی کا پڑھتے ہیں جس کی نسبت ان پر غالب ہوتی ہے کوئی (الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ / کوئی لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ) پڑھتا ہے مولانا اشرف علی صاحب فرماتے ہیں کہ ایسے کسی شخص پر اعتراض کرنے کی بھی کوئی گنجائش نہیں کہ وہ مسلمان نہیں مولانا اشرف علی کی ایسی تعلیمات کو پوری دنیا تک پہنچانے کے لئے مولوی الیاس صاحب نے جماعت تبلیغ بنائی تھی۔ ان کے اپنے الفاظ یہ ہیں۔

ایک بار فرمایا حضرت مولانا تھانویؒ نے بہت بڑا مکام کیا ہے بس میرا دل چاہتا ہے کہ تعلیم ان کی ہو اور طریقہ تبلیغ میرا ہو (ملفوظات مولانا الیاس۔ ملفوظ ۵۶)۔

ولی کوعلی قدم عیسیٰ اور کسی کوعلی قدم موسیٰ حسب اختلاف شہوں کہا جاتا ہے اور یہ سب شانیں آنحضرت ﷺ کے شہوں کے القاب ہیں۔ آپ ان سب شہوں مختلفہ کے جامع ہیں پس جس کو آپ کی شان ملقب بہ شان موسیٰ سے فیض ہوا اس کوعلی قدم موسیٰ اور جس کو آپ کی شان عیسیٰ سے فیض حاصل ہوا اس کوعلی شان قدم عیسیٰ وغیرہ ہما سے تعبیر کیا جاتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ (فاتبعوا ملة ابراہیم حنیفا) سو تم ملت ابراہیم کی اتباع کرو جس میں ذرا بھی نہیں نسبت موسوی شہوں محمد یہ علیہ الصلوٰۃ والسلام سے ایک شان ہے عیسیٰ روح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، یہ سب حضور اکرم ﷺ کے شہوں ہی کے اسماء ہیں جن لوگوں میں ان شہوں موسویہ اور شہوں عیسیویہ کا غلبہ ہوتا ہے بعض اوقات وہ لوگ مرتبے وقت (لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ) پڑھنے لگتے ہیں جس کی حقیقت عموم نہیں سمجھتے چونکہ حضور اکرم ﷺ جامع الکمالات ہیں پس اس سے مستقید ہونا نہ اس سے حیثیت سے ہے کہ وہ دراصل کمال موسوی ہے بلکہ اس حیثیت سے ہے کہ وہ دراصل کمال محمدی ہے۔ شریعت و طریقت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی ص ۲۲-۲۳۔

اپنے یہودی پیر سے میرا سلام کہنا
اسی نسبت موسوی و عیسیٰ کو بیان کرتے ہوئے اشرف علی صاحب (الافتراضات الیومیہ ج اص ۲۵۲) میں فرماتے ہیں۔

دل ان کو دیکھ لیتا ہے دنیا و آخرت کی تمام مخفی چیزیں اس کے سامنے ہو جاتی ہے۔ اس سے صوفی جس کو وہ اپنی اصطلاح میں سالک بھی کہتے ہیں دوزخ و جنت حتیٰ کہ لوح محفوظ میں کس کی کیا تقدیر لکھی ہے اس کا ان کو علم ہوتا ہے صوفیاء کی کتابیں پڑھنے والے اس سے ناقص نہیں۔ دنیا و مافیحا کے مکمل کشف کے حصول کے آگے مدارس کا علم بڑی رکاوٹ ہے۔ اگر انسان کو دنیا و مافیحا کا مکمل کشف حاصل کرنا ہو تو علم کے مرکز سے اس کو دور رہنا ہوگا۔ اس لئے جماعت تبلیغ کے اہل کار مدارس کے اساتذہ و طلباء کو اپنے ساتھ خروج کرنے پر زور دیتے ہیں ان کے دینی علم سکھنے پر خروج کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔

مولانا الیاس فرماتے ہیں امام رازی نے تفسیر کبیر لکھی ہے لیکن بتاؤ اس سے کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچا ان متكلمین کے گروہ کے برعکس دیکھو تو نظر آئے گا کہ خواجہ اجمیری نے کتنا کام کیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے ہاتھوں کتنا بندگان خدا سیدھے راہ پڑے ہیں کیا تبلیغی کام ضروری ہے ص ۲۵۲۔ بحوالہ۔ جماعت تبلیغ اپنے نصاب کے آئینے میں ص ۹۵۔

مولوی الیاس صاحب کے اس بیان سے صاف ظاہر ہے کہ وہ بھی ایسی تبلیغ چاہتے ہیں جو خواجہ اجمیری اور نظام الدین اولیاء نے کی تھی۔ اور اس میں کوئی شک نہیں خواجہ اجمیری اور نظام الدین اولیاء اور علی ہبھوری لاحور والے صوفی تھے ان بزرگوں نے جس دین کی تبلیغ کی ہے وہ آج قوم کے سامنے ظاہر ہے یہ

اس واضح بیان کے بعد جماعت تبلیغ کے اصل ہدف اور مقصد حقیقی پر کوئی پرداہ نہیں رہا کہ اس جماعت کی تاسیس صوفیت کے نظریے کو عام کرنے کے لئے ہے اور یہ ضروری نہیں کہ اس جماعت کے ہر فرد کو اس حقیقت کا علم بھی ہو دنیا کے اندر ہر تحریک کی بنیاد کا ایک مقصد ہوتا ہے اس تحریک کے سربراہان اور لیڈر ان اس مقصد کے حصول کے لئے جاہل عوام کو استعمال کرتے ہیں ان لوگوں کو بتایا کچھ جاتا ہے اور لیڈر ان و سربراہان پارٹی کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے لوگ ان فریب کاروں و دھوکہ بازوں کے دھوکہ و فریب میں آ کر اپنی جانوں پر کھیل کر تحریک و تنظیم کے اصل مقصد کو پورا کر دیتے ہیں دنیا میں اس کی بہت سی مثالیں ہیں۔

جماعت تبلیغ کے مؤسسین ولیڈران اس جماعت کے افراد کا رکنان سے جو مقصد لینا چاہتے ہیں وہ اور ہے اور جوان کارکنان کو سکھایا بتایا جاتا ہے وہ اور ہے اس جماعت کے لیڈر ان نے جماعت کو خروج اور چلوں پر لگا کر ان کو صوفی بنادینے کا مقصد ملحوظ خاطر رکھا ہے صوفیاء کے مذہب میں عالم دنیا و مافیحا کے کشف حاصل کرنے کے لئے اس نفس کو عذاب دینا ضروری ہے دنیا کی لذت کی چیزیں ترک کر کے یہ مقصد حاصل کیا جاتا ہے بیوی بچوں سے علیحدگی بھوک اور پیاس برداشت کرنا اس مقصد کے لئے ضروری ہے اس سے انسان کا دل روشن ہو جاتا ہے انسان کی آنکھیں جو چین نہیں دیکھ سکتیں اس انسان کا منور و شن

پچاس سے زیادہ حج کئے۔

ابوالعباس سے اسی اور ابو عبید اللہ مغربی سے ستانوے حج منقول ہیں کیا اندازہ ہے ان حضرات کے درجوں کا کہ ہر قدم پر ستر کروڑ نیکیاں ان کو ملتی ہوں گی (فضائل حج فصل ۳)

یہ ہے اہل بدعت کا خرافی دین قرآن و سنت میں پیدل حج کی اس قدر رفضیت کہاں مذکور ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجَّ الْبَيْتِ مِنْ كَمَا نَذَرَ لَهُ اللَّهُ تَعَالَى كَمَا أَرْشَادَهُ﴾ (آل عمران : ۹۷) اور اللہ کے واسطے لوگوں کے استطاع ایہ سبیلاً ﴿(آل عمران : ۹۷)﴾ اور اللہ کے واسطے لوگوں کے ذمہ اس مکان کا حج کرنا ہے یعنی اس شخص کے ذمہ جو طاقت رکھے وہاں تک پہنچنے کی ترجیح اشرف علی صاحب تھانوی۔ مولانا اشرف فرماتے ہیں سبیل کی تفسیر حدیث میں زادوراحلہ کے ساتھ آئی ہے یعنی حج اس آدمی پر فرض ہے جس کے پاس وہاں تک جانے کے لئے سفر خرچ اور سواری موجود ہو یہ قرآن کا حکم ان بدعتی اقوال و حکایات کے رد کے لئے کافی ہے۔

شیخ کی روح کسی خاص جگہ مقید نہیں بلکہ وہ مرید کے ساتھ ساتھ رہتی ہے۔

نیز مرید کو یقین کے ساتھ یہ جاننا چاہیے کہ شیخ کی روح کسی خاص جگہ میں مقید و محدود نہیں ہے پس مرید جہاں بھی ہوگا خواہ قریب ہو یا بعید تو گوشش کے جسم سے

وہی دین ہے جس کا ان بزرگوں کے پیروکاران کی قبروں اور مزاروں پر صح و شام مظاہرہ کرتے رہتے ہیں یعنی مزاروں پر اعتکاف قبروں و مزاروں کے نام کی نذر و نیاز قبروں و مزاروں کے چاروں طرف طواف اور قبر و مزار والوں سے فریاد و استغاثہ، ہر سال ان قبروں پر عرس و میلہ جات کا انعقاد۔ الغرض یہ قبریں اور مزاریں بدعتات و شرک کے اعمال و افعال سے صح و شام پر رہتی ہیں یہ بزرگان یہی دین یہی اسلام اپنے مانے والوں کو دے گئے ہیں مولوی الیاس صاحب بھی تبلیغی جماعت کے ذریعہ لوگوں کو یہی دین پہنچانا چاہتے تھے چنانچہ مولوی زکریا صاحب نے تبلیغی جماعت اور فضائل اعمال لکھ کر اور جماعت تبلیغ کو صرف انھیں کتابوں کے پڑھنے کی ترغیب دلا کر موسس جماعت کی روح کو تسلیم پہنچائی ہے تبلیغی نصاب و فضائل اعمال بدعتات و صریح و جلی شرک سے بھر پور کتاب ہے ہر وہ دین جو کتاب و سنت کے علماء کے ذریعہ نہیں بلکہ ان پڑھ پیروں و خواجگان کے ہاتھوں پھیلا ہو وہ اہل بدعت کا دین تو ہو سکتا ہے قرآن و سنت والا دین نہیں ہو سکتا۔

ستر کروڑ نیکیاں

اہل بدعت کے دین و اسلام کی اور جملک اس واقعہ میں دیکھئے۔ علی بن شعیب سے نقل کیا گیا ہے کہ انھوں نے نیشاپور سے پیدل چل کر ساٹھ سے زیادہ حج کئے مغیرہ بن حکیم سے نقل کیا گیا ہے کہ انھوں نے مکہ سے چل کر

مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری دیوبند کے بڑے علماء میں سے تھے بذل الجھو دفی حلابی داؤ دسنی ابو داؤ کی شرح / کے مؤلف علماء دیوبند کے عقائد میں الحسن علی المفتون بھی انہیں کی تالیف ہے براہین قاطعہ بھی آپ ہی نے تالیف فرمائی ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اردو زبان درس سے دیوبند سے سیکھی تھی۔

مولانا کے بارے میں (تذکرۃ الخلیل ص ۳۷) میں لکھا ہے مزارات پر حاضری کے لئے سفر کرنا آپ کو پسند نہ تھا ہاں کسی سفر میں اپنے بزرگان سلسلہ کا مزار پڑتا تو حاضر ہو کر روحانی استفادہ کا جواہر طریق ہے اس پر عمل فرمائیت اور مکرات پر نکیر کئے بغیر نہ رہتے ایک مرتبہ مولانا رحیم بخش صاحب کے ساتھ ایک بزرگ کے مزار پر حاضر ہوئے وہاں سجادہ نشین نے مولانا کے ساتھ حضرت کو بھی چائے نوش کے لئے مدعو کیا۔ چائے سے فارغ ہو کر اٹھے اور باہر نکل تو سجادہ صاحب نے دوسرا مالوں میں مزار شریف کا چڑھاوا مٹھائی اور نقل پیش کیا۔ یہ ہے دیوبندیت کی توحید اور عقیدہ۔

خواجہ اجمیر کے مزار پر مراقبہ

اس عنوان کے تحت مؤلف تذکرۃ الخلیل لکھتا ہے ایک بار حضرت راندیر جاتے ہوئے اجمیر اترے تاکہ شیخ الطائفہ کے مزار پر حاضر ہوں حضرت مولانا تھانوی اور بندہ مؤلف تذکرہ ساتھ تھے میزبان چونکہ مزاورین کے حالات سے واقف

دور ہے لیکن اس کی روحانیت سے دور نہیں (امداد السلوک ص ۲۷) یہ امداد السلوک بانی جماعت تبلیغ مولوی الیاس صاحب کے پیر رشید احمد صاحب گنگوہی کی تالیف ہے۔

گویا کہ اس بعدتی عقیدے پر جماعت تبلیغ بھی مکمل عقیدہ رکھتی ہے اس کتاب کی اہمیت جماعت تبلیغ کے نزدیک کیا ہے اس سے واضح ہے کہ مولوی زکریا صاحب نے اس کا مقدمہ تالیف کیا ہے۔

پیر اور شیخ کا اصطلاحی عالم ہونا ضروری نہیں

نیز جانتا چاہیئے کہ شیخ کا جملہ علوم پر حاوی ہونا شرط نہیں ہے بلکہ عبادات میں فرائض اور سنن و نوافل کی مقدار محمرات و منوعات کی اقسام اور جائز و ناجائز کے قابل علم کافی ہے (امداد السلوک ۱۷-۲۰)۔

یہی وجہ ہے کہ یہ صوفی پیر و مرشد جاہل ہوتے ہیں اور جس جماعت کے سربراہ و شیوخ دینی علوم سے جاہل ہوں اس جماعت کیا حال ہوگا۔ یہی وجہ ہے یہ صوفیاء سلسلے قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، بدعت و خرافات سے پر ہیں۔ بلکہ اس مذہب کے بعض پیر و کارحلوں، وحدت الوجود و وحدت الموجود کا عقیدہ رکھتے ہیں۔

مزاروں کا چڑھاوا اور علماء دیوبند

سگ فارسی میں کتے کو کہتے ہیں اس مکتب میں مولوی الیاس صاحب نے اپنے آپ کو شاہ عبدالعزیز اور سید احمد بریلوی کے آستانے کا کتا کہا ہے۔

یہ تبلیغ بندہ کے نزدیک طریقت/حقیقت، شریعت تینوں کو علی

وجہ الاتم جامع ہے

مکاتیب الیاس کے مکتب ۱۸ میں مولانا الیاس صاحب کے یہ الفاظ درج ہیں بندہ ناجیز کے نزدیک یہ تبلیغ شریعت، طریقت، حقیقت تینوں کو جامع ہے۔ شریعت، طریقت، حقیقت کا کیا معنی ہے ملاحظہ ہو۔

صوفیاء کے نزدیک طریقت و حقیقت کیا ہے

کشاف اصطلاحات الفنون ص ۹۲۰ میں ہے حقیقت نزد صوفیاء ظہور ذات حق است بے حجاب تعلیمات و مکثرت موهومہ در نور ذات، یعنی حقیقت صوفیاء کے نزدیک رب کے ظہور کو کہتے ہیں جو بے حجاب ہو یعنی پردے سے باہر جس میں صرف وحدانیت ہو کثرت موهومہ جو ظاہر میں نظر آتی ہے اس کے نور میں محو ہو چکی ہے۔ اما الحق والحقیقة فی اصطلاح مشائخ الصوفیاء فالحق هو الذات والحقيقة هي الصفات مشائخ صوفیاء کی اصطلاح میں حق اللہ کی ذات کا نام ہے اور حقیقت اس کے صفات کا۔ والشريعة التزام العبودية والحقيقة مشاهدات الربوبية یعنی شریعت بندہ کا عبادت الہیہ

تھے کہ طواف اور سجدہ کرتے ہیں اس لئے حسن مدیر کے ساتھ کام کیا اور بعد عصر کا وقت تجویز ہوا ہم سب حاضر ہوئے اور اندر کٹھرے کے قریب کھڑے ہو گئے حضرت تو جاتے ہی بیٹھ گئے اور مرافق ہو کر ایسے مستغرق ہو گئے کہ خبر ہی نہ رہی کہاں بیٹھے ہیں۔ (ص ۳۷۲-۳۷۳)

پیر کامل اگر جانماز کو شراب سے رنگ دینے کا کہہ تو رنگ دینا چاہیے

تذکرۃ الحلیل کے مؤلف نے طریقت کے زیر عنوان ایک فارسی کا شعر لکھا ہے اس کا ترجمہ حاشیہ کتاب میں یوں مذکور ہے اگر مرشد کامل کہے تو شراب سے جانماز کو رنگ دو کیونکہ راہ کو جاننے والا راہ اور نشان منزل سے بے خبر نہیں ہوتا (ص ۸۷)۔

شاہ عبدالعزیز و سید احمد بریلوی کے آستانہ کے کتے کی طرف سے خط

مولوی علی میاں ندوی نے ایک رسالہ مکاتیب الیاس کے نام سے تحریر فرمایا ہے اس رسالے میں بانی جماعت تبلیغ مولوی الیاس صاحب کا مکتب باس الفاظ درج ہے از سگ آستانہ عزیزی و احمدی کتاب کے حاشیے میں وضاحت ہے کہ عزیزی و احمدی لفظ سے شاہ عبدالعزیز اور سید احمد بریلوی کی طرف اشارہ ہے

پاخانہ میں

ایک سلسلہ نقتوں میں فرمایا کہ ایک پیر کی حکایت ہے کہ ان کے مرید نے خواب میان کیا کہ آپ کی انگلیاں شہد میں بھری پڑی ہیں اور میری پاخانہ میں پیر صاحب نے سن کر فرمایا کیوں نہ ہوتونیا کا کرتا ہے اور ہم بزرگ اللہ والے ہیں مرید نے کہا ابھی خواب پورا نہیں ہوا کچھ باقی ہے وہ یہ ہے کہ تمہاری انگلیاں میں چاٹ رہا ہوں اور میری انگلیاں آپ چاٹ رہے ہو) (الافتراضات الیومیہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب ج ۳ ص ۲۹) یہ ہے بعدی پیروں و مشائخ کا حال۔

عشاق کی جنت وہ ہے جس میں دوست کی ملاقات ہوا اور جہنم وہ جہاں وہ اس کے دیدار سے محروم ہوں
صوفیاء کے مذہب میں جنت اسکا نام ہے جہاں دوست کی ملاقات ہوا اور جہنم وہ جگہ ہے جہاں وہ اس دیدار سے محروم ہو۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں عشاق کا مذہب تو یہی ہے کہ جنت کو وہ دوست کی ملاقات کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور اسی طرح دوزخ کو فراق کی جگہ تصور کرتے ہیں (الافتراضات الیومیہ ج ۳ ص ۲۷)۔

تبیغ سے مولانا تھانوی کو ایصال ثواب

کا التزام اور حقیقت رب کا مشاہد کرنا ہے وہر کہ مفید آنچہ پیغمبر علیہ السلام فرمودہ است وی ازاہل شریعت است وہر کہ کند آنچہ پیغمبر کردہ است وی ازاہل طریقت است، وہر کہ بیند آنچہ پیغمبر دیدہ است وی ازاہل حقیقت است یعنی جو شخص وہ کرتا ہے جو پیغمبر نے کیا ہے وہ اہل شریعت میں سے ہے اور جو شخص وہ دیکھتا ہے جو پیغمبر نے دیکھا ہے وہ اہل طریقت میں سے ہے اور جو شخص وہ دیکھتا ہے جو پیغمبر نے دیکھا ہے وہ اہل حقیقت میں سے ہے: (الطریقة هی فی اصطلاح الصوفیاء طریق موصل الی الله تعالیٰ کما ان الشریعة طریق موصل فی الجنة) صوفیاء کی اصطلاح میں شریعت جنت تک جانے کا راستہ ہے اور طریقت برادر راست رب تعالیٰ کی ذات تک جانے کا راستہ ہے مشائخ صوفیاء کی اصطلاح میں حق توانی ہے اور حقیقت صفات اور اس سے مراد ذات و صفات حق تعالیٰ لیتے ہیں چنانچہ جب مرید کو چھوڑ کر اور خواہشات نفس کی حدود سے نکل کر عالم احسان تک پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ علم حقیقت تک پہنچ گیا اور حقیقتوں کا عالم بن گیا اگرچہ ابھی وہ عالم صفات و اسماء میں ہوتا ہے اور جب مرید ذات تک پہنچ جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ تک رسائی پا گیا امداد السلوک ص ۲۷ ا مؤلفہ رشید احمد صاحب گنگوہی دیوبندی۔

ایک مرید کا خواب کہ پیر کی انگلیاں شہد میں ہیں اور مرید کی

دیں اور جو سمجھ میں آوے کریں۔ (تبیغی جماعت پر اعتراضات اور ان کے جوابات مؤلف مولانا زکریا صاحب ص ۱۲۸-۱۲۹)۔

اسی ہدایت پر جماعت تبلیغ گامزن ہے اس جماعت کے معمولات پر جتنا اعتراضات کئے جائیں چاہے قرآن و سنت سے دلیل دے کر ان کے اعمال کو بدعت ثابت کر دیا جائے تب بھی ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا ان کی کتاب تبلیغی نصاب اور فضائل اعمال میں مذکورہ واقعات کے جھوٹ کو جس قدر بھی واضح کر دیا جائے مگر وہ ان واقعات و حکایات کو چھوڑنے پر کبھی تیار نہیں ہوتے ان کو یہی تعلیم ہے کہ مخالف کا ہر اعتراض بکواس ہے بک بک ہے اس کی طرف مطلقاً توجہ نہ کی جائے۔

سمندروں اور دریاؤں پر صوفی کی حکومت

مولانا زکریا صاحب فرماتے ہیں میں نے اپنے والد سے ایک قصہ اکثر سنادہ فرماتے تھا ایک شخص کو پانی پت ایک ضرورت سے جانا تھا راستہ میں جمنا پڑتی تھی جس میں اتفاق سے طغیانی کی صورت تھی کہ کشتی بھی نہ چل سکتی تھی یہ شخص بہت پریشان تھا لوگوں نے اس سے کہا کہ فلاں جنگل میں ایک بزرگ رہتے ہیں ان سے جا کر اپنی ضرورت کا اظہار کرو اگر کوئی صورت تجویز کریں تو شاید کام چل جائے ویسے کوئی صورت نہیں لیکن وہ بزرگ اول خفا ہونگے انکار کریں گے اس سے مايوں نہ ہونا چاہیے چنانچہ وہ شخص گیا اس جنگل میں ایک جھونپڑی

انہیں مولانا تھانوی کے لئے بانی جماعت تبلیغ جماعت کو حکم دیتے ہیں کہ حضرت تھانوی کے لئے ایصال ثواب کا اہتمام کیا جائے ہر طرح کی چیز سے ان کو ثواب پہنچایا جائے کثرت سے قرآن شریف ختم کرائے جائیں۔ یہ ضروری نہیں کہ سب اکٹھے ہو کر پڑھیں بلکہ ہر شخص کا تھائی میں پڑھنا زیادہ بہتر ہے تبلیغ میں نکلنے کا ثواب سب سے زیادہ ہے اس لئے اس صورت سے زیادہ ثواب پہنچاؤ۔ (مکاتیب الیاس بنام کارکنان میوات مکتوب ۸)

جماعت تبلیغ کے کارکنان کو منافقین کی بات نہ سننے کا حکم
جماعت تبلیغ سے چونکہ ایک خاص مقصد وابستہ ہے وہ صوفیت اور دیوبندی مذہب کو دنیا میں پھیلانا ہے اسی لئے کارکنان جماعت کو ان الفاظ میں ہدایت کی گئی ہے۔

تبلیغ والوں پر یہ مستقل اعتراض ہے کہ معترضین کے اعتراضات کی طرف التفات نہیں کرتے میرے نزدیک یہ اعتراض لغو ہے اس لئے کہ بلا تعین گول مول اعتراض کی طرف کون توجہ کر سکتا ہے۔ بالخصوص تبلیغ والے حضرات کو تو اپنے مشاغل کے ہجوم کی وجہ سے اتنی فرصت نہیں رہی کہ ایسے لغو اعتراضات کی طرف التفات کریں اکابر نے بھی کبھی التفات نہیں کیا حضرت حکیم الامت پر ہمیشہ اعتراضات کی بوچھاڑ ہر طرف سے رہی حضرت کا ارشاد ہے اعتراض سے تو انسان کسی حالت میں بھی نہیں نجح سکتا۔ بس اسلام یہ ہے کہ معترضین کو بننے

ص ۳۸۸ پر ہے مولوی زکریا صاحب نے اس قصہ کو آپ بیتی ۲ ج اص ۱۵ مکتبہ مدنیہ لاہور میں بھی ذکر کیا ہے مولوی زکریا صاحب نے ایک اور قصہ اسی آپ بیتی ۲ ص ۵۳ میں ذکر کیا ہے ملاحظہ ہو۔

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ ایک بزرگ دریا کے کنارے پر تھے دوسرے بزرگ دوسرے کنارے پر ایک بزرگ کے جو بیوی بچوں والے تھے اپنی بیوی سے کہا کہ کھانے کا ایک خوان لگا کر دریا کے دوسرے کنارے جو بزرگ رہتے ہیں ان کے پاس لے جاؤ اور ان کو کھلا کر آؤ بیوی نے کہا کہ دریا گہرا ہے میں اس کو کس طرح پا کر کے دوسرے کنارے جاؤں گی فرمایا جب دریا میں قدم رکھنا تو میرا نام لے کر کھانا اگر میرے اور میرے شوہر کے درمیان وہ تعلق ہوا ہو جوزن و شوہر میں ہوا کرتا ہے تو مجھے ڈبودے ورنہ میں پار ہو جاؤں اس نے بھی کھنا تھا کہ دریا پایا ہو گیا اور گھٹنوں گھٹنوں پانی میں وہ دریا کے پار ہو گئیں انہوں نے کھانے کا خوان اس بزرگ کو پیش کیا انہوں نے اس کو اکیلے تناول فرمایا جب واپس ہونے کا وقت آیا تو ان کو فکر ہوئی کہ آنے کا وظیفہ تو مجھے معلوم ہو گیا اب جاتے وقت کیا کہوں اس بزرگ نے اس کی پریشانی دیکھی تو اس سے دریافت کیا انہوں نے کہا میں دریا سے کس طرح پار ہوں انہوں نے فرمایا کہ اب جائے تو میرا نام لے کر کھانا کہ اس نے ایک لقمہ کھایا ہو تو میں ڈوب جاؤں ورنہ پار ہو جاؤں چنانچہ وہ پار ہو گئیں اب انہوں نے شوہر سے پوچھا کہ آپ نے

تھی اس میں اس کے اہل و عیال رہتے تھے اس شخص نے روکا پنی ضرورت کا اظہار کیا کہ کل مقدمہ کی تاریخ ہے جانے کی کوئی صورت نہیں اول تو انہوں نے حسب عادت خوب ڈانٹا کہ میں کیا کر سکتا ہوں میرے قبضے میں کیا ہے اس کے بعد جب اس نے بہت زیادہ عاجزی کی تو انہوں نے فرمایا کہ جتنا سے جا کر کہدو کہ ایسے شخص نے مجھے بھیجا ہے جس نے عمر بھر کبھی کچھ نہیں کھایا نہ یہوی سے صحبت کی یہ شخص واپس ہوا ان کے کہنے کے موافق عمل کیا جتنا کاپنی ایک دم رک گیا اور یہ شخص پار ہو گیا جتنا پھر حسب معمول چلنے لگی لیکن اس شخص کے واپس ہونے کے بعد ان بزرگ کی بیوی نے رونا شروع کر دیا کہ تو نے مجھے ذلیل اور رسوا کر دیا بغیر کھائے تو خود بچوں کر ہاتھی بن گیا اس کا تجھے اختیار ہے اپنے متعلق جو چاہے جھوٹ بولدے لیکن یہ بات کہ تو کبھی بیوی کے پاس نہیں گیا اس بات سے مجھے رسوا کر دیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اولاد جو پھر رہی ہے یہ سب حرام کی ہے اس پر بزرگ نے کہا کہ غور سے سن میں نے جب سے ہوش سن بھالا ہے کبھی اپنی خواہش نفس کے لئے کوئی چیز نہیں کھائی ہمیشہ جو کھایا اس نیت سے کھایا کہ اس سے اللہ کی اطاعت کے لئے بدن کو قوت پہنچے اور جب بھی تیرے پاس گیا ہمیشہ تیرا حق ادا کرنے کا ارادہ رہا کبھی اپنی خواہش کے تقاضے سے صحبت نہیں کی قصہ ختم ہوا (فضائل صدقات کتیجانہ فیضی لاہور ص ۵۲۹-۵۲۰)۔
یہ قصہ فضائل صدقات ادارہ اشاعت دینیات حضرت نظام الدین دہلی کے

جو بارش اولوں کا زور شروع ہوتا تھا تو سارے راستے مسدود ہو جاتے تھے اس زمانے میں ایک عجیب واقعہ سنئے میں آیا تھا اللہ جانے کیا حقیقت تھی ایک فسادیوں کا جھوم بھوگل کی طرف سے حملہ کے لئے آیا لیکن ایک دم بھاگ گیا لوگوں نے ان سے پوچھا کیا بات پیش آئی انھوں نے کہا کہ یہاں کے زندہ تو زندہ مردے بھی لڑتے رہتے ہیں اور مقابلے کے لئے تیار ہیں ان لوگوں نے بیان کیا کہ جب ہم مسجد بغلہ کے قریب پہنچ تو قبروں سے مردے اٹھتے ہوئے نظر آئے اس لئے ہم واپس ہو گئے (آپ بیتی ۵۲ ص ۵۳)۔

دیوبندی علماء و بزرگوں کی کرامات کو، دیوبندی مذہب میں حلال ہے

مولوی زکریا صاحب دیوبندی تبلیغی نے اپنی کتاب آپ بیتی ۳ ص ۴۲۰ میں لکھا ہے مولوی رشید احمد گنگوہی نے ایک طالب علم کو غصے میں کہا چل تو تو باولا ہے۔ چند ہی روز بعد یہ طالب علم باولا ہو گیا۔ اس زمانے میں کوئے کا مسئلہ بھی زوروں پر تھا یہ طالب علم بانس کے اوپر کوئے کو باندھ کر سارے دن گنگوہ کی گلیوں میں یہ اعلان کرتا پھرتا تھا کہ یہ کو حلال ہے میں کہتا ہوں حنفی دیوبندی مذہب میں کو حلال ہے اس لئے یہ طالب علم اس کی حلت کی تشهیر کرتا پھرتا تھا (عین الہدایہ ج ۲ ص ۱۶۵) میں ہے (وقال ابو حنیفہ لا بأس با کل

صاحب اولاد ہو کر خلاف واقعہ بات کیوں کہی اور اس بزرگ نے آنکھوں کے سامنے پورا کھانا تناول کرنے کے باوجود ایک لقمه بھی کھانے سے انکار کیوں کیا تو اس بزرگ نے جواب دیا کہ میں نے جو کچھ کیا امراللہی سے کیا اپنے نفس کی خواہش سے نہیں کیا اور انہوں نے جو کچھ کیا وہ امراللہی سے کیا نفس کا اس میں کوئی حصہ نہیں تھا۔

اس قسم کی حکایات اگر کوئی بدعتی و مشرک بیان کرتا تو تجب نہ ہوتا لیکن دیوبندی مذہب اور تبلیغی جماعت کے بڑے شیخ نے بیان کیا ہے ان واقعات کی تردید بھی انہوں نے نہیں کی جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان واقعات کوچھ سمجھتے تھے اور یہ مخدوٰبین لوگ جن کے حکم سے دریاؤں کے پانی آنا فناً رک جاتے تھے دیوبندی تبلیغی شیخ کے نزدیک صاحب خدمت ابدال تھے جن کے ہاتھوں میں کائنات کا نظام ہے انہیں کے حکم سے دریا، ہوا میں، بارشیں، ہلکوں و قوموں کی جنگوں میں ہاروجیت ہوتی ہے یہ ہے دیوبندی مذہب جو اہل توحید ہونے کا بڑا دعویٰ کرتے ہیں اہل سنت والجماعت کا لیبل لگا کر اپنا اصلی و حقیقی چہرہ لوگوں سے چھپا رکھا ہے۔

یہاں کے زندہ تو زندہ مردے بھی لڑتے ہیں کئی مرتبہ نظام الدین کی مسجد بغلہ مرکز تبلیغ پر حملہ کی مؤوث روایات سنئے میں آئیں مگر ہر مرتبہ اللہ جل شانہ نے اس قدر مدد فرمائی کہ مغرب کے وقت سے

سوانح قاسمی کے مؤلف نے مولوی قاسم نانوتوی کی یہ کرامت بیان کی ہے کہ ایک جگہ پر شیعوں نے مولوی صاحب کے آگے ایک نوجوان لڑکے کا فرضی جنازہ رکھا تھا حقیقت میں یہ لڑکا زندہ تھا مولوی صاحب سے انہوں نے کہا اس میت کا آپ جنازہ پڑھادیں مولوی صاحب نے کہا تمہارا مذہب اور ہے میرا اور ہے میں تمہارا جنازہ کیسے پڑھ سکتا ہوں مگر انہوں نے آپ کو مجبور کر دیا اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم مولوی صاحب کا مذاق اڑائیں گے مولوی صاحب نے جنازہ شروع کر دیا اور دو تکبیریں ہو گئیں اور ان کے منصوبے کے مطابق میت یعنی لڑکا نہیں اٹھا تو ان میں سے کسی نے ہونہ کے ساتھ جنازہ کو اٹھ کھڑے ہونے کی سکار دی مگر نہ اٹھا حضرت نے تکبیرات اربعہ پوری کر کے اسی غصے میں فرمایا اب یہ قیامت کی صبح سے پہلے نہیں اٹھ سکتا (ص ۷۴ ج ۲) حاشیہ مولوی رفیع الدین صاحب کے والد صاحب کی قبر سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی مفتی صاحب نے قبر پر جا کر کہا کیوں لوگوں کو فتنہ میں مبتلا کر رکھا ہے اس جملہ کا زبان سے نکلا تھا کہ وہ آواز بند ہو گئی اور پھر کبھی سنائی نہ دی کیا ٹھکانہ ہے اس تصرف کا جو زندوں سے گزر کر برزخ تک پہنچا ہوا اور قبر والوں پر بھی موثر ہوتا ہو گویا قبر والے برزخ میں بھی ان مریّیان دین کے وعظ و پند اور تنبیہ کے شائق اور ان پر عمل درآمد کرنے کے لئے مستعد رہتے ہیں (فتاویٰ دارالعلوم دیوبند پیش لفظ ج ۳۸) مفتی صاحب کے والد موت کے وقت

العق حق) امام ابوحنیفہ نے کہا کوئے کے کھانے میں مضائقہ نہیں ہے یہ کوکبورت کے برابر بھی دم کا سیاہ سفید ملا ہوا پرندہ ہوتا ہے بعضے اس کو منحوس کہتے ہیں اور آواز اس کے عن عن سے مشابہ نکلتی ہے اس کے کھانے میں کوئی مضائقہ نہیں ہیں یہی اصح ہے حضرت حافظ صاحب بھوپال میں تشریف فرماتھے اس زمانے کے تصرفات کے قصے مشہور ہیں اخفاء حال بہت تھاد و سروں کے سامنے تجدبھی نہیں پڑھتے تھے ایک تقریب میں تشریف لے گئے بعض اعزاء کو خیال ہوا کہ آج حافظ کے معمولات دیکھنے کا موقع ملے گا جب سب لیٹ گئے اور حافظ صاحب نے اندازہ کیا یہ سب سو گئے ہیں تو چکپے سے اٹھ لوثا اٹھانے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ ایک صاحب جلدی سے چار پائی پر بیٹھ گئے حافظ صاحب جلدی سے اپنی چار پائی پر لیٹ گئے آدھ گھنٹہ پون گھنٹہ بعد یہی صورت پیش آئی حافظ صاحب پھر لیٹ گئے تیسرا بار میں جب یہ قصہ پیش آیا ان صاحب کے پیٹ میں درد اس قدر ہوا کے تڑپ گئے حافظ صاحب سے معافی مانگی اور جب وہ بہت بے قرار ہوا اور حافظ صاحب کو ترس آیا تو فرمایا کہ دوسروں کو ستانے کا یہی حشر ہوا کرتا ہے (آپ بیتی ۵ ص ۶۷۵)۔

قاسم نانوتوی صاحب نے زندہ آدمی کا جنازہ پڑھا وہ ان کی کرامت سے مر گیا

سے فرمایا۔ یا جبار کی شان میں پڑھ دی تھی! یا جبار کی کیا شان تھی اس کے بارے میں مولوی اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں کاملین میں ایک درجہ ہے ابوالوقت کہ وہ جس وقت جس تجلی کو چاہیں اپنے اوپر واحد کر لیں۔ (کذاسمعت مرشدی) پس عجب نہیں کہ شاہ عبدالقدار صاحب نے اس وقت اپنے اوپر جبار کی تجلی کو واحد کیا ہوا اور اس کی مظہریت کی حیثیت سے اس کی توجہ سے دفعہ فرمایا ہو..... انہیں۔ یعنی شاہ صاحب اس وقت رب تعالیٰ کی صفت (جبار) کے مظہر تھے اسی مظہریت سے انہوں نے مریض کوشفادی۔

اس واقعہ سے معلوم ہوا رب تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں اولیاء میں سے جو لوگ ابوالوقت کہلاتے ہیں وہ جب چاہیں ان صفات میں سے کسی بھی صفت سے متصف ہو سکتے ہیں پھر اس وقت وہ شان عبدیت سے نہیں شان الوہیت سے دنیا میں تصرف کرتے ہیں۔

قبروں پر قبّہ بنانا

سوال : قبر اور قبّہ بنانے کے متعلق شریعت کیا کہتی ہے؟

جواب : شامی میں نقل کیا ہے۔ (وقیل لا یکرہ البناء اذا كان الميت من المشائخ والعلماء والسدادات) یعنی کہا گیا ہے کہ قبر پر قبّہ بنانا مکروہ نہیں جس وقت کہ میت مشائخ اور علماء و سادات میں سے ہو۔ لیکن قبور کے انهدام کا حکم فقهاء نے نہیں کیا۔ اور بعض آثار سے ثبوت قبّہ و مزار کا معلوم ہوتا ہے چنانچہ

سخت تکلیف میں تھے مفتی صاحب نے ان کی چار پائی کے پاس بیٹھ کر مراقبہ کیا اس سے ان کے چہرے پر رونق آگئی اس واقعہ سے حضرت مదوح کے اس غیر معمولی تصرف و توجہ کا پتہ چلتا ہے جو مخلوق کا بیڑا پار لگانے میں ان بزرگوں سے نمایاں ہوا ہے۔ (فتاویٰ دارالعلوم ج اص ۳۸)

پیش لفظ۔ مفتی صاحب نے اپنے کھلے تصرفات سے اپنے بھائی مطلوب الرحمن صاحب عثمانی کی بہت زیادہ دشگیری فرمائی ہے (ج اص ۲۱)

مولوی ابراہیم صاحب کراچی جو مفتی صاحب کے پیر بھائی تھے ایک دوکاندار نے ان کے ساتھ بدمعاملگی کی جس پر مولانا کو غصہ آگیا اس کی دوکان پر تیز نگاہ کی تو اس کی دوکان کا سامان الٹ پلٹ ہو گیا (فتاویٰ دارالعلوم ج اص ۲۱)

شاہ عبدالقدار ایک مرتبہ چلے کے ارادہ سے پیر ان کلیر شریف تشریف لے گئے تھے جب بھی مراقب ہوئے یہی صدرا آئی کہ اپنا کرنا اپنا بھرنا (آپ بیتی ۶ ص ۸۳۲)۔

ابوالوقت اولیاء

اور آپ بیتی ۶ ص ۸۷۷ میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی پر جن آیا کرتا تھا شاہ عبدالعزیز اور شاہ غلام علی صاحب نے جھاڑ پھونک کی مگر کوئی افاقہ نہ ہوا۔ شاہ عبدالقدار نے اس کو جھاڑا توہہ ٹھیک ہو گیا اس بارے میں شاہ عبدالقدار سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیا پڑھا انہوں نے کہا سورہ فاتحہ، کہا کس خاص ترکیب

فرمایا حضرت جیند بغدادی بیٹھے تھے ایک کتاب سامنے سے گزر آپ کی نگاہ اس پر پڑ گئی وہ اس قدر باکمال ہو گیا کہ شہر کے کتبے اس کے پیچھے دوڑے وہ ایک جگہ بیٹھ گیا سب کتوں نے اس کے گرد حلقة باندھ کر مراقبہ کیا (شمام امداد یہ ص ۲۸ از اشرف علی صاحب تھانوی)۔

کیا صوفیاء اتنے باکمال ہوتے ہیں ان کے نظر پڑنے سے کتبے بھی باکمال ہو جاتے ہیں۔ ہمارے نبیؐ کی نظر بلکہ تبلیغ سے سگا چھا ابوالحباب مسلمان نہیں ہو سکا اور ابو طالب بھی حالت کفر پر مراگر صوفیاء ہیں کہ کتوں کو بھی ایک نظر سے باکمال کر دیتے ہیں۔

صوفیاء کے دو اسلام

صوفیاء کے مذهب میں اسلام دو ہیں ایک نہیں اشرف علی صاحب تھانوی فرماتے ہیں اسلام شرعی خدا خلق سے تعلق رکھتا ہے اور اسلام حقیقی محض خدا سے تعلق رکھتا ہے شمام امداد یہ ص ۳۲ مسلمانوں کا تو ایک دین ہے مگر شیطانی صوفیاء کے دو دین ہو سکتے ہیں۔

سات اولیاء نے اپنے بدن کا گوشت اللہ کے نام پر درندے کو کھلایا

ایک دن آپ (کتاب میں شیخ عبدالقدار جیلانی کو غوث اعظم لکھا ہے) نعوذ

منقول ہے کہ عمر حضرت ابراہیم خلیل کی قبر پر پہنچے وہاں دور کعت نفل پڑھی اور انہدام قبہ کا حکم نہیں فرمایا لہذا یہ فعل جس نے بھی کیا ہے اچھا نہیں کیا۔ اور اثر حضرت عمر سے معلوم ہوا کہ ان کے زمانے میں بھی وجود قبہ تھا (فتاویٰ دارالعلوم دیوبند ج ۵ ص ۳۸۹-۳۹۰)۔

حالانکہ جناب عمرؓ کے مذکورہ اثر کا مفتی صاحب نے کوئی حوالہ نہیں دیا اس اثر کے صحیح ہونے کے بعد ان کے فتویٰ میں وزن ہو سکتا ہے ورنہ نہیں۔ اور یہ سفید جھوٹ اور عمرؓ پر تہمت ہے۔ کیا عمرؓ جیسے موحد سے یہ ممکن ہے وہ قبر کے پاس نماز پڑھیں۔ نہیں ہرگز نہیں یہ مشکل کو عمل ہے عمرؓ اس سے بری ہیں۔

مرنے کے بعد بھی بزرگوں کے فیوض و برکات باقی رہتے ہیں

سوال : اولیاء اللہ کے تقریبات اور ان کے فیوض و برکات بعد وصال موجود رہتے ہیں یا بعد موت ظاہری وہ سب ختم ہو جاتے ہیں؟

جواب : فیوض و برکات ان کے بعد موت باقی رہتے ہیں مثلاً یہ کہ ان کی زیارت و قرب سے زائرین کو برکات حاصل ہوں (فتاویٰ دارالعلوم دیوبند ص ۷۷ جلد ۵)

جنید کی نظر پڑنے سے کتاب اکمال ہو گیا

نہیں تو ان کی ولایت مشکوک ہو جاتی ہے اور خروج وچلے سب بے اثر۔

لا الہ الا اللہ کے تین معنی ہیں

صوفیاء کے نزدیک لا الہ الا اللہ کے باعتبار و مراد میں تین معنی ہیں

اول : لا الہ الا اللہ، یعنی لا معبود الا اللہ

دوم : لا الہ الا اللہ، یعنی لا مقصود الا اللہ

سوم : لا الہ الا اللہ، یعنی لا موجود الا اللہ

یہ تیسرا مرتبہ سب سے اعلیٰ ہے شامم امدادیہ ص ۳۳۳ امداد المنشاق ص ۲۳۳

لاموجود الا اللہ کے عقیدے والے کو سب سے اعلیٰ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ دیوبندی و تبلیغی جماعت وحدت الوجود کی قائل ہے۔

حکیم الامت کے اس قول سے معلوم ہوا کہ ان کے ہاں کلمہ کا اصل و صحیح معنی

(لاموجود الا اللہ ہے) یعنی نہیں کوئی موجود مگر اللہ گویا کہ یہ سب کائنات جو اللہ کے سوانظر آتی ہے وہ اللہ سے جدا نہیں بلکہ اس کی ذات کا جزو و حصہ ہے اس لئے صوفی کے عقیدے میں دنیا کی کوئی چیز رب تعالیٰ کا غیر نہیں نہ عذ باللہ من ذالک۔

اس سے معلوم ہوا کہ کسی صوفی کے کلمے کا خواہ وہ دیوبندی ہو یا بریلوی کوئی اعتبار نہیں کیونکہ ان کے کلمے کا معنی لا معبود الا اللہ نہیں بلکہ لا موجود الا اللہ ہے۔

باللہ من ذالک) نے دیکھا کہ سات ڈھانچے ہڈیوں کے رکھے ہیں دریافت ہوا کہ ایک درندے نے خدا سے دعا کی کہ مجھ کو اپنے دوستوں کا گوشت کھلانے۔

وہ ساتوں آدمی پیش کئے گئے اور اس درندے نے گوشت ان مردان کا کھانا شروع کیا جس وقت درندہ دانت مارتا تھا وہ لوگ ہرگز دم نہ مارتے تھے یہاں تک کہ اپنا تمام گوشت راہ مولیٰ میں شارکر دیا اور صرف ہڈیاں باقی رہ گئیں (امداد المنشاق ص ۲۲۴ از اشرف علی صاحب تھانوی)۔

یہ سات اولیاء کوں سے تھے اس بارے میں اشرف علی صاحب کا کلام ملاحظہ ہو : عاشق دو طرح پر ہیں عاشق ذاتی، و عاشق صفاتی، اور مرتبہ عاشق ذاتی کا عاشق صفاتی سے زیادہ ہے کیونکہ عاشق ذاتی پر جو کچھ وارد ہوتا ہے اس کو ذات اپنی سے جانتا ہے پس اس وجہ سے رضا و تسلیم میں مرتبہ عالیہ پاتا ہے ایک دن عبد القادر جیلانی سات اولیاء اللہ کے ہمراہ بیٹھے تھے ناگاہ نظر بصیرت سے ملاحظہ فرمایا کہ ایک جہاز قریب غرق ہونے کے ہے آپ نے ہمت و توجہ باطنی سے اس کو غرق ہونے سے بچا لیا وہ ساتوں آدمی اولیاء اللہ اس امر کو خلاف خیال کر کے آپ سے ناخوش ہوئے آپ نے ان کو اپنی مجلس سے علیحدہ کر دیا یہی وہ اولیاء تھے جنہوں نے اپنا گوشت درندے کو کھلایا امداد المنشاق۔

یہ ہے صوفیاء کی شیطانی کہانی دیوبندی شیخ کی زبانی۔ کیا تبلیغی جماعت کے بزرگوں میں سے کسی نے اپنا گوشت اللہ کے نام پر کسی درندے کو کھلایا ہے اگر

کہا ﴿خَلَقْتُنِي مِنْ نَارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾ (الاعراف : ۱۲) یہ سمجھا کہ یہ خطاب کس نے کیا ہے اور واجب الاتباع ہے اور نظر باطن پر نہ کی کہ آدم مظہر کس کے ہیں کیا ہم بیت اللہ کو سجدہ کرتے ہیں حالانکہ وہ پھرول سے بنائے ہے لیکن چونکہ اس کا (یعنی خدا کا) مظہر تھا پس مسجدوالیہ ہوا (شامم امدادیہ ص ۶۶).

اللہ کی زیارت کرنی ہے تو عشاء کی نماز نہ پڑھ

ایک مرید نے اپنے مرشد سے اللہ تعالیٰ کی زیارت نہ ہونے کی شکایت کی مرشد نے جواب دیا اس وقت نماز عشاء نہیں پڑھو مقصد حاصل ہو جائے گا۔ اس کو تعجب ہوا اور فرض نماز ترک کرنا گوارانہ ہوا صرف سنت نہیں پڑھی رات کو حضرت رسالت پناہ ﷺ کو خوب میں دیکھا کہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے کیا کیا کہ تو نے میری سنت ترک کر دی صحیح کو اس نے مرشد سے کیفیت بیان کی انہوں نے فرمایا اگر فرض نماز ترک کرتا تو خدا کا دیدار ہوتا۔ انھی فرمایا گناہ کرنے سے بعد اور اعراض ہوتا ہے نہ قرب وصل لیکن چونکہ اس کو خدا کی طرف کشش تھی اور مرتبہ محبوبیت میں تھا نماز ترک کرنے سے اس کا مرتبہ گھٹ جاتا اور یہ اللہ تعالیٰ کو گوارانہ تھا پس واسطہ تنبیہ کے لامحالہ ٹھیک ہوتی اور مقصد حاصل ہوتا (شامم امدادیہ ص ۶۵-۶۶ امداد المنشاق ص ۸۲ مؤلف اشرف علی تھانوی)۔

یہ ہے صوفیت کا حقیقی واصلی چہرہ عبادت الہیہ ان کے ہاں مرتبہ حق الیقین والوں سے ساقط ہو جاتی ہے اس لئے بہت پیرو مرشد اپنے آپ کو مرتبہ حق الیقین پر

مرتبہ حق الیقین پر پہنچنے سے تکالیف شرعیہ ساقط ہو جاتی ہیں فرمایا آیت (واعبدربک حتی یا تیک الیقین) میں علمائے ظاہرنے یقین سے مراد موت لی ہے لیکن نزد صوفیاء یقین کے تین مراتب ہیں (۱) علم الیقین (۲) عین الیقین (۳) حق الیقین۔ سب سے بڑھ کر حق الیقین ہے یہ ایسا مرتبہ ہے جب آدمی (موتو اقبال ان تمومتو) پر پہنچتا ہے تب حاصل ہوتا ہے اور اس مرتبہ پر پہنچ کر تکالیف شرعیہ ساقط ہو جاتی ہیں (شامم امدادیہ ص ۳۶ امداد المنشاق ص ۳۸)۔

فرمایا مراتب یقین تین ہیں علم الیقین مرتبہ ادنی عین الیقین مرتبہ وسطی حق الیقین مرتبہ اعلیٰ ہے حق الیقین مرتبہ فانی الفنا ہے مثال یوں ہے علم حرارت آتش علم الیقین ہے جب اس پر انگلی رکھی جائے تو عین الیقین ہے اور جب لوہ ہے کو خوب گرم کیا جائے اور اس وقت لوہا کہے (انا النار) یہ مرتبہ حق الیقین ہے اس مرتبہ میں عبادت ساقط ہو جاتی ہے (شامم امدادیہ ص ۳۸)۔

بعض کتابوں میں ابلیس کی مدح پائی جاتی ہے

مولاوی اشرف علی صاحب نے اپنے پیر حاجی امداد اللہ سے استفسار کیا کہ بعض کتب میں مدح ابلیس کی مدح پائی جاتی ہے چونکہ تو حید و عشق اس کا اعلیٰ درجہ کا تھا اس لئے آدم کو سجدہ گوارانہ ہوا فرمایا ابلیس ناکار نے ظاہر پر نظر کی اور

خداوند کے سامنے اس کی یہ تاویل پیش کی کہ میں رب تعالیٰ کی ذات میں مشغول ہوں یہ لوگ مجھے اس کی ذات گرامی سے ہٹا کر اس کے نام کے کلمہ کے پڑھنے کی تلقین کر رہے ہیں کہاں اس کی حقیقی ذات اور کہاں اس کا خالی نام۔ یہ ہے صوفیاء کا دین واسلام مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی، حکیم الامت ان صوفیاء کے واقعات اس طرح بیان فرماتے ہیں گویا اللہ کے مُقرّب ترین بندے ہیں۔

عورت مظہر مرد کی ہے اور مرد مظہر حق کا ہے

اہل توحید ہونے کی دعویدار دیوبندی جماعت کے بڑے عالم حکیم الامت جس کی تعلیم کو عام کرنے کے لئے مولوی الیاس صاحب نے تبلیغی جماعت بنائی ہے (شامم امامیہ ص ۷۰) میں لکھا ہے عورت مظہر مرد کی ہے اور مرد مظہر حق کا ہے پس عورت مظہر و آئینہ حق تعالیٰ ہے اور اس میں جمال ایزدی نمایاں ہے ملاحظہ کرنا چاہیے (تعالیٰ اللہ عما یقولون علوا کبیرا) پہلے زمانے کے مشرک انبیاء و اولیاء کو اللہ کے بیٹے کہا کرتے تھے اس امت کا صوفی ان کو مظہر کہتا ہے معنی دونوں باتوں کا ایک ہے۔

جو کچھ اللہ کے سوا ہے وہ اس کے اسماء و صفات ہیں
فرمایا آیت ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْإِسْمَاءُ الْحَسَنَى﴾ (طہ : ۸) سے

سمجھنے کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتے اور رب تعالیٰ کی جن صوفیاء کو زیارت نہ ہو رہی ہے ہو وہ نماز پڑھنا چھوڑ دیں زیارت ہو جائے گی یعنی نماز پڑھنے سے نہیں نماز ترک کرنے سے رب ملتا ہے نعمود باللہ۔

وقت نزع کلمہ پڑھنے سے انکار

صوفیاء میں سے ایک صاحب جب قریب المرگ ہوئے وقت نزع لوگوں نے تلقین کلمہ شروع کیا وہ منہ پھیر لیتے تھے سب کو تعجب تھا کہ ایسے بزرگ کی یہ حالت ہے جب مرشد تشریف لائے اور پوچھا کیا حال ہے فرمایا الحمد للہ یہ مجھ کو پریشان کرتے ہیں اور مسمی سے اسم کی طرف لاتے ہیں پس مراتب لوگوں کے مختلف ہیں ان کے اعراض کلمہ سے سوئے خاتمه پر استدلال نہ کرنا چاہیے ممکن ہے کہ اس میں کوئی خاص وجہ ہو (شامم امامیہ ص ۶۹)۔

میں کہتا ہوں نبی کریم ﷺ سے ابوسعید خدریؓ نے یہ حدیث روایت کی ہے (لَقَنُوا مُوتَّاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ حَدِيثٌ ۖ ۹۱۶) اپنے قریب المرگ لوگوں کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کی تلقین کرو۔

اور امام ابو داؤد نے سنن میں معاذ بن جبل سے روایت کیا ہے (قال رسول اللہ ﷺ مَنْ كَانَ أَخْرَى كَلَامَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ . كتاب الجنائز . باب فی التلقين) رسول ﷺ نے فرمایا جس نے آخری کلمہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كہا ہو گا وہ جنت میں جائے گا لیکن یہ صوفی اس حکم توحید سے گھبرا رہا

صاحب نے فرمایا حضرت حق شکل و صورت سے پاک ہے اسکی صورت اگر ہے تو یہی انسان کامل ہے پس انسان کامل حق نہیں صورت حق ہے اگر حق کی مجالست و مکالمت منظور ہو تو اولیاءِ کرام و عرفاءِ عظام کی صحبت اختیار کرو۔ (شامم امدادیص ۹۵)

بعض لوگوں نے حضرت حق کو ابو بکر صدیق کی شکل و ہیئت میں دیکھا

فرمایا حضرت ابو بکر صدیقؓ کی یہ صفت ہے کہ بعض لوگوں نے حضرت حق کو آپ کی شکل و ہیئت میں دیکھا ہے شامم امدادیص ۱۰۳ (حقیقت یہ ہے کہ اس صوفی نے اللہ تعالیٰ کو نہیں بلکہ کسی شیطان کو دیکھا)

تمام مخلوق میں اللہ کی ایک ایک صفت کا ظہور ہے اور انسان تمام صفات کا جامع ہے امداد المنشاق ص ۱۲۲ از اشرف علی صاحب تھانوی حکیم الامت۔

اس سے معلوم ہوا اس دیوبندی و صوفی کے نزدیک ہر مخلوق اپنی کسی نہ کسی صفت کے اعتبار سے رب ہے یعنی اس صفت کے اعتبار سے جو اللہ تعالیٰ کی صفت اسیں موجود ہے اور چونکہ انسان رب تعالیٰ کی تمام صفات کا حامل و جامع ہے اسلئے وہ اس اعتبار سے کامل و مکمل رب ہوا (نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْحَاوِ الْصَّوْفِيَاءِ) اس معنی کی مزید وضاحت اس عبارت میں ملاحظہ فرمائیں چنانچہ فرمایا حضرت رسالت

ایک راز مکنون (ثابت ہوا) پہلے نفی غیر کی فرما کر اثبات وحدت الوجود کا فرمایا ہے کہ سوائے میرے جو کچھ ہے وہ اسماء و صفات ہیں یعنی جو کچھ غیر ذات اس کو معلوم ہو وہ سب مظہر ہیں صفات کے (شامم امدادیص ۵۷) از اشرف علی صاحب تھانوی۔

میں کہتا ہوں اسی لئے بعض صوفیاء نے کھل کر کہا ہے یہ خنزیر یہ کتنے جو دنیا میں پھرتے رہتے ہیں یہ ہمارے معبدوں ہیں نعوذ باللہ من ذالک (الکشف عن حقیقتة الصوفیہ ص ۱۶۲) چونکہ عوام الناس جاہل ہوتے ہیں اسلئے ان ملحدوں بے دین صوفیاء نے اصطلاح میں بنارکی ہیں جن کے ذریعہ انہوں نے اپنے خبیث مذہب کو لوگوں سے چھپایا ہے یہ لفظ مظہر بھی انہیں اصطلاحات میں سے ایک ہے جن کے ذریعے سے ان صوفیاء نے اپنے وحدت الوجود اور حلول کے عقیدے کو لوگوں سے چھپالیا ہے لفظ مظہر کا وزن عربی قاعدے سے مفعل ہے یہ لفظ اسم ظرف کہلاتا ہے اسم ظرف وہ لفظ ہوتا ہے جو کسی فعل کے واقع ہونے کی جگہ ہو مطعم کھانے کی جگہ مضرب مارنے کی جگہ تو مظہر کا معنی ہوا ظاہر ہونے کی جگہ صوفیاء یہ لفظ بول کر یہ معنی لیتے ہیں کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کے ظاہر ہونے کی جگہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ اس میں ظاہر ہوا۔

مولوی اشرف علی صاحب لکھتے ہیں فرمایا منی میں ایک فقیر جاج کا منہ تکتا پھرتا تھا کسی نے پوچھا شاہ صاحب کیا دیکھتے ہو جواب دیا خدا کو دیکھتا ہوں حضرت

میں کہتا ہوں جب کوئی آدمی انسان کو رب تعالیٰ کا کامل مظہر سمجھے گا تو وہ انسان اور رب تعالیٰ کی ذات کے متحداً ایک ہونے کا کیسے قائل نہیں ہو گا۔ (کیونکہ انسان کے رب تعالیٰ کامل مظہر ہونے کا مطلب اس کے سوانحیں کہ یہی انسان رب تعالیٰ ہے)۔

ذکر نفی و اثبات

وہ ایسے بزرگ تھے کہ ان کا ذکر نفی و اثبات اس درجہ کو پہنچ گیا تھا کہ جب وہ لا الہ کہتے تاریکی ہو جاتی اور چادر وغیرہ کچھ نہ رہتی سب فنا ہو جاتی اور جب الا اللہ کہتے ایک نور ظاہر ہوتا (امداد المنشاق ص ۵۸)۔

یہ ہے وحدت الوجود کی واضح مثال یعنی یہ کہ صوفیاء کے نزدیک کلمہ توحید : لا الہ الا اللہ کا معنی ہے لاموجودالا اللہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی شے موجود نہیں ہے اس لئے یہ صوفی جب لا الہ کہتا تو دنیا کی سب چیز ہتی کہ یہ صوفی اور اس کی چادر بھی غائب ہو جاتی تھی اور جب الا اللہ کہتا تو نور ظاہر ہوتا صوفی نے اس مقام پر یہ نہیں کہا کہ الا اللہ کہتے وقت صوفی اور اس کی چادر واپس ظاہر ہو جاتے بلکہ کہا صرف نور ظاہر ہوتا اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ صوفی اور اس کی چادر غیر اللہ نہیں تھے بلکہ وہ وہی نور تھے جو الا اللہ کہتے وقت ظاہر ہوتا تھا۔ اگر یہ صوفی وہ نور نہ ہوتا تو وہ اور ان کی چادر واپس ظاہر ہو جاتے اور گریہ نور وہ صوفی نہ ہوتا تو پھر دوسری بار ذکر کون کرتا تھا۔

ما بِصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ نے فرمایا (من رانی فقدرای الحق رواہ بخاری حدیث ۲۶۹۶ و مسلم حدیث ۲۲۶۵)۔ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حق سچ دیکھا اس کے معنی دو ہیں اول : یہ کہ من رآنی فقدرانی یقیناً دوم : من رآنی فقدرانی یعنی اس کا ایک معنی یہ ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے دیکھا کیونکہ شیطان میری شکل و صورت نہیں بنا سکتا و سرا یہ ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا (امداد المنشاق ص ۵۲)

مطلوب کا تصویر شیخ کی صورت پر کرنا جائز ہے

یجوز تصویر المطلوب علی صورة الشیخ اذا كان الطالب عارفاً اذا كشف رب تعالیٰ کا تصویر شیخ کی صورت پر کرنے پر کوئی حرج نہیں جب طالب معرفت و کشف والا ہو۔ لا يعتقد ذات الصورة بل يعتقد الشیخ مظہر ا کا ملا المطلوب فلا يقع في الاتحاد والحلول (امداد المنشاق ص ۷۵) مولوی اشرف علی صاحب اس جملے کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں رب تعالیٰ کو شیخ کی صورت پر تصویر کرنا اہل معرفت و اہل کشف کے لئے جائز ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ رب تعالیٰ کو کسی صورت والی ذات نہیں سمجھتا بلکہ انسان کو رب تعالیٰ کا کامل مظہر سمجھتا ہے اسلئے وہ رب تعالیٰ اور بندے کی ذات کے ایک ہونے کا قائل نہیں ہو گا اور وہ اس سے حلول کے عقیدے سے نج جائے گا۔

ظاہر کے بندہ ہے اور باعتبار باطن کے رب تعالیٰ ہے۔ العیاذ باللہ تعالیٰ۔ مولوی اشرف علی اور دوسرے علماء دیوبند کا ان حوالہ جات سے مذہب بھی معلوم ہو گیا کہ یہ حضرات صوفی ہیں ابن عربی الصوفی کو اپنا امام مانتے ہیں جو عقیدہ وحدت الوجود کا ناشر وداعی اور مبلغ تھا۔ یہ پہلے گذر چکا ہے کہ نبی کریم ﷺ کے پاس جو جبریل وحی لے کر آتے تھے وہ صوفیاء کے نزدیک خود محمد ﷺ تھے آپ ہی محدث تھے آپ ہی جبریل تھے۔ نعوذ باللہ من ذالک دیکھئے (امداد المنشاق ص ۱۵۹ از اشرف علی صاحب تھانوی)

کلمہ توحید بھی شرک ہے

صوفیاء وحدت الوجود کے قائل ہونے کی وجہ سے کلمہ توحید کو بھی شرک سمجھتے ہیں ان کے مذہب میں (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ) کہنا شرک ہے اس کلمہ سے صوفی کو بیزار اور دور ہو جانا چاہیے۔

شَاهٌ وَلِيُّ اللَّهِ ۝ اَنفَاسُ الْعَارِفِينَ مِنْ زَيْرِ عَنْوَانٍ عَيْنِ الْقَضَاۃِ هُمْ اُنَّىٰ کے قول کی تشریح میں فرماتے ہیں۔ عین القضاۃ ہمدانی کے طاہر غیر شرعی قول۔ (اے پسر لا الہ الا اللہ خود شرک خفی است آئینہ دار : حقیقت شرک جلی رسول اللہ خویشن را ازیں دو شرک برآں) کی تاویل میں فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم یہ ہے کہ خدا کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے اور معبد کے لئے عابد کا ہونا ضروری ہے اس میں دوئی کا تصویر نمایاں ہے جو کہ اصل شرک ہے اور شرک خفی اس میں یہ ہے کہ

انسان کا ظاہر عبد ہے اور باطن حق مولوی اشرف علی تھانوی نے (امداد المنشاق ص ۲۳) پر کھا ہے انسان کا ظاہر عبد ہے اور باطن حق ہے۔

اُخُر یہ صوفیاء کا وحدت الوجود کا نظریہ ہے صوفیاء کے نزدیک یہی انسان بندہ بھی ہے رب بھی ہے اس انسان کے علاوہ اور اس سے باہر رب کی کوئی ذات موجود نہیں ہے یہی انسان صوفیاء کے نزدیک رب تعالیٰ ہے باعتبار باطن کے اسکی تائید اس قول سے بھی ہوتی ہے۔

فرمایا کہ : سورہ طہ کی آیت ﴿إِنَّا لِنَا بَكَ فَاخْلُمْ نَعْلِمْ إِنَّكَ بِالْوَادِي الْمَقْدَسِ طَوْيٌ﴾ اے موی اپنے جوتے اتار دو تم مقدس وادی طوی میں ہو۔ یہ آواز موسیٰ علیہ السلام کو ہیں باہر سے نہیں آئی تھی بلکہ یہ ان کے اپنے اندر کی آواز تھی (امداد المنشاق ص ۲۷) از اشرف علی صاحب تھانوی۔

انہی اشرف علی کا قول ہے کہ حسین بن منصور حلان سے جب پوچھا گیا تم اپنے آپ کو خدا کہتے ہو تو نماز کس کی پڑھتے ہو اس نے جواب دیا میرا ظاہر میرے باطن کو بوجہہ کرتا ہے (الافتضات الیومیہ ج اص ۲۵۱)۔ یہ تمام اقوال اس بات کی کھلی دلیل ہیں کہ رب تعالیٰ کی ذات صوفیاء کے مذہب میں انسان کے اندر ہے اس سے باہر رب کی کوئی ذات موجود نہیں ہے یہی انسان ہے جس کو عبد اور بندہ کہا جاتا ہے۔ اور یہی انسان رب تعالیٰ بھی ہے۔ یہ انسان باعتبار

دیوبندی اکابرین کا عقیدہ ختم نبوت محمد ایک نہیں سات ہیں مولانا حسن نانوتوی نے فتویٰ دیا کہ حضرت محمد ﷺ جیسے اور محمد باقی چھ زمینوں میں موجود ہیں اس پر مولوی نقی علی بریلوی نے جو احمد رضا خان بریلوی کے سورث اعلیٰ تھے مولوی حسن نانوتوی پر کفر کا فتویٰ لگا دیا کہ ختم نبوت کے انکار سے یہ کافر ہو گئے ہیں۔ اس فتویٰ سے بریلویوں میں اشتعال پھیل گیا مولوی محمد احسن نانوتوی جو مدت ہائے دراز سے بریلی میں عید کی نماز پڑھاتے تھے اور مولوی نقی علی ان کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے اس اختلاف کے بعد انہوں نے عید کی نماز علیحدہ پڑھائی اور اس میں مولوی احسن علی نانوتوی پر کفر کا فتویٰ لگایا ان واقعات کی تفصیل محمد احسن نانوتوی ص ۸۶ میں موجود ہے دیکھئے علماء دیوبند کا ماضی ص ۳۲۳ اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس فتویٰ سے پہلے بریلی شہر میں دیوبندی و بریلوی عید کی نماز اکٹھے پڑھتے تھے اور سب بریلوی دیوبندی عالم محمد احسن صاحب نانوتوی کے پیچھے نماز پڑھتے تھے جب نانوتوی صاحب نے یہ فتویٰ دیا مولوی ﷺ ایک نہیں سات ہیں۔

ایک ہماری زمین کے اوپر والے حصے میں مدینہ منورہ میں آرام فرمائیں باقی چھ زمینوں میں ہیں اس فتویٰ کے بعد بریلوی دیوبندی سے علیحدہ ہو گئے کیونکہ ان کے نزدیک ختم نبوت کے انکار کی وجہ سے کافر ہو چکے تھے اور اس مسئلہ سے دیوبندی علماء کے عقیدہ ختم نبوت کی بھی قلعی کھل گئی اور یہ واضح ہو گیا کہ ایک محمد

عبد عبادت میں مذکور نہیں ہے۔

اور محمد رسول اللہ ﷺ کا معنی یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ نے آنحضرت ﷺ کو لوگوں کی طرف بھیجا ہے یہاں اس میں شک نہیں کہ مضاف جو کہ لفظ رسول ہے وہ مضاف الیہ یعنی اللہ کا غیر ہے اور یہ شرک جلی ہے اور جب توحدت کی حقیقت کو پالے گا اور تعینات کی غیریت انتباری جانتے ہوئے رسول خدا کو صحیحے والے کا مظہر دیکھے گا تو ان تمام اقسام شرک سے نجات پالے گا ص ۱۱۹-۱۲۰۔

اسی کتاب میں دوسری جگہ شاہ صاحب فرماتے ہیں۔ آپ سے کسی نے توحید کی مثال پوچھی کہنے لگے جس طرح ایک ممکنہ کوریت سے بھر کے اس میں پانی ڈال دیا جائے وہ اس ریت کے ہر ذرے میں سراہیت کر جاتا ہے اسی طرح ذات وحدہ لاشریک لہ کائنات میں سراہیت کئے ہوئے ہے ص ۳۷۲۔

الصوفی ہوا اللہ - صوفی ہی اللہ ہے

صوفی اللہ ہے کہ زیر عنوان شاہ صاحب اس کتاب میں فرماتے ہیں فرمایا کہ عالم امکان کے جبابات اور قوت و ہمیہ کی انانیت سے چھٹکارا پانا منزل عرفان کا پہلا قدم ہے اور کہنے والے نے اپنے اس قول میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ الصوفی ہوا اللہ، صوفی اللہ ہے جب ممکن اپنے وجود سے اپنے امکان سے گرد و غبار جھاڑ دے گا تو ذات واجب الوجود کے سوا اس میں باقی کچھ نہیں رہے گا ص ۲۱۲۔

اصلی و حیقی نبوت نہیں تھی بلکہ ان کی نبوت آپ ﷺ کی نبوت ہی کا حصہ تھی اس کی مثال بھی مولانا نے خود ہی دی ہے کہ جیسا کہ چاند اور ستاروں کی اپنی کوئی حیقی و اصلی روشنی نہیں ہے بلکہ ان کا نور اور روشنی سورج سے ماخوذ ہے۔ اس کو یوں سمجھیں جیسا کہ کوئی آدمی آئینہ میں اپنی ہی صورت دیکھتا ہے یا جیسا کہ کسی آئینہ کے سامنے جلتا ہوا دیار کھد دیا جائے تو اس آئینہ میں سے اسی دیکھ کی روشنی دکھائی دے گی اس طرح ان انبیاء کو مثل آئینے کے سمجھ لیجئے ان کی نبوت کی شکل میں محمد ﷺ کی نبوت ظاہر ہوئی یہی مطلب ہے مولوی شبیر احمد عثمانی دیوبندی کے ان الفاظ کا کہ آپ ﷺ ربی لحاظ سے بھی خاتم النبیین ہیں گویا کہ آپ ﷺ اول ہی سے خاتم النبیین تھے آپ ﷺ سے پہلے ظاہر اجو نبی آیا وہ آپ ہی کی نبوت لیکر آیا جیسا کہ مولوی صاحب نے فرمایا انبیاء سابقین اپنے اپنے زمانے میں بھی خاتم الانبیاء ﷺ کی روحانیت عظمی سے مستفید ہوئے۔

اس عبارت میں پہلے انبیاء کی نبوت کا انکار صاف ظاہر ہے اور ایمان کی صحت کے لئے انبیاء سابقین پر بھی ایمان لانا ضروری ہے اور مولوی قاسم صاحب ناؤتوی نے رسالہ تحدیر الناس ص ۱۸ میں آپ ﷺ کے بعد آنے والے جھوٹے نبیوں کے لئے بھی دروازہ کھول دیا ہے۔

آپ فرماتے ہیں بلکہ اگر بالفرض آپ ﷺ کے زمانے میں بھی کہیں اور نبی ہو جب بھی آپ ﷺ کا خاتم ہونا بدستور رہتا ہے اور ص ۷۴ میں لکھا ہے اور اسی

عویشہؓ کے قال نہیں ہیں بلکہ ان کے ہاں محمد ﷺ سات تھے ایک نہیں۔ یہ صرف مولوی احسن صاحب کا فتوی نہیں بلکہ اس وقت کے بہت سے علماء دیوبند نے اس فتوی کی تائید کی تفصیل کیلئے علماء دیوبند کا ماضی اور محمد احسن ناؤتوی نام کی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس فتوی کی علماء دیوبند کے نزدیک کیا اہمیت ہے اس بات سے ظاہر ہے کہ مدرسہ دیوبند کے بانی مولوی قاسم صاحب ناؤتوی نے اس کی بھرپور تائید کی اور اس کے منکرین کے رد میں رسالہ تحدیر الناس لکھا اور مولوی شبیر احمد صاحب عثمانی دیوبندی نے قرآن مجید کے حاشیہ پر سورہ احزاب کی آیت ۲۰ کی تشریح میں یہ لکھا ہے۔ بلکہ بعض محققین کے نزدیک تو انبیاء سابقین اپنے اپنے عہد میں بھی خاتم النبیین ﷺ کی روحانیت عظمی ہی سے مستفید ہوتے تھے جیسے رات کو چاند اور ستارے سورج کے نور سے مستفید ہوتے ہیں حالانکہ سورج اس وقت دکھائی نہیں دیتا اور جس طرح روشنی کے تمام مراتب عالم اسباب میں آفتاب پر ختم ہو جاتے ہیں اسی طرح نبوت و رسالت کے تمام مراتب و مکالات کا سلسلہ بھی روح محمدی ﷺ پر ختم ہوتا ہے بدیں لحاظ کہہ سکتے ہیں کہ ربی اور زمانی ہر حیثیت سے آپ ﷺ خاتم النبیین ہیں اور جن کو نبوت ملی ہے آپ ہی کی مہر لگ کر ملی ہے اس بیان میں شبیر احمد صاحب نے آپ ﷺ کے خاتم النبیین ہونے کی جو تفسیر کی ہے اس لحاظ سے آپ ﷺ سے پہلے کے تمام انبیاء کی نبوت کا عدم ہو کر رہ گئی ہے یعنی ان کی نبوت کوئی

ص ۸۲) مؤلفہ رشید احمد صاحب گنگوہی دیوبندی اس کتاب کا مقدمہ مولوی محمد ذکر یا صاحب نے لکھا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب جماعت تبلیغ کے نزدیک معتبر اور بڑی اہم ہے اسی توحید مطلب کو مولوی ذکر یا صاحب نے فضائل کے رسالے فضائل تبلیغ کی فصل سالع میں ان الفاظ میں لکھا ہے شیخ اکبر تحریر فرماتے ہیں اگر تیرے کام دوسرے کی مرخصی کے تابع نہیں ہوئے تو تو کبھی بھی اپنے نفس کی خواہشات سے انتقال نہیں کر سکتا گو عمر بھی مجاہدے کرتا رہے لہذا جب بھی تجھے کوئی ایسا شخص ملے جس کا احترام تیرے دل میں ہوا سکی خدمت گزاری کر اور اسکے سامنے مردہ بن کر رہ وہ تجھ میں جس طرح چاہے تصرف کرے اور تیری اپنی کوئی خواہش نہ رہے اسکے حکم کی تعمیل میں جلدی کر اور جس چیز سے روکے اس سے احتراز کر اگر پیشہ کرنے کا حکم کرے پیشہ کر، مگر اس کے حکم سے، نہ کہ اپنی رائے سے، بیٹھ جانے کا حکم کرے تو بیٹھ جا۔ لہذا ضروری ہے کہ شیخ کامل کی تلاش میں سعی کرتا کہ تیری ذات کو اللہ سے ملا دے، حکیم الامت مولوی اشرف علی صاحب تھانوی نے اسی توحید مطلب کو قرآن کریم سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ سورہ بقرہ آیت ۲

﴿وَالَّذِينَ يُوْمَنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقَنُونَ﴾ اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ساتھ اس کے جو آپ کی طرف اتارا گیا اور ساتھ اس کے جو اتارا گیا آپ سے پہلے اور وہ دن قیامت پر یقین

طرح اگر فرض کیجئے آپ ﷺ کے زمانے میں بھی اسی زمین یا کسی اور زمین یا آسمان میں کوئی نبی ہوتا وہ بھی اس وصف نبوت میں آپ ﷺ کا محتاج ہوگا۔ اور ص ۳۲ میں لکھا ہے اگر آپ ﷺ کے بعد بھی بالفرض کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمد میں کچھ فرق نہ آئے گا۔

ان کھلے بیانات کے بعد بھی کوئی دیوبندی اگر یہ دعویٰ کرے کہ وہ نبی کریم ﷺ کو اس معنی میں خاتم النبیین مانتا ہے کہ آپ ﷺ کے بعد کوئی نبی ظلی ہو یا بروزی نہیں آئے گا۔ وہ جھوٹ بولتا ہے یا اپنے اکابرین کے عقائد و اقوال و بیانات کو جھلatta تا ہے۔

سلوک کا ایک اہم رکن توحید مطلب

توحید مطلب یہ ہے کہ اپنے شیخ کے متعلق اس کا یقین رکھے کہ دنیا میں اس کے علاوہ مجھ کو مطلوب تک کوئی نہیں پہنچا سکتا گو اس زمانے میں دوسرے مشائخ بھی ہوں اور انہی اوصاف کاملہ سے متصف بھی ہوں مگر میرا منزل مقصود پر پہنچنا اسی ایک کی بدولت ہوگا سو تو حید مطلب سلوک کا بڑا رکن ہے اور جس کو یہ حاصل نہ ہوگا وہ پر اگنده و پر یشان اور ہرجائی بنا پھرے گا۔ مشائخ زمانہ کے ہر شخص کے متعلق یہ سمجھنا کہ یہ بھی میری پیاس بجھا کر مطلب تک پہنچا سکتا ہے سلوک کے لئے مضر ہے۔ بلکہ جس طرح حق ایک اور قبلہ ایک ہے اسی طرح را ہبھی ایک ہی شیخ کو سمجھے ورنہ بربادی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ (امداد السلوک)

بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں کچھ تفصیل کے بعد مولانا نے دین کا معنی ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے پاس اپنے احکام نہیں بھیجتا ہے اس لئے جو شخص اللہ کو حاکم مانتا ہو وہ اس کی فرمانبرداری اس طرح کر سکتا ہے کہ اس کے رسولوں کی فرمانبرداری کرے اور رسولوں کے ذریعہ سے جو احکام آئیں ان کی اطاعت کرے اسی کا نام دین ہے اس کے بعد مولانا فرماتے ہیں اب بتاؤ نگاہ کہ شریعت کا معنی طریقہ اور راستے کے ہیں۔ کچھ سطروں کے بعد مولانا اصل مقصد کی طرف آتے ہوئے فرمایا : لیکن فرق یہ ہے کہ دین ہمیشہ سے ایک تھا ایک ہی رہا اور اب بھی ایک ہی ہے مگر شریعتیں بہت سی آئیں بہت سی منسوخ ہوئیں بہت سی بدلتی گئیں اور کبھی ان کے بدلتے سے دین نہیں بدلا حضرت نوح کا دین بھی وہی تھا جو حضرت ابراہیم کا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا۔

اور حضرت محمد ﷺ کا ہے مگر شریعتیں ان سب کی کچھ نہ کچھ مختلف رہی ہیں اس کے بعد مولانا زیر عنوان فقہی مسلکوں کے فرق کی نوعیت میں فرماتے ہیں یہ تو پچھلے انبیاء کے ماننے والوں کے لئے رہے۔ بنی ﷺ کے پیروتوان پر اس مثال کا دوسرا حصہ صادق آتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو شریعت بنی ﷺ کے ذریعے ہم کو بھیجی ہے اس کو خدا کی شریعت ماننے والے سب کے سب مسلمان ہیں اب اگر اس شریعت کے احکام کو ایک شخص کسی طرح سمجھتا ہے اور دوسرا کسی اور طرح

رکھتے ہیں کی تفسیر میں زیر عنوان مسائل السلوك فرماتے ہیں۔ ﴿والذین یومنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك﴾۔ اس پر قیاس کیا جائے گا کہ اعتقاد تو تمام مشائخ اہل حق کے ساتھ ایسا ہی رکھنا چاہیے جیسے اپنے شیخ کے ساتھ البتہ اتباع صرف اپنے شیخ کا ہوتا ہے جیسا بعینہ یہی حکم ہے انبیاء علیہم السلام میں۔

حکیم الامت صاحب نے اپنے اس بیان میں ان مشائخ و علماء فقهاء کو جن کے ہاتھ پر ایک شخص نے بیعت نہیں کی اس کے لئے بخوبی اہل کتاب کے قرار دیا ہے جیسا کہ اہل کتاب کے انبیاء اور رسولوں و کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے مگر ان کی اتباع جائز نہیں ہے۔ اس تو حید مطلب کو مولانا مودودی صاحب نے اپنے خطبات میں دوسرے انداز میں ذکر فرمایا ہے۔

مولانا صاحب زیر عنوان دین اور شریعت فرماتے ہیں برادران اسلام مذہب کی باتوں میں آپ اکثر دولفاظ سنائرتے ہیں اور بولتے بھی ہیں۔ ایک دین دوسری شریعت لیکن آپ میں بہت کم آدمی ہیں جن کو یہ معلوم ہوگا کہ دین کے کیا معنی ہیں اور شریعت کا کیا مطلب ہے بے پڑھے لکھے لوگ تو خیر مجبور ہیں اچھے خاصے تعلیم یافتہ آدمی بلکہ بہت سے مولوی بھی یہ نہیں جانتے کہ ان دونوں کا ٹھیک ٹھیک مطلب کیا ہے اور ان دونوں میں فرق کیا ہے ناواقفیت کی وجہ سے اکثر دین کو شریعت سے اور شریعت کو دین سے گلڈ مکر دیا جاتا ہے اور اس سے

ہے کہ کسی ایک فقہی مذہب والے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی دوسری فقہی مذہب والے کو ناقص کہے بلکہ بقول مولانا صاحب یہ تمام مذاہب قرآن و سنت ہی کے پیروکار ہیں کسی مذہب والے کا قول قرآن سنت سے باہر نہیں ہے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہ تمام مذاہب اپنے اپنے فقہی مسلک و مذہب پر ڈھنڈ کر عمل کریں کیونکہ وہ بھی حق پر ہیں اگر قرآن و سنت کی کوئی دلیل ان کے قول کے مخالف پڑتی ہے تو کوئی نہ کوئی دوسری دلیل ان کے قول کے موافق ضرور ہوگی۔ اسی نظریے کی بنیاد پر فقہی مسلک و مذہب کے ماننے والے اپنے کسی قول سے ہٹنے کا نام نہیں لیتے۔ اس قول کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ تمام مذاہب فقہی الگ الگ شریعتیں ہیں خنفی مذہب ایک شریعت ہے شافعی مذہب ایک شریعت ہے حنبلی مذہب ایک شریعت ہے مالکی مذہب ایک شریعت ہے شیعہ مذہب ایک شریعت ہے۔ ان تمام مذاہب و شریعتوں کا دین ایک ہے وہ ہے دین اسلام اس قول کی دلیل میں قرآن کریم کی ایک آیت پیش کی جاتی ہے وہ آیت یہ ہے۔ ﴿لکل جعلنا منکم شرعاً و منها جا.....﴾ (المائدہ : ۲۸) تم میں سے ہر ایک امت کے لئے ہم نے طریقہ اور راستہ جدا جدابنایا ہے اگر اللہ چاہتا تو تم کو ایک امت بناسکتا تھا مگر اس نے نہیں بنایا تاکہ تمہاری ان چیزوں میں آزمائش ہو جو اس نے تم کو عطا کی ہیں۔ پس بھلائیوں کے حصول کے لئے ایک دوسرے سے آگے نکل جاؤ تمہارے رب کی طرف تم سب کو لوٹ جانا ہے وہ تم کو تمہارے

دونوں اپنی اپنی سمجھ کے مطابق عمل کرتے ہیں تو چاہے ان کے عمل میں کتنا ہی فرق ہو ان میں سے کوئی بھی نوکری سے خارج نہ ہو گا اسلئے کہ ان میں سے ہر ایک جس طریقے پر چل رہا ہے یہی سمجھ کر تو چل رہا کہ یہ آقا کا حکم ہے پھر ایک نوکر کو یہ کہنے کا کیا حق ہے کہ میں تو نوکر ہوں اور فلاں شخص نوکر نہیں ہے زیادہ سے زیادہ بس وہ یہی کہہ سکتا ہے کہ میں نے آقا کے حکم کا صحیح مطلب سمجھا اور اس نے صحیح نہیں سمجھا مگر وہ اس کو نوکری سے خارج کرنے کا مجاز کیسے ہو گیا۔ اس کے ایک صفحہ بعد مولانا فرماتے ہیں آپ مسلمانوں میں حنفی، شافعی، اہل حدیث وغیرہ جو مختلف مذہب دیکھ رہے ہیں یہ سب قرآن حدیث کو آخری سند مانتے ہیں اور اپنی اپنی سمجھ کے مطابق وہیں سے احکام نکالتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ایک کی سمجھ صحیح ہوا اور دوسرے کی غلط ہوا۔ اس کے کچھ سطر بعد مولانا فرماتے ہیں اگر دوں مسلمان دس مختلف طریقوں پر عمل کریں تو جب تک وہ شریعت کو مانتے ہیں وہ سب مسلمان ہی ہیں ایک ہی امت ہیں ان کی جماعت الگ ہونے کی وجہ نہیں ہے۔ ایک صفحہ بعد اور آخر میں مولانا نے فرمایا خدا کی شریعت میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی بناء پر اہل حدیث و حنفی، دیوبندی بریلوی، شیعہ، سنی وغیرہ الگ الگ امتیں بن سکیں یہ امتیں جہالت کی پیدا کی ہوئی ہیں (خطبات مولانا مودودی صاحب ص ۱۱۳/۱۲۳)۔

مولانا نے اپنے اس تفصیلی بیان میں تمام مذاہب کو برابر قرار دیا ہے اور یہ بتایا

محمد بیدہ لفتر قن امتی علی ثلاٹ و سبعین فرقہ فو احدہ فی الجنة واثنان و سبعون فی النار صحیح الجامع الصیغج ۵ حدیث ۱۵۸۲) نبی کریم ﷺ نے فرمایا یہودی (۱۷) فرقوں میں تقسیم ہوئے ان کا ایک فرقہ جنت میں جائے گا باقی ستر جہنم میں جائیں گے اور نصاری (۱۸) فرقوں میں تقسیم ہوئے ان میں سے (۱۷) جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا۔ آپ ﷺ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میرا نفس ہے میری امت (۱۹) فرقوں میں تقسیم ہوگی ان میں سے صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا باقی سب جہنم میں جائیں گے۔

اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے عوف بن مالک سے روایت کیا ہے اس قسم کی حدیث ابو ہریرہ سے بھی مردی ہے اس حدیث سے معلوم ہوا امت محمد ﷺ کے سب گروہ اور جماعتوں حق پر نہیں اسلام کا صرف ایک راستہ ہے ایک سے زیادہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿وَإِن هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ﴾ (الانعام: ۱۵۳) پیشک میرا بھی راستہ ہے جو سیدھا ہے اس پر چلو دوسرا راستوں پر مت چلو یہ راستے تمہیں اصل راستے سے دور لے جائیں گے۔ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿Qَلْ هَذِهِ سَبِيلٌ ادعُوا إِلِيَّ اللَّهِ عَلَى بصِيرَةٍ إِنَّا وَمَنْ أَتَبَعَنِي﴾ (یوسف: ۱۵۸) کہہ دیجئے یہی میرا راستہ ہے اسی راستے پر میں

اختلافات کی پوری پوری خبر دے گا۔ اس آیت کریمہ سے فقہی مذاہب کے علیحدہ علیحدہ شریعتیں ہونے پر استدلال کیا گیا ہے۔ مگر یہ استدلال باطل ہے کیونکہ یہاں انبیاء علیہ السلام کی علیحدہ علیحدہ شریعتوں کا ذکر ہے ایک نبی کی امت کے گروہوں جماعتوں کے اپنے اپنے مذاہب کو علیحدہ علیحدہ شریعت نہیں قرار دیا گیا۔ اس آیت میں کوئی لفظ ایسا نہیں جس کا یہ مطلب ہو کہ ہمارے نبی ﷺ کی امت کے تہترے گروہ و جماعتوں سب کی سب حق پر ہوں اور اس امت کا دین تو ایک ہو مگر اس کی شریعتیں ۳۷ ہوں۔ اس قسم کی بات وہی کہتا ہے جو علم سے کو را ہو اور اپنے اماموں و پیشواؤں کا اندھا مقلد ہو اس کو اپنے بزرگ و شیخ اور امام کا ہر قول منزل من اللہ نظر آتا ہو۔ اس آیت کریمہ میں یہ بھی صاف موجود ہے کہ جن کی شریعتیں جدا جدا ہیں وہ ایک امت نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اگر اللہ چاہتا تم کو ایک امت بنادیتا (تمہاری شریعت بھی) ایک کر دیتا مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ اور اس کے آخر میں ہے اللہ تعالیٰ تمہارے اختلافات کی تم کو بروز قیامت خبر دے گا۔ اس لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اختلاف اس کی طرف سے نہیں ہے اور صحیح حدیث میں ہے۔

(افتراق اليهود على الحدى و سبعين فرقه فو احدہ فی الجنة، سبعون فی النار، وافتراق النصاری علی ثین و سبعین فرقة فاحدى و سبعون فی النار و واحدہ فی الجنة، والذی نفس

الله تعالیٰ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے مگر اس کی کلام قدیم ہے اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے اس سے جدا نہیں ہے اور اس کی کلام کے نہ حروف ہیں نہ آواز ہے۔ اور اس کا کلام نہ عبرانی ہے نہ سوری ہے نہ عربی ہے۔ عربی سوری عبرانی کلام اس کی کلام پر دلالت کرتی ہیں اس کا اصل کلام نہیں۔

اس قاعدے میں عقیدہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کلام کے الفاظ بھی نہیں ہیں اور اس کے کلام کی کوئی آواز نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا کلام بغیر الفاظ و بغیر آواز ہوئی تو یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام نہ ہوا بلکہ اللہ کے کلام کا ترجمہ اور معنی ہوا۔ جب اللہ تعالیٰ کی آواز سنائی نہیں دے سکتی تو پھر جریل نے اللہ تعالیٰ کا کوئی کلام نہ سنا اور ہمارے پاس موجودہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں کسی اور کلام ہوا اور اس قاعدے کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ گونگا ہوا جونہ بولتا ہے نہ اس کی آواز سنائی دیتی ہے۔ بلکہ گونگا بھی بے معنی آواز نکالتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس سے بھی نعوذ باللہ محروم ہوا۔ یہ ہے حفیہ دیوبندیہ کا اللہ تعالیٰ اور قرآن کے بارے میں عقیدہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سامری کے بنائے ہوئے پچھڑے کے بارے میں فرمایا۔ ﴿الْمِيرُوَانَهُ لَا يَكْلِمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا﴾ (الاعراف : ۱۳۸) کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ وہ پچھڑانہ بات کرتا ہے ان سے اور نہ ان کو سیدھی راہ کی راہ نمائی کرتا ہے۔ اس آیت میں اس پچھڑے کے نہ بولنے کو اس کے باطل معبدوں نے پر استدلال کیا گیا جس کا

لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلا تا ہوں میں دیکھے بھائے راستے پر کھڑا ہوں اور میری اتباع کرنے والے بھی میرے ساتھ ہیں۔ ان آیات میں لفظ سبیل مفرد لایا گیا ہے جس کا معنی ہے ایک راستہ۔ اور سورہ فاتحہ میں نماز پڑھنے والا اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے۔ (اہدنا الصراط المستقیم) ہم کو سیدھی راہ دکھا۔ اس آیت میں بھی صراط کا لفظ مفرد ہے اور اس کی صفت مستقیم لائی گئی ہیں۔ یعنی سیدھی راہ اس سے معلوم ہوادنیا میں دین و اسلام کے نام سے ٹیڑھے راستے بھی موجود ہیں جو آدمی کو اس کی منزل مقصود سے دور لے جاتے ہیں۔

حفیہ دیوبندیہ کا قرآن کے بارے میں عقیدہ

دیوبندی مذہب چونکہ حنفی المسلک ہے فقه حنفیان کے مذہب کی کتابیں ہیں۔ اصول اور عقائد میں ان کی کتابیں مشہور و معروف ہیں۔ علامہ ابن الہمام حنفی مسلک کے بڑے علماء میں سے ایک ہیں انہوں نے نوجلدوں میں ہدایہ کی شرح فتح القدير کے نام سے لکھی ہے عقائد میں انکی کتاب ہے المسایرة اس کی دو شرحیں اس کے ساتھ چھپی ہوئی ہیں۔ ایک کمال بن ابی شریف کی ہے دوسری قاسم بن قسطلوبغا کی ہے اس کتاب کے صفحہ ۲۶۰/۷ میں ہے۔

الاصل السادس والسابع انه تعالیٰ متکلم بكلام قدیم قائماً بذاته ليس بحرف ولا صوت زاد غيره ليس بعيري ولا سورى ولا عربي وإنما العربي والسورى والعربى ممافیه دلالات على کلام

جنس الحروف والاصوات)یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام حروف اور آواز کی قسم نہیں ہے اور حنبلیوں کو ان الفاظ سے بعثت کہا ہے۔ (ومبتدعة الحنابلة قالوا كلامه حروف واصوات تقوم بذاته وهو قدیم) یعنی اللہ تعالیٰ کے کلام کے بارے میں بعثت حنبلیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ حروف والفاظ اور آواز کے ساتھ ہے جنفیہ کے نزدیک چونکہ قرآن کریم کے حروف اور الفاظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے اس لئے حنفی مذهب کے مشہور کتاب تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق ج اص ۱۱۱ میں ہے۔ ویجوز بائی لسان کان سوی الفارسیہ هو الصحيح لان المنزل هو المعنی عنده وهو لا يختلف باختلاف اللغات۔ صحیح یہ ہے کہ نماز میں قرآن کا ترجمہ پڑھنا جائز ہے یہ ترجمہ خواہ کسی زبان میں ہو کیونکہ امام ابوحنیفہ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کریم کے حروف والفاظ نہیں صرف معنی و مفہوم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور فقه حنفی کی مشہور کتاب بدائع الصنائع ص ۱۱۱ میں ہے۔ لو قرأ شيئاً من التوراة والإنجيل والزبور في الصلاة ان تيقن انه غير محرف یجوز عند ابی حنیفة۔ یعنی اگر نماز پڑھنے والا مسلمان کسی نماز میں قرآن کریم کی آیات کے بجائے تورات و انجیل و زبور سے کچھ پڑھ لے تو جائز ہے اس سے اس کی نماز ہو جائے گی بشرطیکہ اس کو اس بات کا یقین ہو کہ توراة وغیرہ کی یہ آیات تحریف شدہ نہیں

ظاہر مطلب یہ ہے کہ جو نہ بول سکتا ہو معبود نہیں ہو سکتا اور اس قاعدے سے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے الفاظ ہیں نہ آواز ہے ان لوگوں کا نہ ہب قوی تر ہو جاتا ہے جو قرآن کریم کے مخلوق ہونے کے قائل ہیں یہ قول بدعت فی الاسلام ہے اس قول کی تشبیہ مشہور خلیفہ مامون الرشید کے زمانے میں ہوئی اس نے اپنی پوری حکومتی قوت سے اس عقیدے کو مسلمانوں پر مسلط کرنے کی کوشش کی لیکن امام احمد رحمۃ اللہ علی ذالک چاروں فقہی مذاہب میں سے امام احمد کے پیروکار قرآن کے الفاظ حروف کو ان کے معنی سمیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھتے ہیں اس لئے المسایرہ ص ۳۷ میں اس قول کو بدعت اور حنبلیوں کو مبتدعین کہا ہے۔ اس کے الفاظ ہیں。 ثم المخالف في صفة الكلام فرق منهم بدعة الحنابلة قالوا كلامه تعالى حروف واصوات یعنی ہمارے قول کے مخالف قرآن کریم کے بارے میں دوسرے فرقوں میں سے بعثت حنبلی ہیں وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کلام کے حروف بھی ہیں اور آواز بھی ہے گویا کہ مسلمان میں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ قرآن کریم کے حروف والفاظ معنی سمیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں وہ بعثت ہیں。 نعوذ بالله من ذالک اور یہی چیز ملا علی القاری نے شرح فقہ اکبر ص ۲۸ میں لکھی ہے ان کے الفاظ یہ ہیں۔ (الا ان كلامه ليس من

﴿قُرآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عَوْجٍ لِعَلَمِهِ يَتَقَوَّنُ﴾ (الزمر : ۲۸)
 ﴿كُلُّ تَابِ فَصْلَتِ آيَتِهِ قُرآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ (فصلت : ۳)
 ﴿وَكَذَلِكَ اوحِينَا إِلَيْكَ قُرآنًا عَرَبِيًّا﴾ (الشورى : ۷)
 ﴿أَنَا جَعَلْنِهِ قُرآنًا عَرَبِيًّا لِعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ (الزخرف : ۳)
 ﴿وَهَذَا كَتَبٌ مَصْدَقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيَنْذِرَ الظَّالِمِينَ﴾ (الاحقاف : ۱۲)

ان تمام آیات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن عربی زبان میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اس کا ترجمہ عربی زبان میں ہے یعنی اس کے معنی و مفہوم کو عربی نہیں کہا اس لئے علماء سلف نے کہا ہے کہ قرآن وہ ہے جو عربی زبان میں ہے اس کا ترجمہ خواہ وہ کسی زبان میں ہوتا وہ قرآن نہیں ہو سکتا۔

قرآن کریم کو بوسہ دینا اور چومنا اس لیے کہ وہ اللہ کا کلام
ہے

بعض صحابہ کے عمل سے ثابت ہے کہ وہ قرآن کریم کو لیکر چوتھے اور فرماتے تھے یہ مرے رب کا کلام ہے (عن ابن ابی مليکة قال كان عكرمة بن ابی جهل يا خذا المصحف فيضعه على وجهه ويقول كلام ربی کلام ربی اس حدیث کے بعض الفاظ یہ ہیں۔ کتاب الله۔ یہ اللہ کی کتاب

ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ سب کچھ اس عقیدے کی بنیاد پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کلام بغیر حرف و بغیر آواز کے ہے اور قرآن کریم کے حروف و الفاظ قرآن نہیں بلکہ ان حروف الفاظ کا معنی و مفہوم قرآن ہے اور یہ عقیدہ بدعت فی الاسلام ہے اور قرآن کریم کو مخلوق کہنے کے مترادف ہے اور اس عقیدے کو بعض سلف نے کفر بھی کہا ہے۔ اس بارے میں امام عبد اللہ بن امام احمدؓ نے کتاب السنہ ص ۱۸ و مابعدہ میں علماء سلف کے اقوال نقل کئے ہیں۔ اور قرآن کریم کے حروف و الفاظ کے قرآن ہونے کا ثبوت خود قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ﴿وَهَذَا السَّانُ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ﴾ (النحل: ۱۰۳) یہ قرآن کریم عربی ہے ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذَرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ﴾ (الشعراء: ۱۹۵) اس قرآن کو روح امین جبریل لے کر آئے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو دُرائیں آپ کے دل پر اس کو جبریل نے عربی زبان میں نازل کیا ہے۔ ﴿أَنَا أَنْزَلْنَاهُ قُرآنًا عَرَبِيًّا لِعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ (یوسف: ۲) ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگ اس کو سمجھ سکیں ﴿وَكَذَالِكَ اَنْزَلْنَا حِكْمَةً عَرَبِيًّا﴾ (الرعد: ۳۷) اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی میں حکم و قانون بنایا کہ بھیجا ہے۔ ﴿وَكَذَالِكَ اَنْزَلْنَا قُرآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ﴾ (طہ: ۱۱۳)

ہیں ایک صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے حضور کو خواب میں اس شکل میں دیکھا کہ حضور روضہ مبارک میں بیٹھے ہوئے حقہ پی رہے ہیں۔ مولوی اشرف علی صاحب نے اس کی یہ توجیہ کی ہے کہ اس آدمی نے جب خواب دیکھا اس وقت نبی اکرم ﷺ اس کے لئے آئینہ تھے اس نے نبی کریم کی شکل میں اپنے آپ کو حقہ پیتے ہوئے دیکھا اور وہ آدمی حقہ پیتا تھا۔ میں کہتا ہوں اس تفسیر کے بجائے اگر مولانا یہ تفسیر کرتے کہ اس شخص نے شیطان کو حقہ پیتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ شیطان نے اس خواب سے اس کو گمراہ کیا کہ حقہ پینا کوئی جرم نہیں ہے کیونکہ یہ رسول اللہ ﷺ بھی پیتے تھے۔ مولوی صاحب اگر اس خواب کی تعبیر شیطانی خواب سے کرتے تو ممکن تھا کہ وہ حقہ پینے کی شیطانی عادت کو ترک کر دیتا۔ مگر مولوی صاحب نے اپنی منطقی فلسفی بحث سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اس شخص نے واقعی رسول ﷺ کو دیکھا۔ اور بعدی صوفیوں نے اس عقیدے سے کہ پیر مرید کا آئینہ ہوتا ہے اور جو کچھ وہ پیر کرتے ہوئے دیکھتا ہے وہ دراصل پیر نہیں کر رہا ہوتا بلکہ مرید کر رہا ہوتا ہے۔ اس سے بعدی صوفیوں اور حرام کرنے والے درویشوں نے اپنے جرم کو یہ کہ کر چھپا دیا کہ میاں ہم براعمل کہاں کرتے ہیں جس نے ہم کو کرتے دیکھا وہ خود اس کا کرنے والا ہوتا ہے ہم تو آئینہ ہیں۔

ہے اور بعض الفاظ یہ ہیں کتاب ربی کتاب ربی۔ یہ میرے رب کی کتاب ہے یا اثر امام عبد اللہ بن امام احمد بن حنبل کی کتاب السنہ ص ۲۶ میں ہے امام ابن الجوزی نے بھی اس اثر کو *المنتظم* ج ۲ ص ۱۵ میں طبقات ابن سعد کی سند سے روایت کیا ہے۔ عکرمة ٹھہریہ اثر اس بات کی دلیل ہے کہ وہ قرآن کریم کے حروف والفاظ کو اللہ تعالیٰ کا کلام صحیح تھے اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ قرآن کریم کو منہ سے لگا کر کتاب ربی کتاب ربی نہ کہتے بعض لوگ قرآن کے چونے کو بدعت کہتے ہیں ان کی بات غلط ہے اور اس صحابیؓ کا عمل ان کے قول کے رد کے لیے کافی ہے اور ان کا کہنا کہ صحابیؓ کا عمل جحت نہیں ہے اور اللہ کے نبیؓ سے ثابت نہیں اس کا جواب یہ ہے کہ صحابی رسول بدعت پر عمل نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسولؐ کی سنت کیا ہے اور کیا نہیں اس کو وہ بہتر جانتا ہے اور پھر امام احمد اس کو سنت جان کر کتاب السنہ میں لائے ہیں کیا وہ بھی سنت سے ناواقف اور بدعت پر عمل کرنے والے تھے۔ حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ ص ۳۲ ج ۷ میں لکھا ہے کہ امام احمد نے قرآن کے چونے پر اسی روایت سے استدلال کیا ہے۔

ایک صوفی کا خواب کہ رسول اللہ ﷺ اپنی قبر مبارک میں بیٹھے ہوئے حقہ پی رہے تھے

مولوی اشرف علی صاحب تھانوی الافتضات الیومیہ ج ۵ ص ۲۳ میں فرماتے

ہوتی ہے اور اس واقعہ سے امام شافعی کے قول کی بھی تائید ہوتی ہے انہوں نے فرمایا۔ التصوف مبني على الكسل ولو تصوف رجل اول النهار لم یات الظهر الا ﴿ و هو احمق حفته الصفوۃ ج ۱ ص ۱۰ . صوفیت کی بنیاد بے کاری اور سستی پر ہے ایک آدمی اگر صحیح کو صوفیت اختیار کر لے تو ظہر کے آنے سے پہلے وہ پاگل اور مجنون ہو جائے گا امام شافعی کی یہ بات گذشتہ واقعہ سے صحیح ثابت ہوئی کہ بقول صوفی مذکور رسول اللہ نے اس کو بدعتنی پیر کہا پھر بھی وہ خوشی کے مارے وجد میں آگیا یہ اس کے حق ہونے کی کمی دلیل ہے۔

وحدة الوجود کی ایک اور مثال

بایزید کا واقعہ مشنوی کے دفتر چہارم کے نصف پر مذکور ہے کہ وہ (سبحانی ما اعظم شانی) کہہ دیتے تھے مریدوں نے ایک روز کہا کہ یہ آپ کیا کہتے ہیں فرمایا اگر اب کی دفعہ کہوں تو مجھ کو چھریوں سے مارنا میرید بھی ایسے نہ تھے جیسے آجکل کے ہیں چھریاں لیکر تیار ہو گئے ان سے غلبہ حال میں پھر وہی کلمہ نکلا کلمہ کا نکنا تھا کہ چہار طرف سے مریدوں نے مارنا شروع کر دیا مگر نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو تو کوئی زخم نہ آیا اور میریدین تمام اپنی ہی چھریوں سے زخمی ہو گئے مولا نا اس کا راز بتاتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نہیں کہتے تھے (الافتضات الیومیہ ج ۳۷ ص ۲۷) مریدوں کا پیر کو مارنا اور اس سے مریدوں کا خود زخمی ہونا وحدت

اپنے بدعتنی پیر سے ہمارا بھی سلام کہنا
 الافتضات الیومیہ ج ۵ ص ۷ امیں اشرف علی صاحب تھانوی نے فرمایا اہل محبت کی توشان جدا ہوتی ہے حضرت شاہ ابوالمعالی رحمہ اللہ کے ایک مرید حج کو گئے شاہ صاحب نے مرید سے کہا کہ جب مدینہ منورہ حاضر ہو تو روضہ اقدس پر میرا بھی سلام کہنا چنانچہ یہ بعد فراغت حج مدینہ منورہ حاضر ہوئے اور پیر کا سلام عرض کیا وہاں سے ارشاد ہوا کہ اپنے بدعتنی پیر سے ہمارا بھی سلام کہہ دینا جس کو اس مرید نے بھی سنا جب واپس ہوئے تو حضرت شاہ ابوالمعالی صاحب نے پوچھا کہ ہمارا بھی سلام عرض کیا تھا انہوں نے کہا میں نے عرض کر دیا تھا حضور ﷺ نے بھی ارشاد فرمایا کہ اپنے پیر سے ہمارا بھی سلام کہہ دینا شاہ صاحب نے فرمایا، ہی الفاظ کہو جو وہاں سے سن کر آئے ہو عرض کیا جب حضور کے الفاظ حضرت کو معلوم ہیں تو پھر میرے کہنے کی کیا ضرورت ہے نیز میری زبان سے وہ الفاظ ادا ہونا سوء ادب ہے شاہ صاحب نے فرمایا معلوم ہیں مگر سننے میں اور ہی مزا ہے اور بھائی تم خود تو نہیں کہتے وہ تو حضور کے ارشاد فرمائے ہوئے ہیں تمہارا ادا کرنا تو حضور ہی کا فرمانا ہے اس میں بے ادبی کیا ہوئی بالآخر مرید نے وہی الفاظ ادا کر دئے سن کر شاہ پر وجود کی حالت طاری ہو گئی۔

اس واقعہ سے بھی ہمارے موقف کی تائید ہوتی ہے کہ صوفیاء کو قبروں اور مزاروں سے جو آواز سنائی دیتی ہے وہ اس قبر والے کی نہیں کسی شیطان اور جن کی آواز

عبداللہ صاحب مغرب کی نماز پڑھتے ہوئے اپنے بیٹے امیر علی کو پکارنے لگے امیر علی امیر علی میرے خاوند نے آج مجھ کو دکھایا ہے حاجی صاحب کو مسجد میں بند کر کے قفل لگا دیا گیا ہے اور مولوی رشید صاحب کو کتاب دے کر درس کے لئے کہہ دیا ہے (امداد المنشاق ص ۱۲۸)۔

جناب الیاس علیہ السلام کی قوم ایک بت کی عبادت کرتی تھی جس کا نام انہوں نے بعل رکھا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر سورہ صافات آیت ۱۲۵ میں کیا ہے۔ ﴿اَتَدْعُونَ بِعْلًا وَ تَذَرُّونَ اَحْسَنَ النَّالِقِينَ﴾ کیا تم بعل کو پکارتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو بھول جاتے ہو جو اللہ ہے اور عربی زبان میں بعل خاوند کو کہتے ہیں سورہ ہود آیت ۲۷ میں ہے ﴿يَا وَيْلَتِي أَللَّهُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِيٌ شِيخَاٰ إِنْ هَذَا لَشَئِيْعَجِيبٌ﴾ ہے افسوس کیا میں پچھے جنوں گی حالانکہ میں بوڑھی ہوں اور میرا خاوند بڑی عمر کا ہے یہ ابراہیم علیہ اسلام کی بیوی سارہ بی بی کے الفاظ ہیں یہاں بعل خاوند کے معنی میں ہے اور سورہ بقرہ آیت ۲۲۸ میں ہے ﴿وَبَعْلَتُهُنَّ اَحْقَبُ بَرْدَهْنَ﴾ اور ان کے خاوند ان کو واپس یہاں کے لئے زیادہ خفتار ہیں۔

تفسیر فتح البیان میں ہے خاوند کو بعل کہنے کی وجہ یہ ہے کہ خاوند بیوی کے اوپر ہوتا ہے اور اسی معنی کی وجہ سے مشرکین رب تعالیٰ کو بعل کہتے تھے اور اسی مناسبت سے بت کر رب سمجھ کر اس کو بعل کہتے تھے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات

الوجود کی واضح مثال ہے یعنی یہ کہ پیر و مرشد اور اس کے مرید ایک نفس ایک جان تھے اگرچہ ظاہر میں علیحدہ علیحدہ اور مختلف تھے اسی وجہ سے پیر کو مارنے سے خود زخمی ہو گئے اس کا یہ مطلب بھی ہوتا ہے کہ پیر، مرید کے لئے آئینہ ہوتا ہے پیر کے اندر مرید اپنی شکل دیکھتا ہے اسی وجہ سے مرید پیر کو مارنے سے خود زخمی ہو گئے کیونکہ حقیقت میں انہوں نے جس کو پیر سمجھا وہ خود آپ مرید تھے۔ یہی وحدۃ الوجود ہے کہ پیر بھی آپ مرید بھی آپ۔

عارفین کی جنت میں نہ حور ہوگی اور نہ کوئی قصور مگر یہ کلمہ ارنی ارنی مجھے اپنا مکھڑا دکھا دے

یہ بات حکیم الامت اشرف علی اپنی کتاب امداد المنشاق ص ۳۳ پر صوفیاء کے اس قول کی تائید میں اللہ تعالیٰ کی جنت کا صاف انکار کرتے ہیں۔ جب کہ مومنین سے جنت کا وعدہ قرآن کریم میں ہے اس لئے یہ قول قرآن کی ان آیات کا انکار بھی ہے۔ احادیث صحیحہ کے مطابق روز قیامت جنت ہو گی یا جہنم اور مومنین کو جنت میں دیدار الہی ہو گا۔ یہ صوفی اگر جنت نہیں چاہتا تو اللہ کا دیدار کہاں کریگا۔ اس صوفی جیسا احمد بن دنیا میں کوئی نہیں۔

اپنے پیر کو خاوند سے تعبیر کرتے تھے فرمایا راؤ عبد اللہ اپنے پیر حاجی عبدالکریم کو خاوند سے تعبیر کرتے تھے یہ راوی

مست ملاس پر فیل بان پکارتا آتا تھا کہ ہاتھی مست ہے میرے قابو میں نہیں اس چیلے کو لوگوں نے منع کیا مگر وہ نہ مانا اور کہا کرو ہی تو ہے اور میں بھی وہی ہوں خدا کو خدا سے کیا ڈر آخراً ہاتھی نے اسے مار ڈالا جب اس کے گرونے یہ سنا گالی دے کر کہا کہ ہاتھی جو مظہرِ مضل تھا اس کو تو دیکھا اور فیل بان کو کہ مظہر ہادی تھا نہ دیکھا ہادی مضل اوپر نیچے جمع تھے شامم امداد یہ صوفی کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی ایک صفت مضل ہے اور ایک صفت ہادی ہے مضل کا معنی گراہ کرنے والا ہے یہاں صوفی نے اس کا معنی نقصان دینے والا کیا ہے ہادی کا معنی ہے راستہ دکھا نے والا صوفی نے یہاں اس کا معنی نفع دینے والا بچانے والا کیا ہے یہ ہاتھی اور اس کا چلانے والا اللہ تعالیٰ کی دو صفتیں سے متصف تھے اس لئے ان میں خدائی صفات تھیں اس چیلے نے یہ غلطی کی کہ خدا تعالیٰ کی ایک صفت کی طرف توجہ کی دوسری صفت کی طرف اس نے نہیں دیکھا اس لئے خدا تعالیٰ ہی کی ایک صفت سے وہ مارا گیا اگر وہ خدا تعالیٰ کی دوسری صفت کی طرف توجہ کرتا تو پچ جاتا۔ مطلب یہ ہے کہ گرونے یہ نہیں کہا کہ اس چیلے نے ہاتھی اور اس کے چلانے والے کو خدا کہہ کر غلطی کی بلکہ اس کی غلطی یہ بیان کی کہ خدا تعالیٰ کی نقصان دینے والی صفت کے سامنے چلا گیا اور دوسری اس کی صفت کو جو اس کو بچانے کے لئے تھی نظر انداز کر دیا اس لئے ثابت ہوا کہ اس صوفی کے نزدیک ہاتھی اور اس کا چلانے والا دونوں خدا تھے بعوذ باللہ من ذالک۔

میں فرمایا ﴿اتَّدُعُونَ بِعَلٰا وَتَذَرُّونَ أَحْسَنَ الْخَالقِينَ. اللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ﴾ اور فیروز اللغات ص ۵۸۷ میں ہے خاوند کا معنی آقا مالک بھی ہوتا ہے اور یہ لفظ خداوند کا مخفف بھی استعمال ہوتا ہے یعنی خاوند کا لفظ بول کر خداوند تعالیٰ بھی مراد لیا جاتا ہے اس سے معلوم ہوا اس صوفی نے اپنے پیر کو اس لئے خاوند کہا کیونکہ وہ اس کے ہاں اللہ تعالیٰ کا مظہر تھا اور شاید اس لئے قوم الیاس اپنے بت بعل کو رب تعالیٰ سمجھ کر اس کی عبادت کیا کرتی تھی۔ اس صوفی کو اپنے پیر کو خاوند کہنے پر شرم نہیں آئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ احمدقوں کی جنت میں رہنے والا صوفی عقل سے عاری ہوتا ہے۔

اشرف علی صاحب کے خاص مرید نے ایک باران سے کہا 'حضرت بار بار میرے دل میں خیال آتا ہے کہ کاش میں عورت ہوتا حضور کے نکاح میں ، اس اظہارِ محبت پر حضرت والا غایت درجہ مسروہ کر بے اختیار ہنسنے لگے اور یہ فرماتے ہوئے مسجد میں تشریف لے گئے کہ یہ آپ کی محبت ہے تو ثواب ملے گا ثواب ملے گا انشاء اللہ تعالیٰ۔ (اشرف السوانح ص ۲۸ ج ۲)۔ مرید کی پست سوچ آپ نے ملاحظہ کی اور پیر کی ترغیب بھی پچ ہے جیسی روح ویسے فرشتے۔

خدا کو خدا سے کیا ڈر

فرمایا کہ اکثر لوگ توحید وجودی میں غلطی کر کے گراہ ہو جاتے ہیں تمثیل بیان فرمائی کہ کسی گرو کا چیلہ توحید وجودی میں مستغرق تھا راستے میں ایک فیل (ہاتھی)

وحكى عن القاضى الإمام عما دال الدين رحمة الله عليه ان مشائخ بخارى جعلوا القرآن خمس مائة واربعين ركوعاً وعلموا الختم بها ليقع الختم فى الليلة السابعة والعشرين رجاءً أن ينالوا فضيلة ليلة القدر، أنتهى. ان رکوعوں کا نام رکوع اس لئے رکھاتا کہ ہر پڑھنے والا قرآن کریم کا یہ حصہ پڑھ کر رکوع کر لے معلوم ہوا قرآن کریم کی آیات کی رکوعوں میں تقسیم بیس تراویح پر عمل کے لئے کی گئی ہے بیس تراویح کو سفت کہنا بلا دلیل ہے اور اس تعداد کے لئے قرآن کو رکوعوں میں تقسیم کرنا قرآن پر علم عظیم ہے۔ سچ ہے خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔

عقائد علماء بند ما خواز مهند علی المفند

عقیدہ : (۱) ہمارے نزدیک اور ہمارے مشائخ کے نزدیک قبر سید المرسلین ﷺ اعلیٰ درجہ کی قربت اور نہایت ثواب اور سبب حصول درجات ہے بلکہ واجب کے قریب ہے گو شدر حال اور بذل جان و مال یعنی کجاوے کسنے اور جان و مال کے خرچ کرنے سے نصیب ہوا المہند ۱۵۵۔ یہ عقیدہ صحیح احادیث کے مطابق بدعت ہے۔ حدیث میں ہے کہ تین مسجدوں کے علاوہ کسی مقام کے لئے سفر کرنا جائز نہیں۔ مسجد الحرام، مسجد النبوی اور مسجد الاقصیٰ (بخاری حدیث ۱۱۹۷)۔

عقیدہ (۲) اور سفر مدینہ منورہ کے وقت آنحضرت ﷺ کی زیارت کی نیت

رمضان میں بیس تراویح کے حساب سے قرآن ختم کرنے کے لئے قرآن کی پانچ سو چالیس رکوع میں تقسیم س : ہندوستان و پاکستان میں مطبوع قرآن کریم میں رکوع لکھے ہوئے ملتے ہیں ان کی کل تعداد ۴۵۵ پانچ سو چالیس ہے یہ رکوع عرب کے ملکوں کے مطبوع قرآن کریم کے نسخوں میں نہیں ہیں۔ یہ رکوع کس کی ایجاد ہیں اور ان کا مطلب کیا ہے؟

ج : یہ رکوع حنفیہ ماتریدیہ کی ایجاد ہیں انہوں نے قرآن کریم کی سورتوں اور آیات کو ۵۲۰ پانچ سو چالیس رکوعوں میں اس لئے تقسیم کیا ہے تاکہ بیس رکعت تراویح کی ہر رکعت میں ایک رکوع پڑھا جائے اور رمضان کی ۲۷ تاریخ کو قرآن کریم کا ختم ہو۔ اور رمضان میں اگر ہر رات ۲۰ بیس تراویح پڑھی جائے تو ۲۷ تاریخ تک پانچ سو چالیس ۵۲۰ رکعتیں بنتی ہے اس لئے بخارا کے علماء حنفیہ ماتریدیہ نے قرآن کریم کی آیات کو پانچ سو چالیس (۵۲۰) رکوع میں تقسیم کیا تا کہ ہر رات ایک رکعت میں ایک رکوع پڑھا جائے اور ۲۷ تاریخ کو ختم ہو چونکہ یہ رکوع عجمی حنفیوں کی ایجاد ہیں اس لئے عرب کے قرآن کریم کے نسخے اس سے خالی ہیں علامہ سرحتی حنفی فقہ حنفیہ کی مشہور کتاب المبسوط میں ص ۱۳۶ میں لکھتے ہیں۔

میں بھی اور ان کی وفات کے بعد بھی اس طریقہ پر کہ کہے یا اللہ میں بوسیلہ فلاں بزرگ کے تھوڑے دعاء کی قبولیت اور حاجت براری چاہتا ہوں یا اسی جیسے اور کلمات کہے۔^{۱۵۶}

عقیدہ (۵) آنحضرت ﷺ کی قبر شریف کے پاس حاضر ہو کر شفاعت کی درخواست کرنا اور یہ کہنا بھی جائز ہے کہ حضرت میری مغفرت کی شفاعت فرمائیں پھر حضرت ﷺ کے وسیلہ سے دعا کرے اور شفاعت چاہے اور کہے۔ یا رسول اللہ اسئلک الشفاعة واتوسل بک الی الله فی ان اموات مسلماء علی ملتک و سنتک۔^{۱۵۷} اے اللہ کے رسول میں آپ سے شفاعت کا سوال کرتا ہوں اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے یہاں بطور وسیلہ پیش کرتا ہوں کہ میں بحالت اسلام آپ کی ملت اور سنت پر مروں۔

قرآن کریم میں ہے اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کے لئے سفارش نہیں کریگا (بقرۃ آیت ۲۵۵)۔ اس لئے یہ عقیدہ باطل ہے۔

عقیدہ (۶) اگر کوئی شخص آنحضرت ﷺ کی قبر مبارک کے پاس سے صلاة و سلام پڑھے تو اس کو آپ خود نفس سنتے ہیں اور دور سے پڑھے ہوئے صلاة و سلام کو فرشتے آپ تک پہنچاتے ہیں۔^{۱۵۸}

اس عقیدے کی بنیاد اس بات پر ہے کہ آپ قبر میں نفسہ زندہ ہیں۔ یہ بدعتیوں

کرے اور ساتھ ہی مسجد نبوی و دیگر مقامات و زیارت گاہ ہائے متبرکہ کی بھی نیت کرے بلکہ بہتر یہ ہے کہ جو علامہ ابن علامہ الہمام نے فرمایا ہے کہ خالص قبر شریف کی نیت کرے پھر وہاں حاضر ہو گا تو مسجد نبوی کی بھی زیارت حاصل ہو جائے گی۔ اس صورت میں جناب رسالت مبارک ﷺ کی تعظیم زیادہ ہے اور اس کی موافقت خود حضرت ﷺ کے ارشاد سے ہو رہی ہے۔ جو میری زیارت کو آیا کہ میری زیارت کے سوا کوئی حاجت اس کونہ لائی ہو تو مجھ پر حق ہے کہ قیامت کے دن اس کا شفع بنوں۔^{۱۵۹} حالانکہ اس قسم کی تمام احادیث موضوع اور من گھر ہوت ہیں۔

عقیدہ (۳) وہ حصہ زمین جو جناب رسول اللہ ﷺ کے اعضاء مبارکہ کو مس کئے ہوئے ہے یعنی چھوئے ہوئے ہے علی الاطلاق افضل ہے یہاں تک کہ کعبہ اور عرش و کرسی سے بھی افضل ہے۔^{۱۶۰} اس گمراہ عقیدے کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر موجود نہیں۔ اگر وہاں موجود ہوتا تو عرش و کرسی دنیا و ما فیہا سے افضل ہوتے (امداد الفتاویٰ ص ۱۱۳ ج ۲)۔ امام ابوحنیفہ و دیگر آئندہ کے بقول ایسا عقیدہ کہ اللہ عرش پر نہیں کفر ہے (شرح عقیدہ طحاویہ ص ۲۸۸)۔

عقیدہ (۴) ہمارے نزدیک اور ہمارے مشائخ کے نزدیک دعاؤں میں اننباء علیہم السلام ہیں اور صلحاء والیاء و شہداء صدیقین کا توسل جائز ہے ان کی حیات

عبد الرحمن بن احمد الاعرج راوی ہے وہ مجھوں ہے الاحادیث الضعیفہ لالبانی ج
اصل ۲۳۰ حدیث ۲۱۳ المداوی لعلل الجامع الصغير شرح المناوی ج ۲ ص
۳۷ مفتی عبدالشکور ترمذی صاحب نے المہند کے آخر میں عقائد اہل السنۃ
والجماعۃ ص ۱۵۸ عقیدہ ۲ میں لکھا ہے اس حدیث کی سند کو حافظ ابن حجر حافظ
سنن اولیٰ القاری اور علامہ شبیر احمد عثمانی نے جید کہا ہے اور محمد بن کرام
کے نزدیک ایسی حدیث جحت ہونے میں کوئی کلام نہیں خاص کر جبکہ امت مسلمہ
کا اجماع بھی اس کی تائید کر رہا ہے میں کہتا

ہوں یہ حدیث محمد بن مروان سدری کی وجہ سے موضوع ہے اور اس کی ابوالاشیخ
والی سند جس میں محمد بن مروان نہیں بے اصل و بے بنیاد ہے علامہ محمد بن
عبدالهادیؒ نے الصارم المبنی ص ۲۰۶ میں اس سند کو بے بنیاد لکھا ہے اور سنخاوی
نے حافظ ابن حجر کی تقلید میں اس سند کو جید کہا ہے اور ملا علی اور شبیر صاحب عثمانی
محمد بن کرام میں سے نہیں ہیں بلکہ مقلدین ہیں اس لئے ان کی کسی بات کا اعتبار نہیں
ہے اور مفتی صاحب کا یہ کہنا کہ اجماع امت مسلمہ اس کی تائید کرتا ہے سفید
جھوٹ ہے علماء سلف صالحین و آئمہ مجتہدین ہر دور میں اس کی تردید کرتے آئے
ہیں تائید نہیں اس مسئلہ میں خاص کر علماء و فقہاء احناف نے صراحت سے لکھا ہے
کہ مردے نہیں سنتے اس میں نبی وغیر نبی کی انہوں نے کوئی تفریق نہیں کی فقه
حفیظہ کی تمام کتابوں میں مردوں کے نہ سننے کی صراحت ہے۔

کا عقیدہ ہے اہل سنت کا نہیں۔ سورۃ الزمر کی آیت ۳۰ اس عقیدے کو باطل
کرتی ہے ﴿إِنَّكُمْ مَيِّتُونَ﴾ بے شک تو بھی مرتا ہے
اور وہ بھی مرتے ہیں (ترجمہ محمود الحسن صاحب دیوبندی)۔ اور آپ کی وفات
پر ابو بکرؓ نے فرمایا تھا جو محمدؐ کی عبادت کرتا ہے تو محمدؐ فوت ہو چکے
ہیں (بخاری)۔ آپ کی قبر کے پاس پڑھے ہوئے درود کو براہ راست آپ کا
خود بخود سننا کسی حدیث سے ثابت نہیں اس بارے میں وارد تمام روایت
واحادیث ضعیف و باطل ہیں اس مقام پر مؤلف المہند مستدرک حاکم کی ایک
روایت پیش کی ہے اس میں ہے نبی کریم ﷺ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام میری
قبر پر آئیں گے اور مجھ پر سلام کہیں گے میں اس کے سلام کا جواب دونگا یہ
حدیث منکر ہے اس کا ایک راوی عطاء مولی ام جبیہ مجھوں ہے میزان الاعتدال
ج ۳۷۸ اس لئے امام حاکم اور حافظ ذہبی کا اس حدیث کو صحیح کہنا غلط ہے
خاص طور پر اس لئے کہ ذہبی نے خود اس کے راوی کو مجھوں کہا ہے۔

اور حدیث : من صلی عنده قبری سمعته ومن صلی على نائيا
أبلغته برواہ أبا هرثة في شعب الایمان ج ۲۳۲ (جس نے میری قبر کے پاس
درود پڑھا اس کو میں سنتا ہوں اور جس نے دور سے پڑھا مجھ تک پہنچایا جاتا
ہے) موضوع ہے اس کی سند میں محمد بن مروان السدی راوی ہے وہ جھوٹا ہے۔
اور اس حدیث کو ابوالاشیخ نے کتاب الثواب میں روایت کیا ہے اس کی سند میں

ذہبی نے الموقظہ ص ۲۲ میں لکھا ہے۔ (فالمجتمع علی صحته انا المتصل بالسالم من الشذوذ والعلة وان یکون رواته ذوی ضبط وعدالة وعدم تدليس) اتفاقی طور پر صحیح حدیث وہ ہے جس کی سند متصل ہو شذوذ علت سے پاک ہواں کے تمام راوی ضبط وعدالت کی صفتیں سے متصف ہوں اس میں راوی کی تدليس کا شایبہ بھی نہ ہو۔ صحیح حدیث کی اس تعریف سے معلوم ہوا کہ مدرس کی عنوانی روایت ضعیف ہوتی ہے حافظ ذہبی کی صحیح حدیث کی اس تعریف پر تمام محدثین کا اتفاق ہے حافظ ابن حجر تعریف اہل التقدیس بر اتاب المؤصوفین بالتدليس ص ۲۳ میں لکھتے ہیں۔

الثالثة من اکثر من التدليس فلم یحتاج الائمة من احاديثهم الا بما صرحو فيه بالسماع ومنهم من احاديثهم مطلقاً ومنهم من قبلهم كأبى الزبير المكى (یعنی مسلمین کی تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جن کی احادیث کو محدثین اس وقت تک تسلیم نہیں کرتے جب تک کہ وہ اپنے استاذ کی صراحت کرتے ہوئے حدثاً ياسمعت نہ کہیں۔ حافظ ابن حجرؓ نے محمد بن اسحاق کو اس کتاب میں اسی تیسرے طبقہ میں ذکر کیا ہے اس سے معلوم ہوا اس کی عنوانی روایت کسی حال میں بھی قبول نہیں ہے۔ المحدث کے مقلد مؤلف نے لکھا ہے اس حدیث کو امام احمد نے مندرج ۲۹۰ ص ۲ میں بھی بیان کیا ہے جبکہ مند احمد کی روایت میں عیسیٰ علیہ السلام کا نبی کریم ﷺ کی قبر پر جا کر سلام کرنے اور

علماء حفییہ میں فتاویٰ شامی کے مؤلف ابن عابدین کے بیٹے نے اس مسئلہ میں کتاب الایات البینات فی عدم السماع للا موات لکھی ہے اس میں انہوں نے اپنے مذهب حنفی کی کتابوں سے مردوں کے نہ سننے کو ثابت کیا ہے۔ اور ملا علی قاری و شبیر احمد صاحب عثمانی اور مولوی زکریا صاحب مؤلف فضائل اعمال و تبلیغی نصاب مذهب حنفی پر نہیں ہیں انہوں نے مذهب حنفی کو چھوڑ کر بدعتی صوفیاء کی راہ اختیار کی ہے اس لئے ان کی کسی بات کو نہ حنفی مذهب کی بات کہا جا سکتا ہے اور نہ سلف صالحین و محدثین کی بات، نبی کریم ﷺ کے قبر سے سلام سننے اور جواب دینے کے ثبوت میں الہمند کے مصنف نے ایک اور حدیث ذکر کی ہے اور یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے وہ حدیث یہ ہے۔ (لیہ طن عیسیٰ ابن مریم حکما و اماما مقتسطا ولیس لکن فجا حاجا او معتمرا ولیائین قبری حتی یسلم علی ولاردن علیہ) (رواہ الحاکم فی المستدرک ج ۲ ص ۵۹۵) یعنی عیسیٰ بن مریم علیہ السلام آسمان سے اتریں گے بالنصاف حاکم و عادل امام ہو کر پھر وہ حج یا عمرہ کے لئے نکلیں گے اور میری قبر پر آئیں گے اور مجھے سلام کریں گے میں ان کے سلام کا جواب دوں گا امام حاکم اور حافظ ذہبی دونوں نے اس حدیث کی سند کو صحیح کہا ہے لیکن اس کی سند میں محمد بن اسحاق راوی ہے وہ مدرس ہے اس نے اس حدیث کو لفظ عن سے روایت کیا ہے اور محدثین کا قاعده ہے کہ مدرس کی عنوانی روایت ضعیف ہوتی ہے۔ حافظ

اس بدن اطہر میں حیات اور زندگی حاصل ہے اور یہ صرف روح مبارک کی زندگی نہیں ہے۔ چونکہ دنیوی حیات کی طرح انبیاء علیہ السلام اس قبرشریف والی حیات میں بھی ادراک اور علم اور شعور حاصل ہوتا ہے اس لئے ان اہم امور کے حاصل ہونے کی وجہ سے اس حیات کو بھی دنیوی حیات کہا جاتا ہے۔

حالانکہ نبی کریم ﷺ کی وفات کے بعد صحابہ کرام نے آپ کے زندہ نہ ہونے پر اتفاق کر لیا تھا امت محمدیہ کا سب سے پہلا اجماع تھا جو آپ کی وفات پر قائم ہوا اور ابو بکر صدیقؓ نے اپنے خطبے میں فرمایا تھا جو شخص ﷺ کے زندہ ہونے اور فوت نہ ہونے پر یقین رکھتا ہے وہ ان کو معبد سمجھ کر ان کی عبادت کرتا ہے ان لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے جو ان کو فوت نہ جان کر ان کی عبادت کرتے ہیں ان کا معبد فوت ہو چکا ہے ابو بکرؓ کا مقصد یہ تھا کہ جو آپ کو اب بھی زندہ مانتا ہے گویا کہ وہ ان کی عبادت کرتا ہے کیونکہ ہمیشہ زندہ رہنا فوت نہ ہونا معبد حقیقی کی صفت ہے اور جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کے سوا بھی کوئی ہمیشہ زندہ رہ سکتا ہے وہ اس کو معبد سمجھ کر اس کی عبادت کرتا ہے ابو بکر صدیقؓ کے الفاظ یہ ہیں۔ فمن کان منکم يعبد محمدا فان محمدا قدما قدما و من کان يعبد الله فان الله حي لا يموت، رواه البخاري، كتاب الجنائز باب الدخول على الميت بعد الموت.

اور نبی کریم ﷺ کی وفات پر بیت اللہ الحرام میں مشہور صحابی سہیل بن عمرو نے

آپ کے جواب دینے والی بات نہیں ہے اس جگہ وہ حدیث اس مقلد کے مذہب کی تائید نہیں کرتی اس نے جاہل عوام کو دھوکہ دینے کے لئے اس روایت کا حوالہ دیا ہے اور جاہل عوام کو دھوکہ دینے کی ان مقلدین کی پرانی عادت ہے۔

عقیدہ : (۷) ہمارے اور ہمارے مشائخ کے نزدیک حضرت ﷺ اپنی قبری میں زندہ ہیں اور آپ کی حیات دنیا کی سی ہے بلا مکلف ہونے کے اور یہ حیات آنحضرت اور تمام انبیاء علیہم السلام اور شہداء کے ساتھ خاص ہے اور یہ حیات برزخی نہیں ہے جو تمام مسلمانوں بلکہ آدمیوں کو حاصل ہے، چنانچہ علامہ سیوطی نے اپنے رسالے انبیاء لاذکیاء بحیاة الانبیاء میں اس بات کی تصریح کی ہے چنانچہ وہ فرماتے ہیں علامہ تقی الدین سبکی نے فرمایا ہے انبیاء و شہداء کی قبر میں حیات ایسی ہے جیسی دنیا میں تھی اور موتیٰ علیہ السلام کا اپنی قبر میں نماز پڑھنا اس کی دلیل ہے کیونکہ نماز زندہ جسم کو چاہتی ہے۔ پس اس سے ثابت ہوا کہ حضرت ﷺ کی حیات دنیوی ہے اور اس میں برزخ بھی ہے کہ عالم برزخ میں حاصل ہے اور ہمارے شیخ مولانا محمد قاسم صاحب کا اس بحث میں ایک مستقل رسالہ بھی ہے اس کا نام آب حیات ہے۔ المہند ص ۱۵۹۔

دنیوی حیات سے اکابر دیوبندی کی مراد یہ ہے کہ یہ حیات اس دنیوی جسم مبارک میں ہے اور اس دنیوی حیات کے اثبات کا مطلب یہ ہے کہ قبر مبارک میں اسی دنیا والے جسم اطہر کے ساتھ آپ کی روح اقدس کا ایسا تعلق ہے جس کی وجہ سے

اور قبر میں نماز پڑھنا انبیاء کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ ان کے علاوہ مومن بھی فرشتوں سے نماز پڑھنے کی اجازت مانگتا ہے۔ امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں ابو ہریرہؓ کی لمبی حدیث ذکر کی ہے اس میں یہ لکھا ہے۔

فیقال له اجلس فی جلس و قد مثلت له الشمس و قد آذنت للغروب فی قال له أرأیتک هذا الرجل الذى كان فیكم ماتقول فيه وماذا تشهده علیه فی قول دعویٰ حتیٰ اصلی فی قول انک ست فعل اخبارنی عما نسالک عنہ۔ الاحسان الی ترتیب صحیح ابن حبان ص۔ ۲-۵ میت کو قبر میں اٹھا کر بیٹھا دیا جاتا ہے اور فرشتہ اس سے پوچھتا ہے اس شخص کے بارے میں تمہاری شہادت کیا ہے جو تم میں تھے وہ شخص دیکھتا ہے سورج غروب ہونے کو ہے وہ فرشتوں سے کہتا ہے مجھے ذرا مہلت دو میں عصر کی نماز پڑھلوں کیونکہ اس کا وقت نکلا جا رہا ہے فرشتہ اس سے کہتا ہے نماز تو ضرور پڑھے گا لیکن تو پہلے ہمارے سوال کا جواب دے جو تجھ سے کیا گیا ہے اس حدیث سے معلوم ہوا قبر میں نماز پڑھنا انبیاء کے ساتھ خاص نہیں اس بات میں مومن بھی شریک ہیں لہذا قبر میں نماز پڑھنا قبر والے کی دنیوی زندگی کی دلیل نہیں ہے اور وہ اسی دنیوی جسم کے ساتھ نماز پڑھتا ہے جس کو قبر میں دفن کیا گیا ہے تو پھر انبیاء کے ساتھ مومن بھی زندہ ہوئے۔ اور اگر قبروں کے اندر انبیاء اپنے دنیوی جسموں کیساتھ زندہ ہیں تو پھر وہ بہشت

خطبہ دیتے ہوئے کہا۔ من کان محمد ﷺ الہہ فان محمدًا قدماً^{صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} واللہ عزوجل حی لا یموت بعرفۃ الصحابة لابیعین الاصبهانی ص ۳۲۵ جس شخص کے محمد ﷺ معبود تھا ان کا معبود محمد فوت ہو چکا ہے اور اللہ تعالیٰ زندہ ہے کبھی فوت نہیں ہو گا انصوص صریحہ کے بعد بھی جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ محمد ﷺ اب بھی دنیوی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں وہ بدعتی ہے اہل سنت کی جماعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور امہند کے مؤلف کی یہ دلیل کہ نبی کریم ﷺ نے موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے دیکھا تھا اور نماز بدن و جسم کے ساتھ پڑھی جاتی ہے خالی روح کے ساتھ نہیں لہذا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں اسی دنیوی جسم کے ساتھ زندہ ہیں اور ہمارے نبی نے ان کو اسی دنیوی جسم کے ساتھ نماز پڑھتے دیکھا تھا میں کہتا ہوں اس حدیث سے کسی شخص کا اپنے بدن و جسم کے ساتھ زندہ ہونا ثابت نہیں ہوتا کیونکہ نبی کریم ﷺ کے ساتھ تمام انبیاء نے بیت المقدس میں بھی نماز پڑھی تھی ان انبیاء میں موسیٰ علیہ السلام بھی تھے امہند کے مؤلف یہ بتاسکتے ہیں کہ وہ اس وقت اپنے دنیوی جسموں کے ساتھ تھے یا خالی ان کی رو جیں تھیں جنہوں نے آپ کے ساتھ نماز ادا کی تھی۔ اور پھر انہی انبیاء علیہم السلام کو نبی کریم ﷺ نے آسمان پر بھی دیکھا تھا اگر یہ انبیاء اپنی قبروں میں جسم و روح کے ساتھ زندہ ہیں یعنی ان کا بدن و روح انہیں قبروں میں ہے تو پھر آسمان پر آپ نے جن انبیاء کو دیکھا تھا وہ کیا تھا

کے خلاف ہے اگر یہ لوگ ایسے زندہ ہیں جیسا کہ موت سے پہلے تھے تو پھر ان کو اس مٹی میں کیوں گاڑ رکھا ہے ان کو باہر نکال کر دنیا کے سامنے لایئے ان کو جسم و روح کے ساتھ سب لوگ یقین کر لیں گے کہ واقعی وہ زندہ ہیں اور پھر اگر وہ اسی قبر میں جسم و روح کے ساتھ زندہ ہیں تو ان کی جائیداد تقسیم نہیں کرنی چاہئے اور ان کی بیویوں کو دوسروں کے ساتھ نہیں بیاہ دینا چاہئے کیونکہ اس قبر میں زندہ آدمی کی مثل اس زندہ انسان کی مثال ہے جو کسی بندگھر میں سویا ہوا ہو ایسے آدمی کی نہ جائیداد تقسیم کی جاتی ہے اور نہ اس کی بیوی کا دوسرا جگہ نکاح کیا جاتا ہے خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ قبر جس میں ہم مردوں کو دفن کرتے ہیں اسی دنیا کی چیز ہے یعنی یہ قبر اسی دنیا میں ہے اور انسان مرنے کے بعد اسی دنیا میں نہیں کسی دوسرا دنیا میں ہوتا ہے جس پر صرف ایمان لایا جاسکتا ہے اس کا مقام و قوع انسان کی آنکھوں سے او جھل ہے یہ دنیاوی آنکھ اس کا دراک نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ﴿وَمِنْ وِرَائِهِمْ بَزُورٌ إِلَى يَوْمِ يَعْشُونَ﴾ (المؤمنون) ان کے آگے ایک پردہ حائل ہے جس کے اس پار تمہاری آنکھیں نہیں دیکھ سکتیں اور یہ پردہ تا قیامت قائم رہے گا اسی بزرخ سے مراد قبر کا یہ رہا نہیں جس میں انسان کا جسم رکھا ہوتا ہے یہ توہر وقت انسان کے سامنے ہے جب کوئی چاہے قبر کھود کر اس بدن و جسم کو دیکھ سکتا ہے اور بزرخ کے اس پار کسی صورت میں بھی انسان کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔

میں نہ ہوئے حالانکہ قرآن و سنت میں یہ بات پائیے ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ انبیاء و شہداء اور عام مؤمنین جنت میں ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ﴿كَلَا
إِنْ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لِفِي عَلَيْينَ﴾ (المطففين : ۱۸) حافظ ابن کثیر اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں : ای مصیر ہم الی علیین و هو بخلاف سجين قال الا عممش عن شمر بن عطیة عن هلال بن یساف قال سال ابن عباس کعبا و انها حاضر عن سجين قال هي الارض السابعة وفيها ارواح الكفار و ساله عن علیین فقال هي السماء السابعة وفيها ارواح المؤمنين وهكذا قال غير واحد انها السماء السابعة وقال على بن ابی طلحة عن ابن عباس في قوله . کلام ان کتاب البرار لفی علیین یعنی الجنة یعنی ان کتاب البرار لفی علیین کا معنی ہے ان کاٹھکانہ جنت ہے اور کعب احبار نے کہا ہے علیین سے مراد ساتواں آسمان ہے اس میں مؤمنین کی روحلیں ہیں اور سجین سے مراد ساتویں زمین ہے اس میں کفار کی روحلیں ہیں اور ابن عباس نے کہا ہے علیین سے مراد جنت ہے اور قرآن کریم میں ہے ﴿ثُمَّ أَنْكِمْ بَعْدَ ذَالِكَ لِمِيتَوْنَ ثُمَّ أَنْكِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَبْعَثُونَ﴾ (المؤمنون : ۱۵-۱۶) پھر تم پر موت آئے گی اس موت کے بعد تم کو قیامت کے دن زندہ کیا جائے گا اور ان قبروں میں انبیاء علیہم السلام یا عام مؤمنین کو انہیں جسموں کے ساتھ زندہ مانا عقل و نقل دونوں

جسموں کے ساتھ زندہ ہوتے تو صحابہ کے سوال کا جواب یہ نہ ہوتا جو حدیث میں مذکور ہے بلکہ اس کا جواب یہ ہوتا کہ ہم ان بیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں یعنی ہمارے جسم مردہ نہیں ہوتے اور امام سیوطی نے مذکورہ رسالے میں یہ حدیث بھی ذکر کی ہے۔ الانبیاء احیاء فی قبورهم یصلون، رواہ ابو یعلیٰ فی مسنون ج ۶ ص ۷۲ یعنی ان بیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں نماز پڑھتے ہیں مگر یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔

اس میں امام ابو یعلیٰ کے استاذ ابو جہنم ازرق بن علی غریب روایات بیان کرتا ہے اور غریب روایات زیادہ تر ضعیف ہوتی ہیں اور امام سیوطی نے مذکورہ رسالے میں انس کی روایت ذکر کی ہے وہ حدیث یہ ہے الانبیاء لا یترکون فی قبورهم بعد اربعین لیلة ولكن یصلون بین يدی الله حتى ینفح فی الصور یعنی ان بیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں چالیس روز کے بعد نہیں رہتے وہ اللہ تعالیٰ کے روبرو نمازیں پڑھتے رہتے ہیں یہ حدیث موضوع ہے اگر اس کو دلیل بنایا جائے تو مطلب یہ ہو گا کہ ان بیاء اپنی قبروں میں نہیں ہیں لہذا قبروں کے اندر ان بیاء کی زندگی اس روایت کے حساب سے کا لعدم ہو گی۔

مفتي عبدالشكور صاحب عفتائد علماء دیوبند میں لکھتے ہیں علامہ شیر احمد صاحب عثمانی نے فتح اعلمہ میں لکھا ہے۔ ان النبی حی کما تقرر و انه ﷺ یصلی فی قبرہ باذان واقامة الْمُهَنْدِ ۖ ۱۶۱ نبی کریم ﷺ زندہ ہیں اور اپنی قبر میں

علامہ سیوطی نے اپنے رسالہ انبیاء لاذکیا کے ص ۵ میں ابو داود اور یہنفی کے حوالے سے اوس بن اوس الشفی کی حدیث نقل کی ہے وہ حدیث یہ ہے۔ من افضل ایامکم یوم الجمعة فاکشو را علی الصلاۃ فیہ فان صلاتکم تعرض علی قالوا یا رسول الله و کیف تعرض علیک صلاۃ تنا و قد ارمت یعنی بليت فقال ان الله حرم على الارض ان تأكل اجساد الانبياء یعنی تمہارے افضل دنوں میں سے جمعہ کا دن ہے اس دن میں میرے اوپر زیادہ سے زیادہ درود پڑھا ہوا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارا درود آپ کو کیسے پیش کیا جائے گا حالانکہ وفات کے بعد آپ کا بدن جسم پوشیدہ ہو کر مٹی میں مل جائے گا آپ نے فرمایا ہمارے (انبیاء کے) بدن مٹی پر حرام کر دیئے گئے ہیں وہ ہمارے جسموں کو نہیں کھا سکتی۔

یہ حدیث اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ان بیاء کے جسموں میں روح نہیں ہے کیونکہ ان جسموں میں اگر روح ہوتی تو ان کو مٹی کے کھانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور مٹی پر ان بیاء کے جسموں کے کھانے کو حرام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جسم مردہ ہیں اور چونکہ ہر مردہ جسم کو مٹی کھا جاتی ہے اس لئے نبی کریم ﷺ نے یہ وضاحت فرمائی کہ باوجود اس کے کہ ان جسموں میں روح نہیں مٹی ان کو نہیں کھا سکتی اور اگر ان بیاء کے جسموں میں روح ہوتی اور وہ قبر میں ان

کے بھائی جس کو محمد بن حفیہ کہا جاتا ہے بھی مدینہ میں تھے یہ باغی ان کے پاس بھی گئے ان کو اپنے ساتھ ملانے پر بات کی انہوں نے اس سے انکار کر دیا اور علی بن حسین زین العابدین بھی اس وقت مدینہ میں تھے اس کے علاوہ یزید کی فوج والے بھی مسلمان تھے کیا انہوں نے بھی مسجد نبوی میں اذان و جماعت کا اہتمام نہیں کیا تھا یہ فاتح قوم تین دن تک بے نماز رہی یا مسجد نبوی کے علاوہ کہیں اور نماز پڑھتی رہی؟ اور واقعہ حادثہ کے تعلق سے جو مشہور ہے کہ یزید کی فوج نے مسجد نبوی میں گھوڑے باندھ دئے تھے اس طرح انہوں نے مسجد نبوی کی بر ملا بے حرمتی کی یہ بھی جھوٹ ہے مدینہ کے اندر اتنے صحابہ کی موجودگی میں ایسا ہونا محال ہے۔

اور قبر میں سے قرآن پڑھے جانے کی جس روایت کا مفتی عبدالشکور صاحب نے حوالہ دیا ہے وہ بھی ضعیف ہے اس حدیث کو امام ترمذی نے فضائل القرآن باب ماجاء فی سورہ الملک تختۃ الاحدودی ج ۸ ص ۱۶۱ میں ذکر کر کے کہا ہے یہ حدیث غریب ہے اس حدیث کی سند میں یحییٰ بن عمرو بن مالک الانکری ہے وہ ضعیف ہے کہا جاتا ہے امام جماد بن زید نے اس کو کذاب کہا ہے (تقریب) صحیح بخاری کی ایک حدیث سے ثابت ہے کہ نبی کریم ﷺ کا مقام فوت ہونے کے بعد جنت ہے دنیا کی یہ قبر نہیں جس میں آپ دفن ہیں۔

سمرہ بن جنبد کی روایت ہے نبی کریم ﷺ صحیح کی نماز کے بعد صحابہ سے پوچھا

اذان واقامت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں مفتی عبدالشکور صاحب فرماتے ہیں علامہ انور شاہ کشمیری نے بھی فیض الباری ج ۱۸۳ میں اس طرح لکھا ہے اور اذان واقامت کے ثبوت میں مسند داری کا حوالہ دیا ہے اور قبروں میں قرآن پڑھے جانے کے ثبوت میں سنن ترمذی کا حوالہ دیا ہے۔

مسند داری کی جس حدیث کا حوالہ دیا گیا ہے غالباً اس سے مراد وہ حدیث ہے جس میں ہے تین دن تک مسجد نبوی میں اذان واقامت نہیں ہوئی جب یزید کی فوج نے مدینہ پر حملہ کیا تھا سعید بن مسیب مسجد نبوی میں تھے ان کو نماز کے اوقات کا پتہ نہیں چلتا تھا سوائے اس کے کہ نماز کے اوقات میں نبی کریم ﷺ کے حجرہ سے گنگاہٹ کی آواز آتی تھیں وہ اس آواز کو سن کر نماز پڑھا کرتے یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے اس کی سند منقطع ہے سعید بن عبدالعزیز کی سعید بن مسیب سے ملاقات نہیں، اور یہ واقعہ گھر اہوا معلوم ہوتا ہے کیونکہ تین دن تک مسجد نبوی میں نماز کا نہ ہونا محال ہے یہ روایت یزید دشمنی پر مبنی ہے سوال یہ ہے کیا سعید بن مسیب کے سوا مدینہ میں کوئی مسلمان نہیں رہ گیا تھا؟ واقعہ حادثہ کے وقت بے شمار صحابہ مدینہ میں تھے احادیث و تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے کہ باغیوں نے جب مدینہ میں حکومت کا تختۃ اللہ دیا تو ابن عمر نے ان کے پاس جا کر ان سے براءت کا اظہار کیا اور ان باغیوں کو اسلامی و شرعی سزا سے باخبر کیا یہ بات صحیح مسلم میں موجود ہے اور محمد بن علی حسن و حسین

صحیح تھے تو فرمایا کرتے تھے ہر نبی کو اس کی وفات سے پہلے اس بات کا اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ جنت کی طرف جانا چاہتا ہے یا کچھ اور دن دنیا میں رہنا پسند فرماتا ہے اور اس کو وفات سے پہلے جنت میں جو اس کا مقام ہے وہ اس کو دکھا دیا جاتا ہے اور جب آپ کی وفات کا وقت آیا تو آپ کا سر میری ران پر رکھا تھا اور آپ بیہوش تھے اچانک آپ نے آنکھ کھولی اور فرمایا اللهم الرفیق الاعلیٰ یا اللہ مجھے رفیق الاعلیٰ کی رفاقت عطا فرم اس وقت میں نے یقین کر لیا کہ آپ اس وقت ہم سے جدا ہونے کو ترجیح دے رہے ہیں، بی بی عائشہ کا یہ کلمہ کہ آپ ہم سے جدا ہونے کو پسند فرم رہے ہیں اس بات کی دلیل ہے آپ اس وقت بی بی عائشہ کے جھرے میں اپنے روح کے ساتھ زندہ نہیں ہیں کیونکہ آپ اگر اپنی قبر میں جو آپ کے جھرے میں ہی ہے روح کے ساتھ زندہ ہوتے تو بی بی عائشہ کے پاس ہی ہوتے لیکن بی بی فرماتی ہیں کہ آپ نے ہماری رفاقت کو چھوڑنا پسند فرمایا اس کا مطلب صاف ہے کہ آپ اپنی قبر میں اپنے جھرے میں زندہ نہیں ہیں بلکہ آپ کی روح جنت میں ہے۔ (ایک وہم کا ازالہ) عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ نبی کریم ﷺ کی قبر کی جگہ جنت کا ٹکڑا ہے اس لئے اس کو روضہ کہا جاتا ہے یعنی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ لیکن یہ بات غلط ہے اور جنت کے باغوں میں سے جس جگہ کو باغ کہا گیا ہے وہ نبی کریم ﷺ کی مسجد کا وہ حصہ ہے جو حراب و نمبر سے شروع ہوتا ہے اور

کرتے تھے کہ کسی نے خواب دیکھا تو بتاؤ ایک دن آپ نے صحابہ سے پوچھا کسی نے نہیں کہا ہم نے کوئی خواب دیکھا ہے آپ نے فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے (اور نبی کا خواب وحی ہوتا ہے) آگے لمبی حدیث ہے اس کے آخر میں ہے مجھے جریل اور میکائل نے کہا اوپر دیکھی میں نے اوپر دیکھا تو مجھے سفید بادل کی طرح ایک محل نظر آیا ان دونوں فرشتوں نے کہا یہ ہے آپ کا گھر میں نے کہا مجھے چھوڑ دو میں اپنے گھر کے اندر جاؤ انہوں نے کہا آپ کی ابھی کچھ عمر باقی ہے اس کو پوار کر لینے کے بعد آپ اس گھر میں داخل ہو سکیں گے۔ (مشکوہ کتاب الرؤایا) اس حدیث سے ثابت ہوا اللہ کے رسول ﷺ کا مقام وفات کے بعد جنت ہے اور ان کا مقام وہ گھر ہے جو آپ نے اس خواب میں دیکھا تھا اور بخاری و مسلم میں بی بی عائشہؓ کی حدیث میں ہے نبی کریم ﷺ کی وفات کے وقت آخری کلمہ آپ کی زبان پر یہ جاری ہوا۔ اللهم الرفیق الاعلیٰ مشکوہ کتاب الفھائل۔ یا اللہ مجھے رفیق الاعلیٰ کی رفاقت عطا فرم۔ اس سے جنت کا مقام مراد ہے جیسا کہ اس حدیث میں ہے بی بی عائشہ فرماتی ہیں۔

کان رسول الله ﷺ يقول وهو صحيح انه لن يقبض نبى حتى يرى مقعده من الجنة ثم يتخير قالت عائشة فلما نزل به ورأسه على فخذى غشى عليه ثم افاق فاشخص بصره الى السقف ثم قال اللهم الرفیق الاعلیٰ قلت اذن لا يختارنا ، یعنی نبى کریم ﷺ جب

نہیں ہے جو خود بخود بغیر کسی دوسری چیز کے سکے ان کی اصطلاح میں روح عرض ہے جو ہر نہیں اس لئے لامحال روح کے لئے کوئی ایسی چیز ضروری ہے جس کے ساتھ وہ زندہ رہ سکے اور عذاب و ثواب کو محسوس کر سکے ان کے مذہب میں روح کی مثال انسانی صفات کی ہے جس طرح کسی کا کالا اور گورا ہونا بخیل و سخنی ہونا وغیرہ یہ اعراض ہیں ان کے ثبوت وجود کے لئے جسم کا ہونا ضروری ہے کیونکہ جسم کے بغیر ان کا وجود و ثبوت محال ہے اور صوفیاء کے مذہب میں روح غیر مخلوق ہے ان کے نزدیک امر الہی ہے اور امر الہی غیر مخلوق ہے مولوی شیر احمد صاحب عثمانی دیو بندی صوفی نے قرآنی آیت ﴿وَيَسْأَلُونَكُمْ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ (بنی اسرائیل : ۸۵) کی تفسیر میں روح کے مخلوق نہ ہونے کے ثبوت میں طویل بحث کی ہے جب ان کے ہاں روح غیر مخلوق ہے یا جو ہر نہیں عرض ہے تو لامحال روح کے وجود و ثبوت کے لئے جسم کا ہونا ان کے مذہب میں ضروری ہے لیکن علماء اہل سنت کے ہاں روح ایک مستقل مخلوق ہے وہ جسم کے بغیر بھی زندہ رہ سکتی ہے اور کھانے پینے اور چلنے کی صلاحیت رکھتی ہے اس لئے ان کے ہاں اس کے لئے جسم کا ہونا ضروری نہیں ہے اور جسم سے جدا و علیحدہ ہو کر بھی وہ زندہ رہ سکتی ہے اور عذاب و ثواب کو محسوس کر سکتی ہے۔

قطب الارشاد مولا نارشید احمد صاحب گنگوہی فرماتے ہیں

نبی کریم ﷺ کے حجرے کی دیوار تک جاتا ہے آپ کا حجرہ اس میں داخل نہیں ہے اس وضاحت کے بعد کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ نبی کریم ﷺ کی قبر کا حصہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے اس لئے یہ بات صحیح ہے کہ آپ کی روح اس قبر میں ہوا اور جنت میں بھی ہو۔

مفتي عبدالشکور صاحب مولوی قاسم نانوتوی صاحب کی کتاب آب حیات کے حوالے سے لکھتے ہیں انبياء عليهم السلام کو ابدان دنیا کے حساب سے زندہ سمجھیں گے پھر حسب ہدایت ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ (آل عمران : ۱۸۵) ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور آیت ﴿إِنَّكُمْ مَيْتُونَ﴾ (الزمر : ۳۰) آپ بھی فوت ہونے والے ہیں اور یہ لوگ بھی تمام انبیاء عليهم السلام خاص کر نبی کریم ﷺ کی نسبت فوت کا اعتقاد بھی ضروری ہے میں کہتا ہوں یہ تو ممکن ہے کہ کوئی شخص ایک جہاں میں مردہ ہوا اور دوسرے جہاں میں زندہ ہو مگر یہ ممکن نہیں کہ کوئی شخص ایک ہی جہاں کے اندر زندہ بھی ہوا اور مردہ بھی اور یہ بات محقق ہے کہ قبر جس کے اندر مردے کے جسم کو دفن کیا جاتا ہے وہ اسی دنیا کے جہاں کے اندر ہے کسی دوسرے جہاں میں نہیں ہے اور مردے کے اسی جسم کو زندہ بھی کہنا اور مردہ کہنا بھی محال ہے۔

حالانکہ قبر میں پڑے ہوئے مردے کے جسم کو زندہ کہنے والوں کے لئے مشکل یہ ہے کہ وہ روح کو کوئی جسم چیز نہیں مانتے روح ان کے مذہب میں کوئی ایسی چیز

عقیدہ (۸) مفتی عبدالشکور نے لکھا ہے اس زمانہ میں نہایت ضروری ہے کہ چاروں اماموں میں سے کسی ایک کی تقلید کی جائے بلکہ واجب ہے کیونکہ ہم نے تجربہ کیا ہے کہ انہم کی تقلید چھوڑنے کا انجام الحادی و زندقہ کے گڑھے میں جا گرنا ہے ہمارے مشايخ اصول و فروع میں امام اسلامین حضرت ابوحنیفہؓ کے مقلد ہیں خدا کرے کے اسی پر ہماری موت ہوا اور اس زمرہ ہمارا حشر ہو۔ المحمد ص ۱۷۲۔

میں کہتا ہوں مقلدین اپنے اماموں کی تقلید کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ان اماموں کی پوری باتوں کی تقلید نہیں کرتے ان اماموں کا جو قول ان کی خواہش کے موافق ہواں کو لے لیتے ہیں اور جو مخالف ہواں کو چھوڑ دیتے ہیں مثلاً مردوں کے سننے کے مسئلہ میں فقهاء حنفیہ کا قول یہ ہے کہ مردے نہیں سنتے لیکن موجودہ حنفی مذہب کے اپنے علماء فقهاء کے اس قول کے برعکس عقیدہ رکھتے ہیں اس مسئلہ میں الآیات البیانات فی عدم سماع الاموات ملاحظہ فرمائیں ان انہم حنفیہ نے کسی کی بھی تقلید کو ناجائز کہا ہے کیونکہ ہر مسئلے میں کسی ایک عالم و مجتهد کی تقلید کا مطلب اس کو بنی کا درجہ دینا ہے جیسا کہ بنی کی ہربات پر عمل واجب الاتباع ہوتا ہے اس طرح کسی امام و مجتهد کی ہربات کو واجب الاتباع سمجھنا اس کو بنی سمجھنا ہے اس لئے انہم حنفیہ امام ابو یوسف قاضی نے اپنے استاذ امام ابوحنیفہ کے بعض مسائل کو چھوڑ دیا تھا مبسوط سرخی ج ۱۲ ص ۲۸ میں

عقلاء و علماء دیوبند ص ۱۶۲ میں مفتی عبدالشکور صاحب لکھتے ہیں : چونکہ انبیاء علیہ السلام سب کے سب زندہ ہیں اس لئے ان کے آگے وراشت چلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

حالانکہ انبیاء علیہم السلام کے مال و ممتاٹ کا وراشت میں تقسیم نہ ہونا ان کے زندہ ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ حدیث میں اس کی وضاحت ہے کہ وہ مسلمین پر صدقہ ہے۔ عن ابی بکرؓ قال قال رسول اللہ ﷺ لانورث ماتر کاہ صدقۃ (متفق علیہ مشکوحة مع المرقاۃ ج ۱۰ ص ۳۲۹) ابو بکر صدیق سے مروی ہے نبی کریم ﷺ نے فرمایا ہمارے مال و ممتاٹ کا کوئی شخص وارث نہیں ہو سکتا جو کچھ ہم چھوڑ جاتے ہیں وہ مسلمانوں پر صدقہ ہے اس وضاحت کے بعد کسی بدعتی کا یہ کہنا کہ آپ ﷺ کے چھوڑے ہوئے ترکے کے وارث نہ ہونے کی وجہ آپ کا زندہ ہونا مردود ہے اسی طرح بعض بدعتیوں کا یہ قول کہ بنی کریم ﷺ کی بیویوں کے نکاح کے حرام ہونے کی وجہ بھی آپ کا زندہ ہونا ہے یہ بھی بے بنیاد و باطل ہے کیونکہ قرآن کریم میں ان بیویوں کے نکاح کے حرمت کی وجہ ان کا مسلمانوں کی مائیں ہونا ہے نہ کہ آپ ﷺ کا زندہ ہونا اللہ تعالیٰ کا رشاد ہے۔ ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَهْلَهُمْ﴾ (الاحزاب : ۶) یعنی آپ ﷺ کی بیویاں مسلمین کی مائیں ہیں اس وجہ سے ان کے ساتھ کسی مسلمان کا نکاح حرام ہے۔

الكتاب لهذا وسماه تحكما على الناس من غير حجة فقال ما
أخذ الناس بقول أبي حنيفة وأصحابه الابتراكهم التحكم على
الناس فإذا كانوا هم الذين يتحكمون على الناس بغير اثرا ولا قياس
لم يقلدوا هذه الأشياء ولو جاز التقليد كان من مضى من أبي
حنيفة مثل الحسن البصري وأبراهيم النخعى احرى ان
يقلدوا ولم يحمد على مقال مبسوط سريري ج ۱۲ ص ۲۸ يعني امام محمد بن
امام ابوحنيفه کے مسئلہ وقف کو قرآن وسنت سے بعيد سمجھتے ہوئے رد کر دیا اور کہا یہ
مسئلہ بغیر دلیل لوگوں پر مسلط کیا گیا ہے امام ابوحنیفہ اور اس کے اصحاب کے
اقوال کو لوگوں نے اس لئے لیا تھا کہ وہ بغیر دلیل لوگوں پر زبردستی نہیں ٹھونسے
جاتے تھے اور اگر یہی ائمہ بغیر دلیل لوگوں پر مسائل ٹھونسنے شروع کر دیں تو ان
کی ہر کسی مسئلہ میں تقليد نہیں کی جائے گی اور اگر بغیر دلیل کسی امام و مجتهد کی تقليد
فرض ہوتی تو ان ائمہ سے پہلے لوگوں کی تقليد ضروری ہوتی مثل حسن بصری اور
ابراهیم النخعی کے مؤلف مبسوط کہتے ہیں امام محمد کی اس بات کو حنفی حلقوں میں پسند
نہیں کیا گیا میں کہتا ہوں کلمہ حق کو کسی زمانہ میں پسند نہیں کیا گیا لیکن ائمہ حق نے
کسی موقع پر غلط کہنے سے عار محسوس نہیں کی مگر مقلدین کو کلمہ حق سننے کی جراءت
و ہمت کہاں اسی مسئلہ تقليد سے متعلق امام محمد ابویوسف کا یہ اختلافی مسئلہ
ہے ان دونوں کے اختلافات انہی کی زبانی پڑھیے۔

ہے و کان ابویوسف يقول اولا بقول ابی حنفیه ولکنه لما حج
مع ها رون الرشید فرأى وقوف الصحابة بالمدينة ونواحيها
رجع فافتى بلزوم الوقف فقد رجع عند ذالك عن ثلاث مسائل
احدها هذه والثانية تقدير الصاع بثمانية ارطال والثالثة اذان
الفجر قبل طلوع الفجر . وقف کے مسئلہ میں ابویوسف قاضی پہلے امام
ابوحنیفہ کے قول پر فتوی دیتے تھے اور جب اس نے ہارون رشید کے ساتھ حج کیا
اور صحابہ کرام کی وقف کردہ اشیاء کو دیکھا تو پہلے قول سے رجوع کر لیا اور وقف
کردہ چیز کے لزوم پر فتوی دیا
ابویوسف قاضی نے اس موقع پر تین مسئللوں سے رجوع کیا پہلا وقف والا مسئلہ
دوسرा صاع کی مقدار کے بارے میں تیسرا صبح سے پہلے اذان کے جواز کا مسئلہ
یعنی پہلے اس اذان کے جائز ہونے کے قائل نہیں تھے اس سے رجوع کر کے
جواز کا فتوی دیا امام ابویوسف کے اس عمل سے ثابت ہوا کہ کسی امام و مجتهد کی
تقليد ہر مسئلہ میں نہیں ہے بلکہ جہاں قرآن وسنت سے امام و مجتهد کا قول غلط
ثبت ہو جائے وہاں اس قول کا چھوڑنا فرض ہے اور قرآن وسنت پر عمل ضروری
ہے۔

تمام ائمہ اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے تقليد کے فرض نہ ہونے کی زبردست دلیل
امام محمد کے اس قول میں ہے۔ وقد استبعد محمد قول ابی حنفہ فی

المشائخ يجوز اذالم يعتقد الجوارح وقال اكثراهم لا يصح
وعليه الاعتماد فتاوى الهندية عالمگری ج ۲ ص ۲۵۸۔ قرآن کریم میں اللہ
تعالیٰ کی صفات میں جو الفاظ آئے ہیں جیسے لفظید، وجہ، جوہا تھا اور منہ کے معنی
میں نہیں ہے ان الفاظ کے مطلق معنی کو تعین کے بغیر اللہ تعالیٰ کے لئے بولنا
درست نہیں ہے یا نہیں بعض مشائخ حنفیہ کا قول ہے کہ جائز ہے بشرطیکہ اس کا
ظاہری معنی مراد نہ لیا جائے اور بعض دوسرے مشائخ حنفیہ کا قول یہ ہے کہ ان
الفاظ کا اطلاق اللہ تعالیٰ کی ذات کے لئے بغیر تعین معنی کے بھی جائز نہیں اور
یہ قول معتبر اور صحیح ہے۔

يَكْفُرُ بِأَبَاثَاتِ الْمَكَانِ لِلَّهِ تَعَالَى فَلُوْ قَالَ ازْخَدَا ۝ مَكَانٌ خَالٍ نِيَسْتَ
يَكْفُرُ وَلَوْ قَالَ اللَّهُ فِي السَّمَاءِ فَإِنْ قَصْدَ بِهِ حَكَاهَةً مَاجَاءَ فِي ظَاهِرِ
الْأَخْبَارِ لَا يَكْفُرُو ان ارادبه المکان یکفر وان لم تکن له نیة
یکفر عند الاکثر وهوالاصح وعليه الفتوى. ويکفر بقوله الله
جلس للانصاف او قام له بوصفه الله تعالیٰ بالفوق والتحت
ولو قال مرا برآسمان خدا است و بر زمین فلاں یکفر واذا قال خدا
فر وا ز آسمان او قال از عرشی فهذ کفر عند اکثراهم ج ۲ ص ۲۵۹
عالمگری۔

یعنی اللہ تعالیٰ کے لئے جگہ اور مکان کا عقیدہ رکھنے سے آدمی کا فر ہو جاتا ہے۔

و حکی ان محمد امر بمزبلة فقال هذا مسجد ابی يوسف يرید به
انه لم یقل بعوده الى ملک الشانی یصیر مزبلة عند تطاول المدة
ومرا ابو يوسف باصطبعل فقال هذا مسجد محمد يعني انه كما قال
یعود ملکا فربما يجعله المالک اصطبلابعدان كان مسجدا .
المبسوط ج ۱۲ ص ۳۳ امام محمد کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پر سے گزرے اور کہا یہ
ابویوسف قاضی کی مسجد ہے اس لئے کہ وہ کہتے ہیں ویران مسجد کی ملکیت مالک
کی طرف دوبارہ نہیں لوٹے گی وہ اس کی ملکیت سے ہر حال میں خارج رہے گی
خواہ وہ مسجد آبادر ہے یا ویران ہو جائے اس لئے وہ ویران ہو کر کوڑا کرکٹ کا
ڈھیر بھی بن جائے تب بھی وہ ابویوسف کے مذهب میں مسجد کے حکم میں رہے
گی۔

اور ابویوسف قاضی ایک گھوڑوں کے اصطبل سے گزرے اور کہا یہ امام محمد کی مسجد
ہے یعنی اس لئے کہ وہ کہتے ہیں ویران مسجد کی ملکیت مالک کی طرف دوبارہ
لوٹ جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مالک اس مسجد کی جگہ کو اصطبل بناسکتا
ہے کیونکہ وہ جگہ ابھی مسجد نہیں رہی جب وہ مسجد نہ رہی اور اس کا مالک اس کو
اصطبعل بنالے تو امام محمد کے مذهب میں جائز ہوگا۔

عقیدہ (۹) ماجاء فی القرآن من اليد و الوجه لله تعالى وليس
بجارحة هل يجوز اطلاق هذه الاشياء بالفارسية قال بعض

فرق ہے

کسی بزرگ نے حضرت حق سے ناز کر کے پوچھا تھا کہ اے اللہ فرعون نے انا ربکم الاعلیٰ میں تمہارا بڑا رب ہوں۔ کہا اور منصور نے انا الحق (میں حق ہوں) کہا دونوں کا ایک مدلول ہے پھر کیا وجہ ہے کہ ایک مردود ہوا و سرا مقبول جواب ارشاد ہوا کہ فرعون نے انا ربکم الاعلیٰ ہمارے مٹانے کو کہا تھا اس لئے ملعون ہوا، اور منصور نے انا الحق اپنے مٹانے کو کہا تھا اس لئے مقبول ہوا۔

۔ گفت فرعون نے انا الحق گشت پست☆ گفت منصور نے انا الحق گشت مرت.

فرعون نے انا الحق کہا مردود ہوا، منصور نے انا الحق کہا مقبول ہوا۔

۔ رحمۃ اللہ این انارادر وفا۔☆ لعنت اللہ آں انارادر قفا۔

وفا میں یہ انا اللہ کی رحمت ہے اس انا کے پیچھے اللہ کی لعنت ہے۔

منصور کے انا الحق کے یہ معنی تھے کہ میں کوئی شئی نہیں جس کو انا کہا جاتا ہے وہ بھی حق ہے اور فرعون کے انا الحق کے معنی ہے کہ حق جس کو کہا جاتا ہے وہ میں ہی ہوں سوائے میرے کوئی نہیں ہے جواہر حکیم الامت ص ۳۱۔

حالانکہ فرعون کے اپنے آپ کو بڑا رب کہنے اور حلانج نے اپنے آپ کو انا الحق کہنے کے ما بین کوئی فرق نہیں اس لئے دونوں اس کلمے کے کہنے سے ملعون ہوئے لیکن علماء دیوبند اپنے بدعتی عقیدے کی وجہ سے جو وحدۃ الوجود اور حلول کا عقیدہ ہے حلانج کو ولی اللہ کہنے اور ماننے پر مصر ہیں۔

اگر کسی نے کہا کہ زمین و آسمان کی کوئی جگہ اللہ تعالیٰ سے خالی نہیں ہے تو اس کلام سے وہ کافر ہو جائے گا۔ اور اگر کہا اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے اس سے اس کی مراد یہ ہو جو قرآن و سنت میں مذکور ہے اس پر اس کا عقیدہ نہ ہو تو بعض مشائخ کے نزدیک اس سے کافرنہ ہو گا اور اس سے اس کی مراد اللہ تعالیٰ کے لئے مکان و جگہ کا تعین ہو تو اس سے کافر ہو جائے گا اور اگر اس کی کوئی بھی نیت نہ ہو اور یہ لفظ اس نے بول دیا تو بھی اکثر مشائخ حنفیہ کے نزدیک کافر ہو جائے گا یہی قول صحیح ہے

اور مشائخ حنفیہ کا اسی پر فتویٰ ہے۔ اور اگر کسی نے کہا اللہ تعالیٰ انصاف کے لئے بیٹھایا کھڑا ہوا یا اللہ تعالیٰ کو اوپر اور نیچے کی جہتوں میں مانا تو کافر ہو جائے گا۔

اگر کسی نے کہا میرا خدا آسمان پر ہے اور زمین پر فلاں شخص ہے تو اس کلمہ سے وہ کافر ہو جائے گا۔ اور اگر کسی نے کہا اللہ تعالیٰ آسمان سے دیکھتا یا کہا عرش سے دیکھتا ہے تو اس کلمہ سے وہ کافر ہو جائے گا ہمارے اکثر مشائخ کے قول ہیں۔

عقیدہ (۱۰) مشائخ اور بزرگوں کی روحانیت سے استفادہ اور ان کے سینوں اور قبروں سے باطنی فیوض کا پہنچنا سوبے بیشک صحیح ہے مگر اس طریقہ سے جو اس کے اہل اور خواص کو معلوم ہے نہ اس طرز سے جو عوام میں راجح ہے۔ المہند ص ۱۴۲

فرعون کے انا الحق کہنے اور حلانج کے انا الحق کے درمیان کیا

اسی عقیدے کے بناء پر حلاج نے اپنے آپ کو خدا کہا تھا اور جب یہ روح دیوبندی جماعت کے حکیم الامت کے نزدیک روح اعظم ہے اور غیر مخلوق ہے اور زمین و آسمان سے بھی بڑی ہے تو پھر یہی انسان باعتبار روح کے خدا ہوا اور باعتبار بدن و جسم کے بندہ ہوا لہذا انسان ہی خدا و بندہ ہے نعوذ باللہ من ذالک۔

صوفی نے دیکھا میں کائنات کو پیدا بھی کر رہا ہوں اور ما ربھی

رہا ہوں

فرمایا ایک مرتبہ میں اپنے اسماء و صفات کی طرف متوجہ ہوا تو ننانوے ناموں سے بھی زیادہ پایا پھر تجسس کیا تو اپنے اسماء و صفات کی کوئی عدد شمارنہ پائی جب اس مقام پر پہنچا تو اس حالت میں اپنی ذات کو دیکھا کہ کائنات کو پیدا بھی کر رہا ہوں اور ما ربھی رہا ہوں۔ ارباب ولایت کبریٰ پر ایسی حالتیں آ کر گزرتی رہتی ہیں انفاس العارفین مؤلفہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی حصہ ۲۰، یہ قول شیخ ابوالرضاء کا ہے۔ شاہ ولی اللہؒ نے اس صوفی بزرگ کا یہ قول بھی نقل کیا ہے فرمایا ایک دفعہ میں نے چشم حقیقت سے دیکھا کہ میرا پاؤں با یزید بسطامی کے پاؤں کے ساتھ باندھ دیا گیا ہے اور بایاں پاؤں سید الطائفہ جنید بغدادی کے پاؤں سے باندھا گیا ہے اسی عالم میں میں نے شیخ بسطامی کی طرف نگاہ کی تو انہیں غیبت کاملہ کے مقام پر فائز پایا اور شیخ جنید کی طرف دیکھا تو انہیں بے خودی و مدھوشی سے بے

جماعت تبلیغ کے بانی شیخ الیاس کے پیر و مرشد رشید احمد صاحب گنگوہی فرماتے ہیں (منصور کون تھے) اس عنوان کے تحت فتاویٰ رشیدہ ص ۱۰۸ میں یہ پڑھئے۔

بندہ کے نزدیک وہ حسین بن منصور حلاج ولی تھے۔

معلوم ہوا دیوبندی و تبلیغی مذہب میں میں خدا ہوں کہنے والا ولی ہوتا ہے۔

انسان عالم صغیر ہے یا عالم کبیر

ملفوظات مولوی اشرف علی صاحب تھانوی ج ۲ ص ۷۲ میں ہے۔

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ حکماء انسان کو عالم صغیر کہتے ہیں اور صوفیاء عالم کبیر کہتے ہیں خلق السموات والارض اکبر من خلق الناس میں تصریح ہے انسان کے ضعیف ہونے کی اس صورت میں حکماء اور صوفیاء کے کلام میں تعارض معلوم ہوتا ہے اور حکماء کی تائید کلام پاک سے ہوتی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ تعارض کچھ نہیں اس لئے کہ انسان میں دو درجہ ہیں ایک کے اعتبار سے حکماء کا قول صحیح ہے اور ایک اعتبار سے صوفیاء کا قول صحیح ہے یعنی مادہ کے اعتبار سے تو انسان عالم صغیر ہے جیسا کہ لفظ خلق اس پر دال ہے اور روح کے اعتبار سے عالم کبیر ہے اس سے معلوم ہوا مولوی اشرف علی صاحب کے نزدیک بھی انسان کی روح مخلوق نہیں ہے اور انسان کی روح روح اعظم ہے اس لئے وہ عالم کبیر ہے اور یہ روح زمین و آسمان سے بڑی ہے کیونکہ یہ رب تعالیٰ کی تجلی ہے۔

یعنی جبشی اور عرش اور اللہ تعالیٰ سب ایک ہو گئے نبوعذ باللہ من ذالک.
صوفی تلخ و بد بودار چیزوں کو انتہائی لذت و خوشی سے استعمال کر لیتا ہے

شاہ ولی اللہ انفاس العارفین ص ۲۱۲ میں زیر عنوان : بشری خصوصیات کی خصوصیات لکھتے ہیں فرمایا لڑائی جھگڑا صلح پسندی غصہ اور اس قسم کی تمام بشری خصوصیات مختلف قوی کے باہمی امترانج سے پیدا ہوتی ہیں اور سلوک اور مراتب ولایت انہیں قوتوں کے ٹکراؤ سے ظہور پذیر ہوتے ہیں اور انسانی مزاج کی انہی مختلف النوع قوتوں سے کام لینے کے لئے انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیج کر انسانوں کو تکالیف شرعی کا پابند بنایا گیا ہے اس کے ثبوت میں کہا جاستا ہے کہ عارف بعض اوقات تلخ و بد بودار چیزوں کو بھی انتہائی لذت اور خوشی سے استعمال کر لیتا ہے اس وجہ سے کہ وہ اپنے بعض بشری قوی سے دستبردار ہو چکا ہوتا ہے۔ اس ملفوظ سے معلوم ہوا صوفیت انسان کے ہوش و حواس کھو جانے اور اس کے پاگل اور حمق ہو جانے کا نام ہے اسی وجہ سے یہ صوفی غلظ گندی و بد بودار چیز کو خشبودار اور مزے دار سمجھ کر کھا جاتا ہے۔

اس وجہ سے صوفی پاخانہ کو حلوہ سمجھ کر مزے سے ہضم کر جاتا ہے صوفی امت کے حکیم الامت امداد المشتاق ص ۱۰۱ میں فرماتے ہیں ایک موحد سے (یعنی وحدۃ

نیاز زمان و مکان پر حکمران پایا۔ انفاس العارفین ص ۲۱۲ شاہ ولی اللہ نے ان کا یہ ملفوظ بھی نقل کیا ہے۔

شیخ یاقوت عرشی کی وجہ تسمیہ

اس عنوان کے تحت شاہ صاحب فرماتے ہیں فرمایا یعنی شیخ ابوالرضا نے فرمایا شیخ یاقوت جبشی کے عرشی کھلانے کی وجہ تسمیہ شاید یہ ہے کہ انہوں نے ارض و سموات اور حدود و امکان سے گزر کر عرش وحدت مقام وحدت سے دامنی وابستگی حاصل کر لی تھی ورنہ دل کا مستقل طور ہی سہی عرش کی طرف متعلق و متوجہ ہونا کوئی کمال نہیں کیونکہ اہل تصوف کا پہلا قدم مساوائے حق اور جملہ عرش و مانیہ کے خیالات سے گزر جانا ہے کاتب الحروف شاہ ولی اللہ کے نزدیک یہ بھی ممکن ہے کہ شیخ یاقوت کی نسبت عرشی کے ساتھ اس سبب سے نہ ہو کہ ان کے علم کا حدود اربعہ ان کی بلند ہمتی کے سبب عرش حق ہے کیونکہ یہ بات بھی ان کے کمال کی نفی کرتی ہے بلکہ یہ نسبت ان معنوں میں ہو کہ بخلی ذات حق کے بعد وہ اور عرش ایک ہو کر رہ گئے۔ اس مناسبت سے کہ عرش حق کی طرح ان کا وجود بھی انوار و تجلیات حق کا مظہر اتم بن گیا انفاس العارفین ص ۲۱۲-۲۱۳۔

اس ملفوظ کا خلاصہ یہ ہے کہ یاقوت جبشی کو عرشی کہنے کی وجہ بقول شاہ ولی اللہ یہ نہیں کہ اس نے زمین و آسمان سے گزر کر عرش سے دامنی تعلق پیدا کر لیا تھا بلکہ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ وہ عرش کی طرح اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مکمل مظہر بن گیا

حوالے پیش کئے اور عقلیٰ نقلیٰ دلائل دئے مگر اس تمام بحث کے دوران وحدۃ الوجود کی اصطلاح کو ذکر نہیں کیا انہوں نے تمام دلائل قبول کرنے کو یا خلاصہ یہ نکلا کہ لفظوں کے پیجاري علماء کا اکثر تعصب لفظوں سے ہوتا ہے انفاس العارفین ص ۲۱۷۔ اس سے صاف عیاں ہے کہ شاہ ولی اللہ بھی وحدۃ الوجود کے قائل تھے۔

مسئلہ توحید خالی کتابوں سے حل نہیں ہوتا

اس عنوان کے تحت شاہ صاحب لکھتے ہیں فرمایا یعنی شیخ ابوالرضاء نے فرمایا توحید کے موضوع پر کچھی گئی کتابوں کا مطالعہ ریاضت و انجذاب کے بغیر فائدہ نہیں پہنچاتا کیونکہ کتابوں کا مطالعہ عملی مشق کے بغیر تیر کے سوا تیر چلانے کے متtrad ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان رسائل سے مطلوب کی تائید ہو جاتی ہے انفاس العارفین ص ۲۱۷۔

میں کہتا ہوں اس ملفوظ سے تبلیغی جماعت کے خروج کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے کیونکہ یہ جماعت تعلیم و تعلم و درس تدریس کے مرکز کو چھوڑ کر خروج پر زور دیتی ہے اس کی وجہ اس ملفوظ میں بیان ہوئی ہے کہ خالی کتابوں کے پڑھنے سے توحید منکشف نہیں ہوتی یعنی وحدت الوجود والی توحید یہ توحید ریاضت و مجاهدت انجذاب یعنی بشری حدود و قیود سے نکل کر عالم سکر و مد ہوشی میں پہنچ کر اس توحید کا اکتشاف ہوتا ہے اس بات کے ثبوت میں کہ صوفی کا دوسرا نام احق و مجنون

الوجود کے عقیدے والے سے) لوگوں نے کہا کہ اگر حلوہ اور غلیظ گوہ ایک ہیں تو دونوں کو کھاؤ انہوں نے بیشکل خنزیر ہو کر گوہ کھالیا پھر بصورت آدمی ہو کر حلوہ کھالیا اس کو حفظ مراتب کرتے ہیں جو واجب ہے اشرف علی صاحب اس پر یہ حاشیہ چڑھاتے ہیں قول انہوں نے بیشکل خنزیر ہو کر گوہ کھالیا، اقول اس کی معترض کی غباوتوں کے سبب اس تکلف و تصرف کی ضرورت پڑی ورنہ جواب ظاہر ہے کہ یہ اتحاد مرتبہ حقیقت میں ہے نہ احکام و آثار میں۔

صوفی اللہ تعالیٰ کو دنیا میں اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح مومنین قیامت میں دیکھیں گے۔

شاہ ولی اللہ انفاس العارفین ص ۲۱۵ میں فرماتے ہیں فرمایا اہل اللہ کو دنیا میں وہ کچھ حاصل ہوتا ہے جو کہ دوسروں کو قیامت میں عطا ہوگا وہ ذات باری کو واشگاف واشکال سے منزہ بالکل روز قیامت میں دیدار حق کی طرح دنیا میں اچھتی ہوئی بچلی کی صورت میں دیکھتے ہیں اور ان میں سے بعض اس سے بھی زیادہ اور کچھ متواتر دیدار عام کرتے ہیں۔

لفظوں کے پیجاري علماء

اس عنوان کے تحت شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں فرمایا میں نے عرفاء و علماء کی ایک بڑی مجلس میں مسئلہ وحدت الوجود ثابت کر کھایا عقائد متكلمین پر مبنی عبارات کے

میری حرارت کو ٹھنڈا کر دیا ہے۔

کشف ذات

شاہ صاحب انفاس العارفین ص ۲۲۸ پر لکھتے ہیں۔

حضرت شیخ نے فرمایا جس کے سامنے سے پردے اٹھ گئے ہوں تو وہ اپنے پروردگار کو اپنی روح میں دیکھتا ہے اور اسی کو کشف ذات کہتے ہیں۔

صوفی کا یہ بیان اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے عقیدے میں اس کی روح خداوند تعالیٰ کی روح ہے یعنی اس کی مخلوق روح نہیں بلکہ رب تعالیٰ کی اپنی ذاتی روح ہے اس اعتبار سے یہ صوفی اپنے باطن میں خداوند تعالیٰ ہے۔

نحو ذ بالله من ذالک۔

ہمہ اوست

شاہ صاحب انفاس العارفین ص ۲۳۱ میں فرماتے ہیں قدماء میں کسی کا شعر ہے۔
 رق الزجاج و رقت الْخَرْشِيشَةِ و شراب دونوں شفاف و باریک ہیں یعنی مظاہر جو کہ بکنزلہ شیشہ کے ہیں صاف و شفاف ہے اور محبوب مستور جو کہ بکنزلہ شراب کے ہے وہ بھی غایت درجہ شفاف ہے۔ فتشابھا و تشاکل الامر تو دونوں میں ایسی مشاہدت پیدا ہو گئی کہ تمیز کرنا مشکل ہو گیا۔ اور صفائی و باریکی کے لحاظ سے ایک دوسرے کے رنگ میں اس طرح ظاہر ہوا کہ لوگوں کی نظرؤں کے لئے

ہے یہ ملفوظ پڑیے شاہ صاحب انفاس العارفین ص ۲۱۷ میں لکھتے ہیں۔

فرمایا ایک روز میں نے وضو کرنا چاہا کہ اسی دوران کچھ غنوڈگی سی طاری ہو گئی بعد میں میرے دل میں یہ القاء ہوا کہ یہ مدت غنوگی نوسوہزار برس کے برابر تھی کاتب الحروف (یعنی شاہ صاحب) کہتا ہے کہ طویل تر زمانوں کو ایک پل کی صورت میں پانادر اصل فنا کے حقیقت میں مل جانے سے پیدا ہوا۔

لخ صوفی کا یہ ملفوظ اس کے ہوش و حواس میں ہونے کی حالت میں ناممکن ہے ایک پل ایک پل ہوتا ہے۔ اس کو ہزار برس کہنا کسی مجنوں کی بڑی کسو اور کیا ہے۔

صوفی کا نور جہنم کو ٹھنڈا کر دے گا۔

ولی اس دنیا میں جلایا جاتا ہے اور تلوار سے قتل کیا جاتا ہے مگر روز قیامت اس کا معاملہ اس کے بر عکس ہو گا آگ بزبان حال پکاری گی۔ بجز یا مومن فان نور کی یطفی لہبی۔ اے مومن جلدی گزر جا کہ تیرے نور کی کی پیٹ میرے شعلے کی بھڑک کو ٹھنڈا کر رہی ہے۔ انفاس العارفین ص ۲۸ یعنی صوفی اپنے وحدت الوجود - انا الحق - میں خدا ہوں کے عقیدے کی وجہ سے اسلامی سزا پا کر دنیا میں قتل کیا جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اپنے اس عقیدے کی بنا پر حقیقی طور پر مرتد ہو جاتا ہے بلکہ وہ اس دعویٰ کے باوجود روز قیامت ایسے مقام پر ہو گا کہ جہنم پکار کر کہے گی اے مومن جلدی گزر جا کیونکہ تیرے نور نے

جمال حقیقی سے مشرف نہیں ہو پاتا حضرت شیخ نے مسکرا کر فرمایا کہ اماں میں خون ہی تو ہوتا ہے جو حسن کی صورت میں جلوہ گر ہوتا ہے اگر ان کا خون خارج کر دیا جائے تو کوئی ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے۔

حقیقت محمد یہ۔ جسے تم محمد کہتے ہوں وہ ہمارے نزدیک خدا

ہے

شah ولی اللہ^۲ انفاس العارفین ص ۲۳۲ میں لکھتے ہیں فرمایا کبھی تکرار کلمہ لا الہ الا اللہ یا محض جذبے سے ہی تو حیدر شہودی کے تصور کا معنی حاصل ہو جاتا ہے مگر اس کا اعتبار نہیں عین القضاۃ ہمدانی کی اس شطح کہ آں را کہ شما خدا میدانید نزدیک ماحمد است آنکہ شما محمد علیہ السلام میدانید نزدیک خدا است۔ جسے تم خدا جانتے ہو میرے نزدیک وہ محمد علیہ السلام ہے اور جسے تم محمد علیہ السلام کہتے ہو وہ میرے نزدیک خدا تعالیٰ ہے کہ بیان میں فرمایا چونکہ آنحضرت حضرت وجود (اللہ تعالیٰ) کا آئینہ اور اس کا مظہر اتم ہے اور حقیقت محمد یہ یعنی اول و جامع تعییات و مظاہر ہے اور تمام کائنات کا ظہور ان کے نور سے ہوا ہے اس اعتبار سے عین القضاۃ ہمدانی نے مذکورہ بات کی ورنہ حضرت وجود (اللہ تعالیٰ) تو ہر ذرے میں یکساں طور پر جلوہ گر ہے اور وحدت معنی کے باوجود تکرار لفظ تو محض تلفظ عبارت ہے۔ اس ملفوظ کی شرح کی ضرورت نہیں اس میں وحدت الوجود اور محمد علیہ السلام کے خدا

مشکل آن پڑی فکانہ ماخمر لا قدح جیسے شراب ہے شیشه نہیں گویا کہ شراب ہے جو مجدد ہے اور پیانے کے وجود نہیں و کانہما قدح ولا حمر، گویا پیانے ہے شراب نہیں اور اس طرح کسی نے کہا ہے۔

ان شیئت قلت حق لا خلق و ان شیئت قلت خلق لا حق
اگر تو چاہے تو کہے کہ حق ہے خلق نہیں اور اگر چاہے تو کہے کہ خلق ہے حق نہیں۔ یہ بھی وحدۃ الوجود پر مشتمل کلمات ہیں۔

اللہ کی طرف سب سے قریب راستہ

بغیر داڑھی - خوبصورت - نابالغ لڑکوں کی طرف دیکھنا ہے۔

شah صاحب انفاس العارفین ص ۲۳۲ میں لکھتے ہیں کسی نے حضرت شیخ کی خدمت میں بعض متصوفین کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اقرب الطرق الى الله رؤية الاماراد۔

آپ کے اس قول کی تشریح میں فرمایا کہ شاید ان کی مراد یہ ہو کہ کائنات کی تمام محسوس اشیاء میں۔ اماں دے ریش لڑکوں کی شکل و مشاہدہ بہت مناسب ہوتی ہے اور ان کی جانب نفس کامیلان بھی زیادہ ہوتا ہے اس اعتبار سے اماں میں روئیت حق کا مشاہدہ زیادہ آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے اور جن مشائخ نے اس کو برائنا ہے ان کے پیش نظر یہ خطرہ موجود تھا کہ اماں کو دیکھنے سے سالک عالم شہادت ہی میں محدود ہو کر رہ جاتا ہے اور کئی دیگر آفات کے خدشے کی بنا پر

تمام کائنات میں جاری و ساری ہے یعنی انسانوں و جنات و ملائکہ و شیاطین و حیوانات مثل کتوں و خزروں اور گدھوں میں ایک ہی روح ہے اور یہ روح امراللہی ہے جیسا کہ مولوی شبیر احمد عثمانی صاحب دیوبندی کے کلام میں گذرچکا ہے اس مفہوم میں کہا گیا ہے کہ عبدالقادر جیلانی صاحب اس جگہ سے علوم و فیوض لیتے تھے جہاں سے انبیاء لیتے ہیں اس لئے وہ ہمارے نبی محمد ﷺ کے لائے دین سے کچھ لینے کے محتاج نہیں تھے وہ اس قرآن کے تابع بھی نہیں تھے اور رسول اللہ ﷺ کی احادیث ان کے لئے ہدایت کا باعث نہیں تھی نعوذ بالله من الضلال یہ ہے صوفیت کی حقیقت۔

شاہ ولی اللہ اور صوفیت

شاہ ولی اللہؒ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مذکورہ حوالہ جات جو صوفیت اور عقیدہ وحدت الوجود یا وحدۃ الشہود پر دلالت کرتے ہیں یہ ان کی وہ تحریرات ہیں جو ان کے حج پر جانے سے پہلے انہوں نے لکھی تھی اور حج سے واپس آنے کے بعد انہوں نے ایسی تمام باتوں سے رجوع کر لیا تھا اور وہ صحیح العقیدہ ہو گئے تھے یہ بات میں نے جماعت اہل حدیث سے تعلق رکھنے والے احباب سے سنی لیکن یہ تحریرات جو میں نے نقل کی ہیں ان کی کتاب انفاس العارفین سے ماخوذ ہیں اور انفاس العارفین ان کی حج کے بعد کی تالیف ہے اس کتاب کے آخر میں وہ لکھتے ہیں۔

ہونے میں صاف اور واضح ہے یہی ہر صوفی کا عقیدہ ہے۔

صوفیاء کے قول سید عبدالقادر جیلانی کی مجلس میں انبیاء واولیاء تشریف لا یا کرتے تھے کا مطلب

شاہ صاحب انفاس العارفین ص ۲۲۸ میں فرماتے ہیں سید عبدالقادر جیلانیؒ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ کی مجلس میں انبیاء کرام واولیاء عظام تشریف لا یا کرتے تھے کی تاویل میں فرمایا کہ حضرت عبدالقادر حقيقة روح جو کہ تمام کائنات میں جاری و ساری ہے سے واصل تھے اس لئے آپ اسی مرکز و منع ہدایت سے گفتگو وعظ و تبلیغ فرمایا کرتے تھے جہاں سے دوسرے اولیاء کرام یا انبیاء فیضان حاصل کرتے ہیں۔ اس بات کو تسامح کے ساتھ اس طرح بیان کیا گیا کہ آپ کی مجلس میں انبیاء کرام تشریف لاتے تھے۔

اس مفہوم میں دو باتیں قبل غور ہیں (۱) عبدالقادر جیلانی صاحب اس حقیقت روح سے واصل تھے جو تمام کائنات میں جاری و ساری ہے۔ (۲) یہی روح مرکز ہدایت و منع فیضان ہے۔

اس سے کون سی روح مراد ہے یہ رب تعالیٰ کی روح ہے جو مخلوق نہیں یہی روح تمام کائنات کی متصرف اور کنٹرول کرنے والی ہے اور یہ روح تمام کائنات کی حیات بھی ہے اس روح سے دنیا کی ہر چیز زندہ ہے اور یہی روح یکساں طور پر

اربعہ اور ان کے اصول نفہ کی کتابوں اور ان احادیث جن سے وہ استدلال کرتے ہیں کے مطالعہ کے بعد مجھے نور بصیرت سے معلوم ہوا کہ فقہاء محدثین کی روشن ہی اختیار کی جائے بہر حال شاہ صاحب سے یہ تو ثابت ہو گیا کہ آپ طریقہ صوفیت پر تھے اور اگر کسی جگہ سے یہ ثابت ہو جائے کہ شاہ صاحب نے اس طریقے سے رجوع کر لیا تھا تو نبہا ورنہ ان کو اسی راستے کا سالک سمجھا جائے گا۔ شاہ صاحب کے علاوہ شیخ عبدال قادر جیلانیؒ اور امام غزالیؒ کو بھی اسی راستے پر گام زدن پایا گیا ہے صاحب کتاب *الکشف عن حقیقت الصوفیاء* نے ان دنوں بزرگوں کی کتابوں سے ثابت کیا ہے کہ یہ حضرات بھی صوفیت کے طریقے پر تھے شاہ ولی اللہؒ کی طرح شیخ عبدال قادر جیلانیؒ کے بعض مسائل کی وجہ سے جن میں انہوں نے محدثین کے مسلک کو ترجیح دی ہے بعض لوگوں نے ان کو صحیح المقادیدہ سمجھ لیا ہے حالانکہ یہ بات ان کے عقیدہ صوفیت پر نہ ہونے کی دلیل نہیں صوفیت کا تعلق اعتقادی مسائل سے ہے اس لئے کسی شخص کا صوفی وحدت الوجود اور وحدت الشہود والے عقیدے پر ہونا اور اس کا آمین بالجھر و رفع یہ دین پر عمل کرنا اور امام کے پیچھے سورہ الفاتحہ پڑھنا و مقتضاد امر نہیں ہو سکتے۔

الکشف عن حقیقتیة الصوفیاء کی پانچویں فصل میں صوفیوں کی تکفیر کا عنوان قائم کیا ہے اس فصل میں انہوں نے ان صوفیوں کا ذکر کیا ہے جن کے کافر ہونے پر علماء اسلام نے فتویٰ دیئے تھے اس فصل میں انہوں نے لکھا ہے۔

اس بارہ سال کے عرصے کے بعد میرے سر میں حرمین شریفین کی زیارت کا سودا ہما یا ۱۴۳۲ھ کے اوآخر میں حج کی سعادت سے مشرف ہوا اور ۱۴۳۳ھ میں مجاورت مکہ مکرہ زیارت مدینہ شیخ ابو طاہر قدس سرہ اور دوسرے مشائخ حرمین سے روایت حدیث کا شرف حاصل کیا اسی دوران حضرت سید البشر علیہفضل الصلوات واتم التحیات کے روضہ اقدس کو مرکز توبہ بنانے کر فیوض حاصل کئے علماء حرمین اور دیگر لوگوں کے ساتھ دلچسپ صحبتیں رکھیں اور شیخ ابو طاہر سے خرقہ جامعہ حاصل ہو گیا جو بلاشبہ تمام اسلامی خرقوں کا جامع ہے اسی سال کے آخر میں فریضہ حج ادا کیا ۱۴۲۵ھ میں عازم وطن ہوا اور اسی سال بروز جمعہ ۱۴۲۶ھ ارجب المرجب صحیح سالم وطن پہنچ گیا اس سے تھوڑا آگے ان کے یہ الفاظ ہیں اور طریقہ سلوک جو خداۓ بزرگ و برتر کے نزدیک بہت پسندیدہ ہے اور جسے اس دور میں رائج ہونا ہے وہ مجھے الہام کیا گیا جسے میں نے اپنے دور سالوں لمعات اور الطاف القدس میں قلم بند کر دیا ہے۔

شاہ صاحب کے یہ الفاظ اور طریقہ سلوک صوفیت کے طریقے کی طرف اشارہ کرتے ہیں شاہ صاحب کی کتاب انفاس العارفین سے تو یہی مترشح ہوتا ہے کہ وہ اس کتاب کی تالیف تک طریقہ صوفیاء پر تھے ہاں البتہ مسائل فہریہ میں شاہ صاحب نے محدثین کے مذہب کو ترجیح دی ہے اور تقلید کو انہوں نے ترک کر دیا تھا اس بات کا ذکر اس کتاب میں بھی ہے ان کے الفاظ یہ ہیں مذاہب

اور شیخ احمد بن رفای پر کفر والحاد فتوی لگایا گیا اور شہاب الدین سہروردی (یحیی بن جبش) کو حلب میں زندقی ہونے پر قتل کر دیا گیا شیخ عبدال قادر جیلانیؒ کی قبر کو اکھیر کراس کی ہڈیاں نکالی گئیں اور دریائے دجلہ میں پھینک دی گئیں۔

یہ لوگ جن کا ذکر ہوا اور زندیقت و کفر والحاد کے عقیدے کی بنا پر قتل کئے گئے ان میں سے بہت آج دنیا کی نگاہوں میں بڑے اولیاء سمجھے جاتے ہیں ان کا تذکرہ اولیاء پر لکھی گئی کتابوں میں ملتا ہے جو لوگ ان کو اولیاء و بزرگان سمجھتے ہیں وہ انہیں کی طرح زندیقت والحاد کا عقیدہ رکھتے ہیں مثال کے طور پر مشہور زندق ابن عربی الصوفی مؤلف فصوص الحکم اور فتوحات الملکیۃ کو جماعت تبلیغ کے امام و پیشوای مولوی زکریا صاحب تبلیغی نصاب و فضائل اعمال میں شیخ قدس سرہ لکھتے ہیں اور حلاج جیسے مخدوں زندق کو دیوبندیوں کے پیرو مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی نے فتاویٰ رشید یہ میں ۱۰۸ میں ولی اللہ لکھا ہے۔ اولیاء میں صدقیق کے درجے تک پہنچنے کے لئے زندقی ہونا

شرط ہے

شیخ ظفر احمد صاحب عثمانی دیوبندی اعلاء السنن ج ۳ ص ۲۱ میں لکھتے ہیں۔

فَلَتْ وَالْعَجَبُ الْعِجَابُ إِنْ بَعْضَ الْمُحَدِّثِينَ قَدَّا تَهْمُوْهُ بِالْكَذْبِ
وَلَقَدْ صَدَقَ مِنْ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ لَا يَلْعُجُ دَرْجَةَ الصَّدِيقِيْنَ حَتَّىٰ يُرْمِيْهُ

ابو یزید بسطامی کو ان کے شہر سے سات بار جلاوطن کیا گیا اور ذوالنون مصری کو مصر سے ہٹھکریاں لگا کر بغداد لا یا گیا ان کے ساتھ گواہوں کی ایک جماعت تھی جنہوں نے ان کے زندقی ہونے کی شہادت دی۔

اسی طرح ایک اور صوفی سمنون الحب کے بارے میں خلیفے نے ان کی گردن مارنے کا حکم جاری کیا اور مشہور صوفی ابوسعید الحزاڑ پر علماء وقت نے کفر کا فتوی لگایا اور زندیقت والحاد پر حلاج کو قتل کر دیا گیا۔

اور جنید بغدادی پر بہت دفعہ کفر کا فتوی لگایا گیا مگر انہوں نے فقہی مسائل میں پڑکراپنے آپ کو صوفی نہیں فقیہ طاہر کیا اور اپنے باطن میں صوفیت کو چھپا لیا اس بنا پر قتل سے بچ گئے۔

علماء اسلام نے سیکی کے اوپر کتنی بار کفر کا فتوی لگایا امام ابو بکر بن بلسی کو مغرب سے ہٹھکریاں لگا کر نکالا گیا مصر میں بادشاہ کے سامنے شہادتیں دی گئیں زندہ حالت میں اس کا چجز اتنا تارا گیا پھر قتل کیا گیا یا قتل کے بعد اس کا چجز ادا دھیڑا گیا۔

علماء اسلام نے امام غزالی کی کتاب احیاء العلوم کو جلا دیا اور اس کے اوپر کفر کا فتوی لگایا گیا امام غزالی کی کتاب کے جلانے کے فتوی دینے والے قاضی عیاض اور امام ابن رشد جیسے علماء وفقہا تھے ابو الحسن شاذلی کو مغرب سے نکال دیا گیا اور مصر کے شہر اسکندریہ کے گورنر کو علماء نے لکھا کہ ایک زندق مغرب سے تمہاری طرف آنا چاہتا ہے۔

سبعون صدیقاً مثله بالکفر والزندقة و هكذا سنة الله في أولياء. بڑے تجرب کی بات یہ ہے کہ بعض محدثین نے حسن بن زیاد لولوی پر کذب ہونے کی تہمت لگائی ہے سچ کہا اس نے جس کا یہ قول ہے کوئی شخص اولیاء میں صدقیوں کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا جب تک ستر صدیق اولیاء اس کے اوپر کفر و زندق ہونے کی تہمت نہ لگادیں اللہ کے اولیاء میں اس کی یہی سنت جاری و ساری ہے مولوی ظفر احمد صاحب عثمانی کے اس بیان سے واضح ہے کہ کسی شخص کے صدقیقین کے درجے تک پہنچنے کے لئے یہ شرط ہے کہ وہ ایسے اعمال کرے جو شریعت اسلام میں کفر و زندقیت تک ہوں ان کفر و الحاد کے اعمال کر لینے کے بعد ایک صدیق کے فتویٰ سے کہ وہ زندق ہے صدقیق نہیں بنے گا بلکہ ستر صدقیقیوں کی اس قسم کی شہادت درکار ہوگی۔

حسن بن زیاد لولوی امام ابوحنیفہ کے شاگردوں میں سے ہے حنفی مذهب کے بڑے فقیہاء میں اس کا شمار ہوتا ہے حافظ ابن حجر نے لسان المیزان میں ح ۲۰۹ یہ لکھا ہے امام ابو داؤد حسن بن علی الحلوانی سے نقل کرتے ہیں میں نے حسن بن زیاد لولوی کو نماز میں دیکھا جب وہ سجدہ میں گیا تو اپنے برابر والے لڑکے کا بوسہ لیا اور احمد بن سلیمان الرہاوی کہتے ہیں میں نے اس کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے جب وہ سجدہ میں جاتا تو برابر والے لڑکے کے رخسار کی چٹکیاں لیتا یعنی بے ریش لڑکے کے رخساروں پر ہاتھ پھیرتا یہ عمل زیادہ تر لوٹی (لوٹ علیہ)

السلام کی قوم کا عمل کرنے والے) کرتے ہیں۔

اولیاء اللہ اپنی ولایت چھپانے کے لئے گناہ کرتے ہیں مولوی اشرف علی صاحب نے امداد المشاق ص ۳۶۹ میں لکھا ہے ایک شخص نے حاضرین سے عرض کیا کہ صوفی کون ہے اور ملامتی کون فرمایا صوفی وہ ہے کہ سوائے اللہ کے دنیا و خلق سے مشغول نہ ہو اور ردِّ قبول مخلوق کی پرواہ نہ کرے اور مدح و ذم اس کے نزدیک برابر ہو اور ملامتی وہ ہے کہ نیکی کو چھپائے اور بدعت کو ظاہر کرے یعنی لوگوں کے سامنے عبادت میں مشغول نہ ہو بلکہ اس کے مقابلے میں برائی میں مشغول ہو اس لئے صوفیاء عشق و معاشرة میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں غیر محروم عورتوں اور بے ریش لڑکوں کے ساتھ براہی میں مشغول رہتے ہیں۔

الکشف عن حقیقت الصوفیاء ص ۳۵۵ میں ہے فرقہ ملامتیہ حمدون القصار کی طرف منسوب ہے یہی اس کا بانی ہے اور اس فرقہ کی نشوونما حمدون القصار کے شاگرد عبداللہ بن منازل سے ہوئی یہ شخص ۳۲۹- یا ۳۰۳ میں نیشاپور میں فوت ہوا۔ یہ فرقہ اپنے آپ کو ملامت کرنے کی وجہ سے ملامتیہ کہلاتا ہے اس فرقے کے لوگ شریعت کی مخالفت کے کام کرتے ہیں جانوروں کے ساتھ برابر فعل کرنا، ثراب پینا افیون اور نشہ آور چیزوں کا استعمال کرنا چوری کرنا ان کے معمولات ہیں۔ یہ لوگ اس طریقے سے اپنی ولایت اور صدقیقت کو چھپاتے ہیں۔